بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

أَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَوٰهُ سورۃ فرقان آیت ۴۳

اسلام کے نام پر ہوی پرستی

یعنی

کیپٹن مسعود الدین عثمانی کراچی والے کے نظریات کا مکمل مدلل علمی اور تحقیقی محاسبہ

تالیف

یادگار اسلاف حضرت علامہ **نور محمد تونسوی** صاحب

ناشر
جامعہ عثمانیہ [illegible]
رحیم یار خان

نام کتاب: اسلام کے نام پر ہوی پرسی
مؤلف: علامہ نور محمد تونسوی صاحب
مدیر جامعہ عثمانیہ ترنڈہ محمد پناہ رحیم یار خان
اشاعت اول: اگست 2006ء
تعداد: 1100
صفحات: 560
ہدیہ: 290
ناشر: جامعہ عثمانیہ ترنڈہ محمد پناہ رحیم یار خان

قارئین کی خدمت میں

کتاب ہذا کی تیاری میں تصحیح کتابت کا خاص اہتمام کیا گیا ہے اگر پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو التماس ہے کہ ضرور مطلع فرمائیں تا کہ آئندہ ایڈیشن میں ان اغلاط کا تدارک کیا جا سکے۔

بندہ نور اللہ رشیدی

نمبر شمار	فہرست مضامین	صفحہ
❖	پیش لفظ:	۱۸
❖	سبب تالیف کتاب:	۲۱
☆	کفار کے ناپاک عزائم:	۳۶
☆	قرآن کریم کی پانچ آیتیں:	۳۶
❖	فتنہ، فرقہ اور فتنہ پردازوں، فرقہ سازوں کے متعلق پیش گوئیاں ...	۳۹
❖	اس کے بارے میں اُنسٹھ حدیثیں:	۳۹
❖	مذکورہ بالا احادیث کا خلاصہ:	۷۴
❖	اہل السنّت والجماعۃ اور فرقہ بندی:	۷۶
❖	قرآن مجید میں سلف صالحین کی جماعت کی پیروی کا حکم	۷۸
❖	اس پر سات آیات:	۷۹
❖	جماعت قرآنی کے منکر آیات قرآنی کے منکر ہیں	۸۸
❖	وضاحت کیلئے ایک مثال:	۸۹
❖	قرآن اور جماعت قرآن دونوں کی پیروی کی صحیح صورت	۹۰
❁	قرآن مجید کی تفسیر میں اپنی مرضی اور من مانی کرنے کا انجام	۹۱
✻	کیا قرآن مجید میں ہر مسئلہ کا واضح جواب موجود ہے؟	۹۴
❁	تبیانا لکل شیء کا مطلب:	۹۵
❖	کتاب اللہ میں مرضی اور من مانی کرنا یہود کا طریقہ ہے	۹۸
❖	اس پر تین آیات:	۹۸
❖	اللہ تعالی پر افتراء یہودیوں کا کام ہے:	۱۰۰
❖	قرآن کے مدعیوں کی حقیقت:	۱۰۱

نمبر شمار	فہرست مضامین	صفحہ
❉	قرآن کے چار اصولوں کی اہمیت وافادیت:............	۱۰۲
✥	کیا قرآن آسان ہے؟:............	۱۰۳
○	الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے:............	۱۰۶
☐	اہل سنت اور اہل بدعت:............	۱۰۷
✥	ایک اور پہچان:............	۱۱۰
☐	کیا صحیح حدیثیں قرآن کی خلاف ہوتی ہیں؟:............	۱۱۱
✥	جو کام ہو چکا ہے اب دوبارہ اس کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے	۱۱۲
⁘	نام نہاد قرآنیوں کی ایک اور جہالت:............	۱۱۴
✥	اہل ہوئی کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی:............	۱۱۵
○	اس پر چار آیات:............	۱۱۶
✠	فتنوں اور فرقوں کی بارش:............	۱۱۷
❉	مقصد تالیف:............	۱۱۸
⌘	کیپٹن مسعود الدین قرآن کا منکر تھا:............	۱۲۰
❉	اس پر چھ آیات:............	۱۲۰
✹	مسعودیوں کی حماقت:............	۱۲۳
❐	اولا:............	۱۲۳
✎	ثانیا:............	۱۲۳
◉	ثالثا:............	۱۲۴
❉	سات مزید آیات کا انکار:............	۱۲۵
◉	آیت نمبر: ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷:............	۱۲۵

نمبر شمار	فہرست مضامین	صفحہ
✥	مزید چار آیات کا انکار:............	۱۲۷
✥	مشرکانہ ذہنیت اور آیات کثرہ کا انکار:............	۱۲۹
✥	دو دعوے اور ایک دلیل:............	۱۳۱
✥	قدرت باری تعالیٰ کو رد کرنے کے لئے ایک بہانہ............	۱۳۱
✥	ایک چیلنج:............	۱۳۲
✥	غلط فہمی کا ازالہ:............	۱۳۲
✥	کیپٹن صاحب نے آیت کا غلط مطلب بیان کیا:............	۱۳۴
✥	کیپٹن صاحب کی کوتاہ فہمی:............	۱۳۶
✥	مردے کہاں سے اٹھیں گے؟:............	۱۳۷
✥	کیپٹن صاحب نے حدیث کا غلط مطلب بیان کیا:............	۱۳۸
✥	سات جواب:............	۱۳۹
✥	**تنبیہ**:............	۱۴۴
✥	مزید ایک آیت کا انکار:............	۱۴۴
✥	پچاس سے زائد آیات کا انکار:............	۱۴۵
✥	تین موتیں، تین حیاتیں:............	۱۴۵
✥	کیپٹن مسعود الدین عثمانی کے نزدیک ہم تک قرآن مجید غیر مسلم	
✥	ہاتھوں سے پہنچا:............	۱۴۷
✥	قرآن کا محافظ اللہ تعالیٰ ہے:............	۱۴۸
✥	(۲) کیپٹن مسعود الدین عثمانی آیات قرآنیہ کا غلط مطلب بیان	
✥	کرتا ہے:............	۱۴۹

نمبر شمار	فہرست مضامین	صفحہ
❖	مثال اول:	۱۵۰
❖	تعلیم قرآن پر اجرت لینا جائز ہے:	۱۵۲
❖	مثال دوئم:	۱۵۲
❖	مثال سوئم:	۱۵۳
❖	آیت نمبر:۱:	۱۵۴
❖	آیت نمبر:۲:	۱۵۴
❖	کیپٹن مسعود صاحب کے شبہ کا جواب:	۱۵۵
❖	مثال چہارم:	۱۵۷
❖	کیپٹن صاحب نے مرزا غلام احمد قادیانی کی تائید کی	۱۵۸
❖	کیپٹن صاحب کا معنی خود کیپٹن صاحب کے معنی کے مخالف ہے	۱۵۸
❖	مثال پنجم:	۱۵۹
❖	کیپٹن صاحب کا عقیدہ قرآن مجید سے ثابت نہیں	۱۶۰
❖	برزخی روح:	۱۶۱
❖	آل فرعون کون تھے؟ جسد عنصری یا جسد برزخی	۱۶۱
❖	مجرم کون؟ جسد عنصری یا جسد برزخی	۱۶۲
❖	جسد عنصری صرف آلہ نہیں بلکہ شریک کار ہے	۱۶۲
❖	کیپٹن صاحب کی ایک حماقت	۱۶۳
❖	(۳) کیپٹن صاحب قرآن مجید کی تحریف کرتا ہے	۱۶۴
❖	(۴) کیپٹن صاب اللہ تعالی پر افترا کرتا ہے	۱۶۵
❖	(۵) کیپٹن عثمانی احادیث صحیحہ کا انکار کرتا ہے	۱۶۷

نمبر شمار	فہرست مضامین	صفحہ
❖	(۶) کیپٹن عثمانی فروعی مسائل میں تشدد کرتا ہے	۱۶۸
❖	(۷) کیپٹن عثمانی اللہ تعالی کی توحید میں غلو کرتا ہے	۱۶۹
❖	کیپٹن عثمانی کے پاس نہ قرآن ہے نہ حدیث، بلکہ تاویلیں ہیں...	۱۷۰
❖	(۸) کیپٹن صاحب حدیثوں کی تحریف کرتا ہے	۱۷۰
❖	مثال اول:	۱۷۱
❖	حدیث بخاری:	۱۷۲
❖	کیپٹن صاحب برزخ کے مفہوم سے نابلند ہیں	۱۷۴
❖	قرآن مجید کی ایک آیت کا صحیح مطلب	۱۷۵
❖	قانون خداوندی کیا ہے؟ روح جسم میں نہیں آتی یا مردہ دنیا میں	
❖	واپس نہیں آتا:	۱۷۷
❖	کیا بغیر روح کے عذاب وراحت بے معنی ہیں!	۱۷۸
❖	مجرم کون؟ دنیاوی جسم یا برزخی:	۱۸۰
❖	کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلی قبروں پر کھجوروں کی ٹہنی لگانا	
❖	ممکن نہ تھا؟:	۱۸۰
❖	معجزہ کیا ہے؟ عذاب کا ہونا یا عذاب کو دیکھنا	۱۸۲
❖	مثال دوئم: کیپٹن صاحب حدیث "کلام المیت علی	
❖	الجنازہ" کے معنی و مطلب کو مسخ کرتا ہے	۱۸۳
❖	مردوں کی زندگی تو خود کیپٹن صاحب بھی مانتا ہے	۱۸۷
❖	کیپٹن صاحب کی قرآن و حدیث پر اجارہ داری	۱۸۸
❖	میت کا کلام کرنا کوئی بعید بات نہیں	۱۸۹

نمبر شمار	فہرستِ مضامین	صفحہ
❖	الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے	۱۸۹
❖	نہ قرآن نہ حدیث بلکہ لوگوں کی باتیں	۱۸۹
❖	میت زبان حال سے بولتی ہے یا زبان قال سے	۱۹۱
❖	کیپٹن صاحب نے امام بخاری (رحمہ اللہ) پر بہتان اور جھوٹ باندھا	۱۹۳
❖	مثال سوئم، حدیث قلیب بدر کو ٹھکرانے کی ناپاک جسارت	۱۹۳
❖	کیپٹن صاحب نے علم میت تسلیم کر لیا	۱۹۶
❖	کیپٹن صاحب نے جھوٹ بولا	۱۹۶
❖	معجزہ کیا ہے؟ قبر کی زندگی یا اس کا دیکھنا	۱۹۷
❖	حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اور حملہ	۱۹۸
❖	مثال چہارم،	۱۹۹
❖	کیپٹن صاحب حدیث قرع نعال کی تحریف کرتا ہے	۱۹۹
❖	دروغ گو را حافظہ نباشد:	۲۰۲
❖	عذاب قبر مردہ کو ہوتا ہے یا زندہ کو؟	۲۰۳
❖	کیپٹن صاحب کی دوسری تاویل	۲۰۳
❖	جس کی تردید اسکی تائید	۲۰۴
❖	کیپٹن صاحب کے پاس قرآن وحدیث نہیں بلکہ تاویل ہی تاویل ہے	۲۰۵
❖	مسلم، غیر مسلموں کی تاویلات کا سہارا کیوں لیتا ہے؟	۲۰۵
❖	خلاصہ:	۲۰۵

نمبر شمار	فہرستِ مضامین	صفحہ
❖	مثال پنجم، کیپٹن صاحب خواب میں زیارت النبی ﷺ والی حدیث کو مسخ کرتا ہے	۲۰۶
❖	مثال ششم، کیپٹن نے حدیث میں موجود لفظ ''تمائم'' کا غلط معنی کیا	۲۰۸
❖	(۹) کیپٹن صاحب اللہ تعالیٰ کے نبی اور اصحاب نبی ﷺ کا گستاخ ہے:	۲۱۰
❖	حدیث	۲۱۱
❖	صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیپٹن صاحب کی گستاخانہ چڑھائی	۲۱۳
❖	صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کونسی بات قرآن وحدیث کے خلاف ہے؟	۲۱۶
❖	رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر کیپٹن کا گستاخانہ حملہ	۲۱۷
❖	اھجر استفھموہ کا معنی ومطلب	۲۱۹
❖	کیپٹن کی دورنگی چال، صحابہ کرام پر ایک طرف الزام، دوسری طرف دفاع	۲۲۱
❖	کاغذ نہ دینے کی علت کیا تھی؟ بحرانی حالت، یا آپ ﷺ کو آرام پہنچانا	۲۲۵
❖	کیپٹن نے ''سیاق الموت'' کا ترجمہ ''سکرات الموت'' کیوں کیا؟	۲۲۵
❖	ایک اور گستاخی	۲۲۶
❖	(۱۰) کیپٹن عثمانی احادیث نبویہ پر اعتراض بازی کرتا ہے	۲۲۸
❖	کیپٹن صاحب سے ایک سوال	۲۳۲
❖	(۱۱) کیپٹن صاحب پوری امت مسلمہ کو کافر کہتا ہے	۲۳۳

نمبر شمار	فہرست مضامین	صفحہ
❖	کیپٹن صاحب سے ایک سوال	۲۳۵
❖	کیپٹن صاحب اپنے اسلام اور قرآن کی سند بیان کرے	۲۳۶
❖	ایک قدم مزید آگے	۲۳۸
❖	پھر مزید ایک قدم آگے	۲۳۹
❖	چند قدم اور آگے	۲۴۱
❖	(۱۲) کیپٹن صاحب کافروں کے حوالجات دیگر رواۃ حدیث پر جرح کرتا ہے	۲۴۳
❖	(۱۳) کیپٹن مسعود الدین عثمانی جھوٹ بولتا ہے	۲۴۶
❖	سولہ جھوٹ	۲۴۶
❖	(۱۴) کیپٹن صاحب کی ابوالعجبیاں	۲۵۷
❖	سترہ عجیب وغریب	۲۵۷
❖	(۱۵) کیپٹن صاحب قرآن کے راویوں (قاریوں) پر بھی جرح کرتا ہے	۲۷۳
❖	مسئلہ:۔ ا،فرقہ کیا ہے؟ فرقہ پرست کون ہیں؟	۲۷۴
❖	تمہید:	۲۷۴
❖	علماء حق کی حیثیت	۲۷۵
❖	فرقہ کسے کہتے ہیں؟	۲۷۶
❖	فرقہ پرست اور فرقہ ساز کون ہیں؟	۲۷۷
❖	فرقہ بندی کا رونا روتے روتے فرقہ سازی کرنا	۲۷۷
❖	ایک ضروری انتباہ:	۲۷۹

نمبر شمار	فہرست مضامین	صفحہ
❖	مسئلہ نمبر:۲،کیا یہ لوگ اہل اسلام یا مسلمین ہیں؟	۲۷۹
❖	تمہید:	۲۷۹
❖	اہل السنّت والجماعت ہی مسلمین ہیں:	۲۸۱
❖	علماء دیوبند" کثر اللہ سواد ہم" اہل السنّت والجماعت	۲۸۱
❖	مسئلہ نمبر:۳،حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سارے مقامات سے افضل ہے	۲۸۲
❖	تمہید:	۲۸۲
❖	متشابہات:	۲۸۵
❖	فرقہ مجسمہ اور مشبہہ اور کرامیہ	۲۸۶
❖	اہل حق:	۲۸۶
❖	منور سلطان کی غیر مہذب تردید	۲۸۸
❖	کیا کسی شخص کو یا کسی چیز کو افضل کہنے سے مفضول کی تحقیر وتذلیل لازم ہے؟	۲۸۹
❖	منور سلطان کی آپے سے باہر ہو کر کذب بیانی	۲۹۱
❖	کیا عرش وکرسی اور کعبہ منسوب الی اللہ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف منسوب نہیں ہیں؟	۲۹۲
❖	کیا جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو جائے وہ انبیاء کرام سے بھی بڑھ جاتی ہے؟	۲۹۳
❖	مسعودی نے جھوٹ کیوں بولا بہتان کیوں اٹھایا؟	۲۹۳
❖	کیپٹن صاحب بھی حضور اکرم "صلی اللہ علیہ وسلم" کے مقام کو بلند	

نمبر شمار	فہرستِ مضامین	صفحہ
❖	وبالا سمجھتا ہے۔	۲۹۴
❖	علماء اسلام اور کیپٹن صاحب کے عقیدہ میں فرق	۲۹۵
❖	منور سلطان کا عقیدہ، مجسمہ اور مشبہہ فرقے والا ہے۔	۲۹۷
❖	منور صاحب کی دوسری تضاد بیانی	۲۹۸
❖	منور صاحب کا علماء دیوبند پر بہتان	۲۹۸
❖	کیا کیپٹن صاحب ''کرسی'' کو اپنا خالق وآقا سمجھتے ہیں	۲۹۹
❖	منور صاحب بھی حضور اکرم ''صلی اللہ علیہ وسلم'' کے مقام کو ''اعلی ترین'' کہتا ہے۔	۲۹۹
❖	منور صاحب کی ایک اور بات بھی سُن لیجئے	۳۰۰
❖	مسئلہ: ۴، التوسلُ بالانبیاءِ و الصالحینَ	۳۰۲
❖	تمہید:	۳۰۲
❖	مرغی کی بھی ایک ٹانگ بھی دو	۳۰۶
❖	کیپٹن صاحب آیات قرآنیہ کا بے جا استعمال کرتا ہے۔	۳۰۶
❖	سفارش کی دو قسم ہیں	۳۰۸
❖	توسل کے چند دلائل	۳۰۱۱
❖	دو دلیلیں	۳۱۲
❖	کیپٹن صاحب کا مبنی بر دجل وفریب، وحدیث پر اعتراض	۳۱۵
❖	حدیث عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کی سند میں کون سا ابو جعفر ہے؟	۳۱۷
❖	فائدہ:	۳۱۹
❖	ایک غلطی کا ازالہ	۳۱۹

نمبر شمار	فہرستِ مضامین	صفحہ
❖	پانچ دلیلیں اور	۳۲۰
❖	کیا دعا میں بحق فلاں کہنا مکروہ ہے؟	۳۲۵
❖	کیپٹن صاحب نے حدیث رسول (اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کی اہمیت گرانے کی کوشش کی	۳۲۷
❖	کیپٹن صاحب کو کسی حدیث پر جرح کرنے کا حق نہیں ہے	۳۲۸
❖	امام احمد بن حنبل سے جرح نقل کرتا ہے	۳۲۸
❖	توسل کو شرک کہنا، شرک کی حقیقت سے جہالت کی دلیل ہے	۳۲۸
❖	مسئلہ: ۵، الاستشفاع عند القبر الشریف	۳۲۹
❖	تمہید:	۳۲۹
❖	پانچ دلیلیں	۳۳۰
❖	ازالۂ شُبہ	۳۳۹
❖	کیپٹن کو احادیث کے ضعیف کہنے کا کوئی حق نہیں ہے	۳۳۹
❖	استشفاع قطعاً شرک نہیں بن سکتا	۳۴۰
❖	مسئلہ: ۶، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء والمرسلین ہیں	۳۴۱
❖	تمہید:	۳۴۱
❖	منور سلطان آیت قرآنی کا غلط مطلب پیش کرتا ہے۔	۳۴۳
❖	منور سلطان کی منطق کی رو سے اللہ تعالی اور اس کے رسولوں کی شان میں بھی فرق نہیں کرنا چاہئے	۳۴۵
❖	منور سلطان کا بیان کردہ مطلب ایک دوسری آیت کے بھی خلاف ہے	۳۴۶

نمبر شمار	فہرست مضامین	صفحہ
❖	شان حبیب الرحمٰن فی آیات القرآن	۳۴۸
❖	گیارہ آیتیں	۳۴۸
❖	تئیس حدیثیں	۳۵۲
❖	مسلک پرستی کے نام پر دین اسلام کی عمارت گرانے کی کوشش	۳۶۷
❖	افضلیت کی ممانعت کی حدیثوں کا پانچ جواب	۳۶۹
❖	ضروری انتباہ:	۳۷۴
❖	مسئلہ:۔ ۷، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو "سیدنا" و "مولانا" کہنا جائز ہے یا نہ	۳۷۴
❖	تمہید:	۳۷۴
❖	سترہ دلیلیں	۳۷۶
❖	حدیث ممانعت کا جواب	۳۸۱
❖	لفظ مولیٰ کے معنی اور اطلاق	۳۸۵
❖	اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو "مولا" اور "مولانا" کہنا	۳۸۶
❖	تیرہ دلیلیں:	۳۸۶
❖	ایک ضروری تنبیہ	۳۹۲
❖	ھوئی پرستی کی انتہاء	۳۹۳
❖	مسئلہ:۔ ۸، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو "حضرت" یا "حضور" کہنا جائز ہے	۳۹۳
❖	مسئلہ:۔ ۹، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقصد کائنات	۳۹۷
❖	تمہید:	۳۹۷

نمبر شمار	فہرست مضامین	صفحہ
❖	مسئلہ:۔ ۱۰، اللہ تعالیٰ کو "خدا تعالیٰ" کہنا	۴۰۵
❖	مسئلہ:۔ ۱۱ مردوں اور عورتوں کی نماز کا فرق	۴۰۶
❖	تمہید:	۴۰۶
❖	مردوں اور عورتوں کی نماز میں چند اتفاقی فرق	۴۰۶
❖	فرق کے دلائل اور اس پر چھ احادیث:	۴۰۸
❖	مزید چند آثار تابعین وغیرہ	۴۱۱
❖	ھوئی پرستوں کی ایک دلیل اور اسکا جواب	۴۱۵
❖	ھوئی پرستوں کی ایک اور دلیل	۴۱۶
❖	ھوئی پرست منور سلطان کا حدیثوں کے خلاف واویلا	۴۱۶
❖	ھوئی پرستوں کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ کسی حدیث کو ضعیف وغیرہ کہیں	۴۱۷
❖	علماء اسلام کی پیش کردہ روایات صحیح اور مقبول ہیں	۴۱۸
❖	مسئلہ:۔ ۱۲، جھاڑ پھونک اور تعویذات وغیرہ	۴۱۸
❖	تمہید:	۴۱۸
❖	ھوئی پرست مسعودیوں کی دو حماقتیں	۴۱۹
❖	ثبوت کہاں طلب کیا جاتا ہے	۴۲۱
❖	عملیات کی اباحت کے بیس (۲۰) دلائل	۴۲۲
❖	ایک ضروری توضیح	۴۳۵
❖	رُقیہ۔ رُقیٰ کے مفہوم میں تعویذ شامل ہے اور اس پر سات شواہد...	۴۳۶
❖	شاہد اول:	۴۳۷

نمبر شمار	فہرستِ مضامین	صفحہ
❖	شاہد دوم:	۴۳۷
❖	شاہد سوئم:	۴۳۸
❖	شاہد چہارم:	۴۳۸
❖	شاہد پنجم:	۴۳۹
❖	شاہد ششم:	۴۳۹
❖	شاہد ہفتم:	۴۳۹
❖	تمیمہ اور تعویذ کو ایک سمجھنا حماقت ہے	۴۴۰
❖	تعویذ لٹکانے پر پندرہ دلائل	۴۴۲
❖	ھوئی پرستوں کو احادیث پر جرح کا کوئی حق نہیں ہے	۴۴۳
❖	قرآن مجید جسمانی ارروحانی امراض کیلئے شفاء ہے	۴۵۱
❖	ایک اور دلیل کہ قرآن شفاء ہے	۴۵۲
❖	ھوئی پرستوں کا مغالطہ اور اسکا جواب	۴۵۳
❖	سول اصلاحات	۴۵۴
❖	ہوا پرستوں کی مغالطہ آمیزی کا جواب	۴۶۱
❖	مسئلہ: ۱۳، ایصال ثواب الی الاموات	۴۶۳
❖	ایک شخص کے عمل کا دوسرے کو فائدہ ہوتا ہے، اور اس پر دس آیات	۴۶۴
❖	ہر عمل کا دوسروں کو ثواب پہنچتا ہے، اور اس پر چونتیس (۳۴)	
❖	احادیث	۴۶۶
❖	ھوئی پرست مسعودیوں کی چالاکی	۴۷۸
❖	ھوئی پرستوں کا قرآن سے غلط استدلال اور اس کا ابطال	۴۹۶

نمبر شمار	فہرستِ مضامین	صفحہ
❖	لَیْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَاسَعٰی کے دس جوابات	۵۰۰
❖	دوسروں کے اعمال سے نفع اٹھانا اجماعی مسئلہ ہے	۵۰۵
❖	نصوص قرآنیہ کو ظاہر پر محمول کرنے کی حیثیت	۵۰۷
❖	ایک لطیفہ	۵۰۸
❖	مشتری ہوشیار باش!	۵۰۸
❖	مسئلہ ۱۴، علماء معلمین، مدرسین اور ائمہ مساجد کی تنخواہیں	۵۰۹
❖	دینی امور پر اجرت لینے کے چھبیس (۲۶) دلائل	۵۱۱
❖	اجماع صحابہ رضی اللہ عنہم	۵۲۴
❖	امامت صغریٰ	۵۲۵
❖	ایک ضروری وضاحت	۵۲۷
❖	گندی تعبیرین گندے ذہن کی عکاس ہیں	۵۲۷
❖	مانعین تنخواہ کا استدلال اور اس کا جواب	۵۳۹
❖	استدلال نمبر (۲) اور اس کا جواب	۵۴۱
❖	ھوئی پرست مسعودیوں سے ایک سوال	۵۴۳
❖	استدلال نمبر (۳) اور اس کا جواب	۵۴۴
❖	استدلال نمبر (۴) اور اس کا جواب	۵۴۵
❖	استدلال نمبر (۵) اور اس کا جواب	۵۴۷
❖	خود را فضیحت دیگراں را نصیحت	۵۴۸
❖	استدلال نمبر (۶) اور اس کا جواب	۵۴۹
❖	استدلال نمبر (۷) اور اس کا جواب	۵۵۱

نمبر شمار	فہرستِ مضامین	صفحہ
❖	تطبیق کی صورتیں	۵۵۲
❖	سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کی توجیہات	۵۵۲
❖	ہوئی پرستوں سے ایک اہم سوال	۵۵۴
❖	ایک ضروری وضاحت	۵۵۴
❖	ایصال ثواب کے لئے قرآن خوانی پر اجرت نہیں	۵۵۵
❖	نماز تراویح میں قرآن سننے اور سنانے کی اجرت جائز نہیں	۵۵۵

تمت بالخیر

کمپوزنگ مرتب مولوی محمد نور حسین قاسمی، کراچی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ان الذین یلحدون فی ایاتنا لایخفون علینا ط(القرآن)
أفرأیت من اتخذ الٰهه هوٰهُ ط(القرآن)

اسلام کے نام پر ہوئی پرستی

یعنی

کیپٹن مسعود الدین عثمانی کراچی والے کے نظریات کا مکمل مدلل علمی اور تحقیقی محاسبہ

تالیف.

حضرت علامہ ابو احمد نور محمد قادری تونسوی صاحب

خادم جامعہ عثمانیہ، ترنڈہ محمد پناہ، تحصیل لیاقت پور، ضلع رحیم یار خان

بسم اللہ الرّحمٰن الرحیم ط

پیش لفظ

تمہید: بندہ عرصہ زائد از بیس سال سے ترندہ محمد پناہ کی مرکزی جامع مسجد میں خطابت جمعہ اور نماز صبح کے بعد درس قرآن مجید کی خدمات سرانجام دے رہا ہے۔ الحمد للہ علی حسن التوفیق، نیز ترندہ شہر کے مشرقی بائی پاس پر واقع دینی درسگاہ جامعہ عثمانیہ کی ہمہ قسم کی خدمات میں مصروف و مشغول ہے۔ الحمد للہ حمدا کثیراً۔ اللھم بارک لنافیہ وزدنامنہ آمین۔

اس شہر میں چند افراد کراچی کے کیپٹن مسعود الدین عثمانی کے پیروکار اور ماننے والے ہیں۔ یہ لوگ مسعود الدین کی کتب اور رسائل کو عوام میں خوب پھیلاتے ہیں اور یوں اس کے نظریات باطلہ اور عقائد فاسدہ کی تشہیر کرتے ہیں، یہ لوگ پوری امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوۃ والسلام کی تکفیر کرتے ہیں۔ ان پر شرک وکفر کے فتوے صادر کرتے ہیں۔ کسی مسلمان کو سلام نہیں کرتے اور نہ ہی کسی کے سلام کا جواب دیتے ہیں، کسی مسلمان حتیٰ کہ بھائی اور باپ اگر ان کے نظریات پر نہ ہو تو اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کرتے، قرآن مجید کی آیات بینات کی صریح تحریف کرتے ہیں، احادیث صحیحہ کا انکار کرتے ہیں یا پھر تاویلات فاسدہ کر ڈالتے ہیں۔ ائمہ کرام کے حق میں بدگوئی کرتے ہیں، حتیٰ کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو برملا کافر کہتے ہیں، علماء حق کے بارے میں گندی زبان استعمال کرتے ہیں۔ عوام کو علماء دین سے متنفر کرنے کے لئے ہزاروں چالیں چلتے ہیں اور اپنے ماننے والوں کو سبق پڑھاتے ہیں کہ ان مولویوں کے قریب مت جاؤ، ان کی باتیں نہ سنو، یہ ایسے ویسے ہیں، یہ دین فروش ہیں، وغیرہ وغیرہ۔

الغرض بے شمار باتیں جو اخلاق سے گری ہوئی ہیں ان سب کی علماء اسلام کے حق میں گردان کرتے ہیں۔ اور دن رات کرتے رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایسی باتوں سے خاموش ہونا نہیں جانتے۔ جہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ وہاں علماء اسلام کا گلہ شکوہ کرتے رہتے ہیں۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ مولویوں کی بدگوئی اور بدزبانی ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے اور ان کے روح کی غذا ہے۔ جاہل اتنے ہیں کہ سادہ قرآن پر کسی آیت کا صحیح ترجمہ نہیں کر سکتے۔ عربی عبارت کی پہچان تو کجا۔ ضرب یضرب کو بھی نہیں جانتے، کتب حدیث اور محدثین کے ناموں کا صحیح تلفظ نہیں کر سکتے۔ نہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو جانتے ہیں، نہ ہی قرآن وحدیث کو اور کسی صحیح عالم دین سے انہوں نے دینی تعلیم حاصل نہیں کی، بلکہ اردو رسائل پر گزارہ کرتے ہیں۔ بیشتر لوگ ماسٹر یا ریٹائر ماسٹر ہیں، یا پھر ڈاکٹر اور نیم حکیم ہیں، باوجود ایسی جہالت کے فتویٰ زنی میں بڑے جری اور دلیر واقع ہوئے ہیں۔

اسلامی تعلیمات سے یکسر کورے ہونے کے باوجود بلکہ کوسوں دور ہونے کے باوجود اپنے آپ کو مسلم اور دوسرے مسلمانوں کو غیر مسلم گردانتے ہیں۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات سے متعلق نہایت گستاخانہ باتیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ شرک کی جڑ ہے، ہمارے بس میں ہوتا تو ہم اس پر بلڈوزر پھیر دیتے۔ معاذ اللہ۔ خدا کی پناہ ایسے گستاخانہ کلمات سے، پھر ان نا انصاف لوگوں نے یہ کہہ کر کہ اصل تو عقیدہ ہے، وہ ٹھیک ہے تو کامیابی ہے، لوگوں کو بداعمالیوں اور برائیوں پر دلیر

بنادیا ہے۔ اور خود بھی اس کردار کے مالک ہیں کہ اپنے باپ کی جائیداد کو قرآنی دستور کے مطابق تقسیم نہیں کیا۔ گھروں میں پردہ شرعی کا اہتمام نہیں۔ منہ پر سنت کے مطابق ڈاڑھی نہیں۔ رشوت دینے دلوانے والا کاروبار بھی چلا رہے ہیں۔ حافظ صاحبان کو اپنے گھروں میں بلا کر قرآن پڑھتے اور پڑھواتے ہیں اور باقاعدہ ان کو تنخواہ دیتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ تنخواہ حرام ہے۔ حالانکہ گھروں میں قرآن مجید کی خرید و فروخت کی منڈی لگا رکھی ہے۔ زیادہ تر لوگوں کو زن وزر کی لالچ میں اپنا پیروکار بنالیتے ہیں۔ اس سب کے باوجود اپنے آپ کو مسلمین کہتے ہیں اور عمل بالقرآن اور عمل بالحدیث کا کھوکھلا دعویٰ کرتے ہیں اور اگر انہیں ان کی کسی بھی بدعملی پر ٹوکا جائے تو فوراً یہ کہہ کر جان چھڑا لیتے ہیں کہ یہ ہمارا ذاتی فعل ہے۔ یہ ہمارا ذاتی عمل ہے۔ گویا شریعت لوگوں کے لئے ہے، ان کی ذات کیلئے نہیں ہے۔ ان کو قرآن مجید کا کوئی اور حکم نظر نہیں آتا۔ سارے قرآن مجید میں ان کو صرف یہی نظر آتا ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ مولوی تنخواہ کیوں لے رہا ہے۔ یہ قرآن پڑھاتا ہے۔ پکوڑوں کی ریڑھی لگائے، بس ان کا قرآن یہی ہے۔

قائلین سماع موتی اور قائلین حیات الانبیاء علیہم السلام کو برملا مشرک کہتے ہیں۔ بلکہ معمولی سی باتوں پر شرک وکفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ تو بندہ عاجز جب سے ترنڈہ محمد پناہ میں مقیم ہے۔ اسی وقت سے اس نئے فتنہ کا تعاقب جاری رکھا ہوا ہے، بیانات میں اور عمومی خصوصی مجالس میں اور علماء وطلبہ کے اندر ان لوگوں کے غلط نظریات واضح کر کے لوگوں کو اس فتنہ سے دور اور محفوظ کرنے کی کوشش جاری رکھی۔ البتہ اس الحاد وزندقہ کے سد باب کیلئے کسی کتاب لکھنے کی ہمت نہ ہو رہی تھی، کیونکہ علمی بے مائیگی کے ساتھ اور بھی بہت سے نامساعد حالات اور عوارضات سے دوچار تھا۔

البتہ میرا دل چاہتا تھا کہ اس فرقہ کے خلاف ایک کتاب لکھوں، لیکن مجبوریاں مانع بنی رہیں۔

سبب تالیف کتاب:

اس اثنا میں بندہ عاجز کے پاس کراچی سے ایک خط آیا۔ لکھنے والا ایک طالب علم معلوم ہوتا ہے شاید اس کو بندہ عاجز کے متعلق غائبانہ معلومات فراہم کی گئیں ہیں، کہ وہ اس فتنہ وفرقہ مسعودی کے متعلق معلومات رکھتا ہے اور اس کا تعاقب کرتا رہتا ہے۔ اُس خط میں طالب علم نے لکھا ہے کہ ہمارے خاندان کے کچھ لوگ اس فتنہ میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ جس کی وجہ سے ہمارا خاندان انتشار اور افتراق کا شکار ہو چکا ہے۔ حتیٰ کہ ایک دوسرے سے سلام وکلام بند ہو گیا ہے اور ایک دوسرے کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کرتے، الغرض اچھا خاصا بگاڑ رونما ہو چکا ہے۔ اور مجھ سے اس ساتھی نے سوال کیا کہ میں ان کی طرف کتاب وسنت کے ایسے دلائل لکھ کر بھیجوں، جن سے ان کے عقائد فاسدہ اور نظریات باطلہ کا قلع قمع ہو جائے۔ اس اللہ کے بندے کا یہ خط ایسے دکھ و درد اور فکر سے لکھا ہوا تھا کہ بندہ اپنی نااہلی اور عوارضات کا عذر نہ کر سکا، بلکہ اس سب کے باوجود دل میں تہیہ کر لیا کہ انشاء اللہ اس پر کچھ نہ کچھ ضرور تحریر کروں گا۔ البتہ اس وقت خیال یہ تھا کہ دو اڑھائی صفحات لکھ کر کراچی روانہ کر دوں گا۔ چنانچہ بندہ عاجز نے اس ساتھی کو خط لکھ کر اپنے اس ارادہ کا اظہار کر دیا اور ادھر تھوڑا بہت بسم اللہ پڑھ کر لکھنا بھی شروع کر دیا چنانچہ بحمدللہ وحسن توفیقہ میرے تصور سے بھی زیادہ مواد جمع ہو گیا۔ یہاں تک کہ میری کاپی کے پانچ صد بارہ صفحات ضبط تحریر میں آ گئے۔

الحمدللہ ثم الحمدللہ بندہ عاجز نے اس کتاب میں کفار کے ناپاک

عزائم کو بیان کیا کہ وہ ہر حیلے اور ہر بہانے سے اور ہر رنگ میں مسلمانوں کو اصل دین اسلام سے برگشتہ کرنے کے لئے عہد اول سے سر توڑ کوششیں کرتے چلے آ رہے ہیں۔ پھر مسلک اہل السنۃ والجماعت کی حقانیت کو بیان کیا اور بتایا کہ یہ کوئی مذموم فرقہ نہیں ہے بلکہ ایک برحق جماعت ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے چلی آ رہی ہے اور قیامت تک حق پر قائم رہے گی۔ اور فرقے تو وہ ہیں جو اس کاروان حق سے کٹ کر اپنی علیحدہ جماعتیں بنا رہے ہیں اگرچہ وہ لاکھ بار اسلام اور قرآن کا نام استعمال کریں۔ بہر حال وہ فرقے ہیں۔ پھر ان مذموم اور گمراہ فرقوں کی خوفناک چالوں اور خطرناک تلبیسات کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد کیپٹن مسعود الدین عثمانی کراچی کے نظریات وعقائد کا بڑی بسط وتفصیل کے ساتھ آپریشن کیا گیا ان کے رسائل اور کتب کو سامنے رکھ کر ان کے۔ جھوٹ، دھوکے، خیانتیں، تحریفات اور تلبیسات کو خوب واضح کیا گیا۔ اور پھر ان کے چودہ مخصوص عقائد کا مکمل اور مدلل رد کیا گیا۔ جن میں یہ لوگ علماء اسلام سے اختلاف کرتے ہیں اور وہ چودہ مسائل درج ذیل ہیں:

وہ چودہ مسائل جن میں یہ لوگ علماء اسلام سے جداگانہ رائے رکھتے ہیں:

(۱) فرقہ کیا ہے؟ (۲) فرقہ پرست کون ہیں، کیا یہ لوگ اہل اسلام یا مسلمین ہیں؟ (۳) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سارے مقامات سے افضل ہے (۴) التوسل بالانبیاً والصالحین (۵) الاستشفاع عندالقبر الشریف (٦) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء والمرسلین ہیں (۷) اللہ تعالیٰ

کے سوا کسی اور کو سیدنا و مولانا کہنا جائز ہے یا نہ؟ (۸) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت یا حضور کہنا جائز ہے (۹) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقصد کائنات ہیں (۱۰) اللہ تعالیٰ کو خدا تعالیٰ کہنا (۱۱) مردوں اور عورتوں کی نماز کا فرق (۱۲) جھاڑ پھونک اور تعویذات (۱۳) ایصال ثواب الی الاموات (۱۴) علماء معلمین، مدرسین اور ائمہ مساجد کی تنخواہوں کا مسئلہ۔

ان چودہ مسائل میں یہ لوگ علماء اسلام سے جداگانہ رائے رکھتے ہیں چنانچہ بندہ عاجز نے کتاب وسنت اور اجماع امت کے قوی دلائل سے ان کے باطل خیالات کا قلع قمع کیا ہے اور مسلک اہل السنّت والجماعت کی پُرزور تائید ونصرت کی ہے احقاق حق اور ابطال باطل کے سلسلہ میں پوری پوری کوشش کی گئی ہے۔ باقی رہے تین اور مسائل (۱) عقیدہ حیات قبر (۲) عقیدہ حیات الانبیاء علیہم السلام (۳) مسئلہ عام سماع موتی ہیں۔ اگرچہ اصولی طور پر بحث کی گئی ہے لیکن مفصل گفتگو نہیں کی گئی، کیونکہ ان مسائل پر بندہ عاجز کی کتاب "الحیات بعد الوفات" یعنی قبر کی زندگی چھپ کر منظر عام پر آ چکی ہے۔ اور علماء اسلام اور مشائخ عظام سے دادِ تحسین حاصل کر چکی ہے۔ ان کے علاوہ بھی ان لوگوں کے کچھ خیالات باطلہ ہیں لیکن بندہ عاجز کی اس کتاب کے مطالعہ سے انشاء اللہ ان کے تمام آراء وافکار کا باطل وفاسد ہونا کھل کر ایک منصف مزاج آدمی کے سامنے آ جائے گا لہٰذا ان کی تردید کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔ تاہم اگر ضرورت پڑی تو بندہ ان کی تردید کے لئے بھی ہر وقت تیار ہے۔ انشاء اللہ العزیز بشرط زندگی وتوفیق ایزدی اگر بالفرض موت وغیرہ عوارض کی وجہ سے مجھ سے یہ بقیہ کام نہ ہو سکا تو انشاء اللہ علماء حق میدان میں آ کر یہ کام سرانجام دیں گے اور میری یہ کتاب بنیاد کا کام دے گی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ جل شانہ مجھے اس کام میں

خلوص نصیب فرمائے۔ ریاکاری اور شہرت سے محفوظ رکھے اور اپنی رضا کے لئے اس کو قبول فرمائے اور مسلمانوں کو خصوصاً طلبہ دین کو اس سے نفع اٹھانے کی توفیق بخشے۔ خصوصاً میری تمام اولاد کو اس سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور بندہ عاجز کے لئے اس کو آخرت کا ذخیرہ اور ذریعہ نجات بنائے اور میرے دینی اور دنیاوی تمام حالات کو درست فرمائے اور اللہ کرے کہ یہ کتاب جلد از جلد چھپ کر منظر عام پر آجائے۔ آمین ثم آمین. یارب العالمین

فقط: ابواحمد نور محمد قادری تونسوی خادم جامعہ عثمانیہ ترنڈہ محمد پناہ تحصیل لیاقت پور 19 رمضان المبارک 1425ھ۔

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين ○الرحمن الرحيم ○مالك
يوم الدين ○اياك نعبد واياك نستعين ○اهدنا
الصراط المستقيم○ صراط الذين انعمت عليهم
○غير المغضوب عليهم ولا الضالين ○ والصلوة
والسلام على من ارسله رحمة للعالمين وعلى آله
واصحابه اجمعين الى يوم الدين. اما بعد!

بندہ ابواحمد نور محمد خادم جامعہ عثمانیہ ترنڈہ محمد پناہ اپنے تمام سنی بھائیوں کی خدمت میں عرض گزار ہے کہ اس دور پرفتن میں جس طرح جان و مال کے بکثرت ڈاکو اور لٹیرے موجود ہیں۔ اور ہر قسم کے حیلوں، بہانوں اور فریبوں سے وارداتیں کر کے بے چارے لوگوں کو لوٹ لیا کرتے ہیں۔ اسی طرح بکثرت ایمان کے بھی ڈاکو

موجود ہیں۔ ایمان کے یہ ڈاکو رنگ برنگے طریقہ کار سے بے چارے سادہ لوح عوام کے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی طمع ولالچ دے کر، کبھی نوکری اور چھوکری کا جھانسہ دے کر، کبھی جعلی اور مصنوعی اخلاق دکھا کر، کبھی رعب و دھونس رکھ کر، کبھی بناوٹی خیر خواہ اور ہمدرد بن کر اور پھر ایمان کے یہ لٹیرے قسم قسم کے ہتھیاروں سے لیس ہو کر لوگوں کے ایمان پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ کبھی توحید کے نام پر، کبھی قرآن کے نام پر، کبھی قرآن وحدیث کے نام پر، کبھی حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، کبھی محبت آل بیت کے نام پر اور کبھی اسلام کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ مسلمانوں کے ایمان کے دشمن درحقیقت کافر ہیں۔ خواہ وہ مشرک ہوں یا یہود ونصاریٰ ہوں یا سکھ و ہندو ہوں، بہرحال کفار کی تمام اقسام مسلمانوں کے ایمان کے لوٹنے کے درپے ہیں اور یہی کفار مسلمانوں کو کافر و مرتد بنانے کی منصوبہ بندی کرتے ہیں لیکن یہ ظالم اپنے ان ناپاک عزائم کی تکمیل کے لئے بعض نام نہاد مسلمانوں کو بطور آلہ و ہتھیار کے استعمال کرتے ہیں۔ یہ لوگ مسلمانوں میں سے اپنے ہم مزاج لوگ چن کر انہیں خرید کرتے ہیں پھر ان کو مقدس ناموں کا لیبل لگا کر مسلمان معاشرہ میں سپلائی کرتے ہیں۔ کوئی اسلام کا، کوئی قرآن کا کوئی قرآن وحدیث کا کوئی توحید کا کوئی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی محبت اہل بیت کا کوئی تحقیق کا اور کوئی اتحاد بین المسلمین کا لیبل لگا کر مسلمانوں کے دلوں میں ضروریات دین اور پختہ عقائد کے متعلق شکوک وشبہات پیدا کرتے ہیں اور وساوس ڈالتے ہیں ان لوگوں کی اس ظالمانہ واردات سے ایک سادہ لوح آدمی کسی ضروری عقیدہ کا انکار کر کے دین اسلام سے ہاتھ بھی دھو بیٹھتا ہے اور آپ کو ایک صحیح مسلمان بھی سمجھتا رہتا ہے اور ایسا مسلمان کہ دوسرے مسلمان اس کو کافر نظر آتے ہیں اور چونکہ وہ اپنے کفریہ عقائد کو اسلام سمجھتا ہے، دین سمجھتا ہے اور حق

سمجھتا ہے۔ اس لئے ایسے کفریات سے اس کو توبہ کی توفیق بہت کم نصیب ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر مرزا غلام احمد قادیانی علیہ ما علیہ کو دیکھ لیجئے، کافر انگریز نے اس شخص کا چناؤ کیا۔ اس کو خریدا، انگریز کا خود کاشتہ یہ پودا خدمت اسلام کے لیبل سے مسلمان معاشرہ میں آیا اور خدمت اسلام اور تحقیق واصلاح کے نام پر اس ظالم نے ختم نبوت، حیات و نزول مسیح علیہ السلام اور جہاد وغیرہ درجنوں عقائد اسلامیہ سے لاکھوں مسلمانوں کو منحرف کر کے ارتداد کے گھاٹ اتار دیا یقین جانئے مرزا غلام احمد قادیانی جیسے کافروں کے خود کاشتہ پودے ہزاروں کی تعداد میں ہمارے معاشرہ میں موجود ہیں اور مقدس لیبلوں اور پُر کشش نعروں کے ذریعہ، تحقیق اور اصلاح کے نام پر بہت سے لوگوں کو ضروریات دین کا منکر بنا کر ارتداد کی جہنم میں دھکیل رہے ہیں اور پھر ان چالبازوں کی چالاکی کا اندازہ لگایئے کہ آدمی ضروریات دین کے انکار کی وجہ سے خارج از اسلام ہونے کے باوجود خود کو پکا، کھرا مسلمان سمجھتا ہے، گمراہ ہونے کے باوجود اپنے کو راہ راست پر سمجھتا ہے قرآن مجید کے پیش کردہ عقائد ونظریات کو ٹھکرانے کے باوجود اپنے آپ کو قرآن کا ٹھیکیدار خیال کرتا ہے۔ چنانچہ کفار کے ان عزائم کا درجہ ذیل آیات میں ملاحظہ فرمائیں۔

کفار کے ناپاک عزائم

آیت نمبر:۱

﴿ولایزالون یقاتلونکم ،حتی یَرُدُّوْکُمْ عن دینکم ان استطاعوا ط ومن یرتددمنکم عن دینه فیمت وهو کافرفاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرة

واولئک اصحاب النار ج هم فیها خالدون﴾ .(بقره آیت۲۱۷)

ترجمہ: اور یہ کفار تمہارے ساتھ ہمیشہ جنگ رکھیں گے اس غرض سے کہ اگر قابو پاویں تو تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں اور جو شخص تم میں سے اپنے دین سے پھر جاوے پھر کافر ہی ہونے کی حالت میں مرجاوے تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا وآخرت میں سب غارت ہو جاتے ہیں اور ایسے لوگ دوزخی ہوتے ہیں۔ یہ لوگ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔

آیت نمبر:۲

﴿یاایهاالذین آمنوا ان تطیعوا فریقامن الذین اوتوا الکتب یردوکم بعدایمانکم کافرین﴾ .(آل عمران :۱۰۰)

ترجمہ: اے ایمان والو، اگر تم کہنا مانو گے کسی فرقہ کا ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی ہے تو وہ لوگ تم کو تمہارے ایمان لائے پیچھے کافر بنا دیں گے۔

آیت نمبر:۳

﴿یاایهاالذین آمنوا لاتتخذوابطانةمن دونکم لایالونکم خبالا ودواماعنتم قد بدت البغضاء من افواههم ج وماتخفی صدورهم اکبر ط (آل عمران آیت:۱۱۸)

ترجمہ: ''اے ایمان والو! اپنے سوا کسی کو صاحب خصوصیت مت بناؤ وہ لوگ تمہارے فساد کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھتے تمہارے مضرت کی تمنار کھتے ہیں۔ واقعی بغض ان کے منہ سے ظاہر ہو پڑتا ہے اور جس قدر ان کے دلوں میں ہے وہ تو بہت کچھ ہے۔''

آیت نمبر:۴

﴿ودوا لوتکفرون کما کفروا فتکونوا سَوَآ فلاتتخذوا مِنۡهُمۡ اَوۡلِيَآءَ﴾. (نساء آیت ۸۹)

ترجمہ: ''وہ (کفار) اس تمنا میں ہیں کہ جیسے وہ کافر ہیں تم بھی کافر بن جاؤ جس میں تم اور وہ سب ایک طرح کے ہو جاؤ، سو ان میں سے کسی کو دوست مت بنانا۔''

آیت نمبر:۵

﴿ولولاان ثبتناک لقد کدت ترکن الیھم شینا قلیلا﴾. (بنی اسرائیل آیت ۷۴)

ترجمہ: اور اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ بنایا ہوتا، تو آپ ان کی طرف کچھ کچھ جھکنے کے قریب جا پہنچتے۔''

قارئین کرام! اس مضمون کی آیات اور بھی بہت ہیں جن میں مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ کافر لوگ انہیں دین اسلام سے منحرف کرنے اور مرتد بنانے کے ناپاک عزائم رکھتے ہیں اور اپنے اس غلیظ مقصد کے لئے وہ کئی حربے۔ حیلے استعمال کرتے ہیں اور قسم قسم کی چالیں چلتے ہیں لیکن ان لوگوں کا سب سے بڑا حربہ یہ ہے کہ نام نہاد مسلمانوں کو دام ہم رنگ زمین کے اصول کے مطابق استعمال کرتے ہیں اور کفار کے یہ چیلے ایسے عیار و چالاک ہوتے ہیں کہ ایک سیدھے سادے مسلمان کے سامنے جھوٹ کو سچ، باطل کو حق، کفر کو اسلام اور غلط کو صحیح باور کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، چنانچہ غیر مسلموں کے یہ آلہ کار نام نہاد مسلمین اسلام کے نام پر الحاد، توحید کے نام پر زندقہ، قرآن کے نام پر اپنے غلط نظریات اصلاح کے نام پر فساد، تحقیق کے نام پر تشکیک اور اتحاد کے نام پر مسلمانوں میں تفرقہ بازی اور اختلاف پیدا کرنے کی سعی ناتمام کرتے ہیں۔ درحقیقت یہی لوگ فتنے اور فرقے ہیں جن کی حدیث شریف میں پیشگوئیاں دی گئی ہیں اور ان سے بچے رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔

فتنہ: فرقہ اور فتنہ پردازوں، فرقہ سازوں کے متعلق پیش گوئیاں

حدیث نمبر۱:

﴿عن عائشۃ رضی اللہ عنھا قالت: قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا مالیس منہ فھورد﴾. (متفق علیہ، مشکوٰۃ ص: ۲۷)

''ترجمہ: سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے ہمارے اس دین اسلام میں کوئی نئی چیز یعنی کوئی نیا عقیدہ یا نیا عمل نکالا جو اس دین میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔''

حدیث نمبر۲:

﴿عن جابر رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم. امابعدفان خیرالحدیث کتاب اللہ وخیرالھدی ھدی محمدصلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتھا وکل بدعۃ ضلالۃ﴾. (رواہ مسلم،مشکوۃ،ص:۲۷)

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیکن بعد حمد وصلوٰۃ یقیناً سب سے بہتر بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے سب سے بہترین راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے سب سے بدترین چیز (عقیدہ یا عمل) وہ ہے جس کو دین میں نیا نکالا گیا اور ہر بدعت یعنی اپنی طرف سے دین میں پیدا کی ہوئی نئی بات (عقیدہ یا عمل) گمراہی ہے۔"

حدیث نمبر۳:

﴿عن ابن عباس رضی اللہ عنھماقال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابغض الناس الی اللہ ثلاثۃ ملحدفی الحرم ومبتغ فی الاسلام سنۃ الجاھلیۃ و مطّلب دم امریء مسلم بغیرحق لیھریق دمہ﴾

(رواہ البخاری،مشکوۃص:۲۷)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسند شخص تین ہیں حرم محترم میں بے دینی اور کجروی کرنے والا، اسلام میں جاہلیت کے طریقوں کو ڈھونڈنے والا، کسی مسلمان کے خون ناحق کا طلب گار تاکہ اس کے خون کو بہائے۔

حدیث نمبر۴:

﴿عن عائشۃ رضی اللہ عنھاقالت صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئافرخص فیہ فتنزہ عنہ قوم فبلغ ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخطب، فحمداللہ، ثم قال: مابال اقوام یتنزھون عن الشیء اصنعہ فواللہ انی لاعلمھم باللہ، واشدھم لہ خشیۃ﴾. (متفق علیہ ، مشکوۃ، ص:۲۷)

ترجمہ: سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا اور اس کی رخصت دی لیکن کچھ لوگوں نے اس سے پرہیز کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا بیان کی پھر فرمایا۔ لوگوں کا کیا حال ہے کہ وہ اس کام سے پرہیز کرتے ہیں جسے میں کرتا ہوں۔ اللہ کی قسم! میں اللہ کی مرضی اور نامرضی کو ان سے زیادہ جانتا ہوں اور ان سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔"

حدیث نمبر۵:

﴿عن عائشۃ رضی اللہ عنھاقالت: تلارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. "ھوالذی انزل علیک

الكتاب منه آيات محكمات وقرأالىٰ ...ومايذكر الاولوالالباب". قالت: قال رسول اللهصلى الله عليه وسلم فاذارائيتِ وعندمسلم رايتم الذين يتبغون ماتشابهه منه، فاولئك الذين سماهم الله فاحذروهم﴾. (متفق عليه، مشكوة: ص۲۸)

ترجمہ: ''سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت "ھوالذی انزل علیک الکتاب" کو"الاولوالالباب" تک پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے۔ وہ ایسا ہے جس نے نازل کیا تم پر کتاب کو جس کا ایک حصہ وہ آیتیں ہیں جو کہ اشتباہ مراد سے محفوظ ہیں اور یہی آیتیں اصلی مدار ہیں کتاب کا اور دوسری آیتیں ایسی ہیں جو کہ مشتبہ المراد ہیں سو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ اس کے اسی حصہ کے پیچھے ہو لیتے ہیں جو مشتبہ المراد ہیں شورش ڈھونڈھنے کی غرض سے اور اس کے مطالب ڈھونڈھنے کی غرض سے حالانکہ اس کا مطلب بجز حق تعالیٰ کے کوئی اور نہیں جانتا اور جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم اس پر یقین رکھتے ہیں سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں اور نصیحت وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو کہ اہل عقل ہیں۔

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں یہ آیات پڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ! (رضی اللہ عنہا) جس وقت تو دیکھے اور مسلم کی روایت میں ہے۔ جب تم دیکھو کہ لوگ ان آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں جو متشابہ ہیں تو

(تم سمجھو کہ یہ) وہ لوگ ہیں جن کا نام اللہ تعالیٰ نے (اہل زیغ) رکھا ہے۔ لہٰذا ان لوگوں سے بچتے رہو۔

حدیث نمبر ۶:

﴿عن ابی هريرةرضی الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون فی آخرالزمان دجالون يأتونكم من الاحاديث بمالم تسمعواانتم ولا آباؤكم فاياكم واياهم لايضلونكم ولايفتنونكم﴾

(رواه مسلم، مشكوة، ص:۲۸)

ترجمہ: ''حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: آخر زمانہ میں دجال (فریبی) پیدا ہوں گے تمہارے پاس ایسی باتیں (غلط عقیدے غلط عمل) لائیں گے جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے نہ سنا ہوگا لہٰذا ایسے لوگوں سے بچ کر رہنا اور ڈرتے رہنا، دور رہنا کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور کہیں تمہیں فتنہ میں مبتلا نہ کر دیں۔"

حدیث نمبر ۷:

﴿عن ابن مسعودرضی الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مامن نبی بعثه الله فی امته قبلی الا كان له فی امته حواريون واصحابٌ يأخذون بسنته ويقتدون بامره ثم انهاتخلف من بعدهم

خلوف يقولون مالايفعلون ويفعلون مالايؤمرون ، فمن جاهدهم بيده فهومؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهومؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهومؤمن وليس وراء ذلک من الایمان حبة خردل﴾(رواه مسلم، مشکوة، ص: ۲۹)

ترجمہ: ''حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مجھ سے پہلے کسی قوم میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس کے مددگار اور ساتھی اسی قوم سے نہ ہوں جو اس نبی کے طریقہ کو اختیار کرتے اور اس کے احکام کی پیروی کرتے پھر ان کے بعد ایسے نالائق لوگ پیدا ہوتے جو لوگوں سے ایسی باتیں کرتے جس پر خود عمل نہ کرتے اور ایسے کام کرتے جن کا ان کو حکم نہیں دیا گیا لہٰذا تم میں جو شخص ان کے خلاف اپنے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے اور جو شخص ان کے خلاف زبان سے جہاد کرے وہ مومن ہے اور جو شخص ان کے خلاف دل سے جہاد کرے وہ مومن ہے اور اس کے علاوہ رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان نہیں۔ یعنی جو شخص ان کے خلاف اتنا بھی نہ کرے وہ مومن نہیں ہے۔''

حدیث نمبر ۸:

﴿عن ابی هريرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله

صلی الله عليه وسلم: بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبی للغرباء﴾ (رواه مسلم، مشکوة، ص: ۲۹)

ترجمہ: ''حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اسلام غربت میں شروع ہوا اور آخر میں بھی ایسا ہی ہو جائے گا لہٰذا غرباء کے لئے خوشخبری ہے۔''

حدیث نمبر ۹:

﴿عن ابی هريرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ان الايمان ليارز الی المدينة كما تارز الحية الی جحرها۔﴾ (متفق عليه، مشکوة، ص: ۲۹)

ترجمہ: ''حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایمان مدینہ کی طرف اس طرح سمٹ آئے گا جس طرح سانپ اپنے بل کی طرف سمٹ آتا ہے۔''

حدیث نمبر ۱۰:

﴿عن ابی رافع رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم لاالفينّ احدًا متكئاً علی اريكته يأتيه الامر من امری مما امرت به او نهيت عنه فيقول

لادری ماوجدنا فی کتاب الله اتبعناه ﴾. (رواه احمد والترمذی وابوداؤد، وابن ماجه والبیهقی فی دلائل النبوة، مشکوة، ص: ۲۹)

ترجمہ: ''حضرت ابورافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تم میں سے کسی شخص کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ اپنے تکیہ پر آسرا لگائے پڑا ہو اور میرے ان احکام میں سے جن کا میں نے حکم دیا یا جن سے منع کیا کوئی حکم اس کے پاس پہنچے اور وہ اس کو سن کر یہ کہے کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ جو کچھ ہمیں اللہ کی کتاب میں ملا اس کی اتباع کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ کچھ متکبر بن کر حدیث کا انکار کریں گے اور کہیں گے کہ جو کچھ قرآن میں ہے ہم اس کو مانتے ہیں اور حدیثوں کو نہیں مانتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص نہ ہو۔''

حدیث نمبر ۱۱:

﴿عن المقدادبن معدیکرب رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الاانی اوتیتُ القرآن ومثله معه، الا یوشک رجل شبعان علی اریکته یقول علیکم بهذاالقرآن فماوجدتم فیه من حلال فاحلوه وماوجدتم فیه من حرام فحرموه وان ماحرم رسول لله کما حرم الله الا لایحل لکم الحمارالاهلی ولاکل ذی ناب من السباع،

الحدیث ﴾ (رواه ابوداؤدوروا ه الدارمی نحوه وکذا ابن ماجه الی قوله کماحرم الله. مشکوة، ص: ۲۹)

ترجمہ: ''حضرت مقداد بن معدیکرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خبردار! مجھے قرآن دیا گیا اور قرآن کے ساتھ قرآن کا مثل (حدیث) بھی دیا گیا۔ خبردار! عنقریب اپنے تکیہ پر پڑا پیٹ بھرا ایک شخص کہے گا صرف قرآن کو لازم پکڑو، جو کچھ اس میں حلال پاؤ اس کو حلال سمجھو اور جو چیز اس میں حرام پاؤ اس کو حرام سمجھو حالانکہ یقینا جیسے اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں کی حلت بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی چیزوں کی حرمت کو بیان کیا ہے۔ خبردار! تمہارے لئے گھریلو گدھا اور کچلی دار درندے حلال نہیں ہیں یعنی جو شخص کہتا ہے صرف قرآن کو مانو اور حدیث کو نہ مانو وہ گمراہ ہے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزوں کی حرمت بیان فرمائی اور قرآن میں ان کی حرمت بیان نہیں کی گئی مثلاً گھریلو گدھا، گدھ، چیل وغیرہ۔ لہٰذا جس طرح قرآن مجید کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھنا ہے اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو حلال یا حرام بتایا ہے ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہے یعنی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت ہے اس کے بغیر آدمی کا ایمان نامکمل

ہے۔ البتہ پیٹ بھرے متکبر لوگ سچی حدیثوں کا انکار کریں گے۔

حدیث نمبر ۱۲:

﴿عن العرباض بن سارية رضى الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ايحسب احدكم متكينا على اريكته يظن ان الله لم يحرم شيئاً الا مافى هذا القرآن الا وانى والله قد امرت ووعظت ونهيت عن اشياء انهالمثل القرآن اواكثر﴾ الحديث. (رواه ابوداؤد وفى اسناده اشعث بن شعبة المصيصى قد تكلم فيه. مشكوة، ص: ۲۹)

ترجمہ: ”حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص اپنے تکیہ پر آسرا لگا کر یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف وہی چیزیں حرام کی ہیں جو اس قرآن میں ہیں۔ خبردار! یقیناً میں نے حکم دیا اور نصیحت کی اور بہت سی چیزوں سے منع کیا بے شک وہ قرآن کی مثل ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ۔“

حدیث نمبر ۱۳:

﴿عنه قال صلى بنارسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم اقبل علينابوجهه فوعظناموعظة بليغةً

ذرفت منهاالعيون ووجلت منهاالقلوب فقال رجل يا رسول الله! كانّ هذه موعظة مودّع فاوصينا فقال اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وان كان عبدًا حبشيًافانه من يعش منكم من بعدى فسيرى اختلافاً كثيرًا، فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوابهاوعضوا عليها بالنواجذوايّاكم ومحدثات الامورفان كل محدثة بدعة وكل بدعةضلالة﴾. (رواه ابوداؤد والترمذى وابن ماجه الاّ انهم لم يذكر الصلوة. (مشكوة، ص: ۳۰)

ترجمہ: حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دن نماز پڑھائی پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر بیٹھ گئے اور ہم کو نہایت موثر انداز میں نصیحت فرمائی جس سے ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دلوں میں خوف پیدا ہو گیا ایک شخص نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ الوداعی نصیحت ہے لہٰذا ہمیں وصیت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اور تم کو مسلمان امیر کی اطاعت کا حکم دیتا ہوں اور اس کی باتوں کو سن کر بجالانے کی وصیت کرتا ہوں اگرچہ وہ امیر حبشی غلام ہو تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا۔ ایسے وقت تم پر لازم ہے کہ میری سنت اور

میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو اور اس پر قائم رہو اور اس کو دانتوں سے مضبوط پکڑے رہو اور تم دین میں نئی نئی باتیں (نئے عقیدے نئے عمل) پیدا کرنے سے بچو اس لئے کہ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔

حدیث نمبر ۱۴:

﴿عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: خطَّ لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطاً ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعوا اليه وقرأ "ان هذا صراطى مستقيما ،فاتبعوهُ"، الآية﴾. (رواه احمد والنسائى والدارمى ،مشكوة، ص: ۳۰)

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھانے کے لئے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لکیر کے دائیں بائیں کئی لکیریں کھینچیں اور فرمایا یہ ایسے راستے ہیں کہ ہر ایک راستے پر شیطان بیٹھا ہے جو اپنے راستے کی دعوت دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی مذکورہ بالا آیت تلاوت کی جس کا معنی یہ ہے اور بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے لہٰذا اس کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں کی پیروی

نہ کرو۔“

حدیث نمبر ۱۵:

﴿عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به﴾. (رواه فى شرح السنة وقال النووى فى اربعينه هذا حديث صحيح. رويناه فى كتاب الحجة باسناد صحيح ،مشكوة، ص: ۳۰)

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ کر دے۔“

حدیث نمبر ۱۶:

﴿عن بلال بن الحارث المزنى رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احيا سنة من سنتى قد اميتت بعدى فان له من الاجر مثل اجور من عمل بها من غير ان ينقص من اجورهم شيئاً ومن ابتدع بدعة ضلالةً لا يرضاها الله ورسوله كان عليه من الاثم مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من اوزارهم شيئا﴾. (رواه الترمذى ورواه ابن ماجه عن كثير بن عبد الله بن عمرو ابيه عن جده. (مشكوة، ص: ۳۰)

ترجمہ: ''حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ جس شخص نے میری کسی ایسی سنت کو زندہ کیا جو میرے بعد متروک ہو چکی تھی تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ اس سنت پر عمل کرنے والوں کو ملے گا بغیر اس کے کہ سنت پر عمل کرنے والوں کے ثواب میں کمی آئے اور جس شخص نے گمراہی کی کوئی نئی بات (بدعت) ایجاد کی جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہوتا تو اس کو اتنا ہی گناہ ہو گا جتنا کہ اس بدعت پر عمل کرنے والوں کو گناہ ہوگا بغیر اس کے کہ ان کے گناہوں میں کمی کی جائے۔''

حدیث نمبر ۱۷:

﴿عن عبد الله بن عمرو رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لیأتینّ علی امتی کمااتیٰ علی بنی اسرائیل حذو النعل بالنعل حتی ان کان منهم من اتیٰ امه علانیة لکان فی امتی من یصنع ذلک وان بنی اسرائیل تفرقت علی ثنتین وسبعین ملة وتفترق امتی علی ثلاث وسبعین ملة کلهم فی النار الّا ملة واحدةً قالوا من هی یارسول الله! قال ماانا علیه واصحابی﴾ (رواه الترمذی وفی روایة احمد وابی داؤد عن معاویة رضی الله عنه ثنتان وسبعون فی النار وواحدة فی الجنة وهی الجماعة وانه سیخرج فی امتی

اقوام تتجاری بهم تلک الاهواء کما یتجاری الکلب لصاحبه لایبقی منه عرق ولامفصل الا دخله. (مشکوٰة، ص: ۳۰)

ترجمہ: ''حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جیسا کہ قوم بنی اسرائیل پر آیا اور ان دونوں میں ایسی مماثلت ہوگی جیسا کہ دونوں جوتے برابر ہوتے ہیں یہاں تک کہ اگر قوم بنی اسرائیل میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ بدفعلی کی ہوگی تو میری امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو ایسا ہی کریں گے اور قوم بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں تقسیم ہوئی تھی اور میری امت تہتر فرقوں میں تقسیم ہوگی اور وہ تمام فرقے دوزخی ہوں گے ان میں سے صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنتی جماعت کونسی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ کرام ہوں گے اور احمد اور ابو داؤد کے الفاظ یہ ہیں۔ جن کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے نقل کیا ہے کہ بہتر (۷۲) گروہ دوزخ میں جائیں گے اور ایک گروہ جنت میں جائے گا اور وہ جنتی گروہ جماعت ہے اور میری امت میں کئی قومیں پیدا ہوں گی جن میں خواہشات یعنی عقائد فاسدہ اور بدعات اسی طرح سرایت کر

جائیں گی جس طرح ہڑک والے میں ہڑک سرایت کر جاتی ہے کہ کوئی رگ اور کوئی جوڑ اس سے باقی نہیں رہتا۔

حدیث نمبر ۱۸:

﴿عن ابن عمر رضی الله عنهما قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الله لایجمع امتی او قال امة محمد صلی الله علیه وسلم علی ضلالة وید الله علی الجماعة ومن شذ شذ فی النار﴾. (رواه الترمذی، مشکوٰة، ص: ۳۰)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ میری امت کو یا فرمایا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا اور جماعت پر اللہ کا ہاتھ (قدرت والا) ہے اور جو شخص جماعت سے کٹ گیا وہ تنہا جہنم میں جائے گا۔

حدیث نمبر ۱۹:

﴿عنه قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اتبعوا السواد الاعظم انه من شذ شذ فی النار﴾. (رواه ابن ماجه من حدیث انس وابن عاصم فی کتاب السنة، مشکوٰة، ص: ۳۰)

ترجمہ: ”حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑی

جماعت کی پیروی کرو اس لئے کہ جو شخص جماعت سے کٹ گیا وہ اکیلا جہنم میں جائے گا۔

حدیث نمبر ۲۰:

﴿عن ابی هریرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من تمسک بسنتی عند فساد امتی فله اجر مائة شهید﴾ (رواه البیهقی فی کتاب الزهد، مشکوٰة، ص: ۳۰)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے میری امت کے بگاڑ کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے پکڑا اس کے لئے ۱۰۰ شہیدوں کا ثواب ہے۔

حدیث نمبر ۲۱:

﴿عن ابی امامة رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ماضل قوم بعد هدًی کانوا علیه الا اوتوا الجدل ثم قرأ رسول الله صلی الله علیه وسلم هذه الآیة. ”ماضربوه لک الّا جدلاً بل هم قوم خصمون“﴾. (رواه احمد والترمذی وابن ماجه، مشکوٰة، ص: ۳۱)

ترجمہ: ”حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی قوم ہدایت کے بعد جو

ان کو دی گئی گمراہ نہیں ہوتی مگر جب ان میں جھگڑا یعنی تعصب پیدا ہوا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے۔ ''وہ تمہارے لئے نہیں بیان کرتے مثال مگر جھگڑنے کے لئے بلکہ وہ قوم جھگڑالو ہی ہے۔''

حدیث نمبر ۲۲:

﴿عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان ذئب الانسان کذئب الغنم یأخذ الشاذۃ والقاصیۃ والناحیۃ وایاکم والشعاب وعلیکم بالجماعۃ والعامۃ﴾. (رواہ احمد، مشکوۃ، ص: ۳۱)

ترجمہ: ''حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً شیطان، انسان کا بھیڑیا ہے جس طرح بکریوں کا بھیڑیا ہوتا ہے کہ وہ بھاگنے والی دور ہونے والی اور کنارہ پر رہنے والی بکری کو پکڑ لیتا ہے اور اپنے آپ کو علیحدگی کی گھاٹیوں سے بچاؤ اور جماعت مجمع اور جمہور کو لازم پکڑو۔''

حدیث نمبر ۲۳:

﴿عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. من فارق الجماعۃ شبراً فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقہ﴾. (رواہ احمد وابو اؤد، مشکوۃ، ص:

۳۱)

ترجمہ: ''حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے جماعت سے ایک بالشت علیحدگی کی اس نے اسلام کا پٹہ اپنی گردن سے نکال دیا۔''

حدیث نمبر ۲۴:

﴿عن مالک بن انس مرسلاً قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ماتمسکتم بھما. کتاب اللہ، وسنۃ رسولہ﴾ (رواہ فی المؤطا، مشکوۃ، ص: ۳۱)

ترجمہ: ''امام مالک بن انس رحمہ اللہ سے مرسل روایت ہے کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں تم جب تک ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے ہرگز گمراہ نہ ہو گے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔''

حدیث نمبر ۲۵:

﴿عن غضیف بن الحارث الثمالی رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احدث قوم بدعۃ الا رفع مثلھا من السنۃ فتمسک بسنۃ خیر من احداث بدعۃ﴾ (رواہ احمد، مشکوۃ، ص: ۳۱)

ترجمہ: حضرت غضیف بن حارث ثمالی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی قوم نے کوئی بدعت نہیں نکالی مگر اس کی مانند سنت اٹھالی جاتی ہے۔ لہٰذا سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا بدعت ایجاد کرنے سے بہتر ہے۔

حدیث نمبر ۲۶:

﴿عن حسان قال ما ابتدع قوم بدعة فی دینهم الا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لایعیدها الیهم الیٰ یوم القیامة﴾. (رواہ الدارمی، مشکوۃ، ص: ۳۱)

ترجمہ: حضرت حسان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں جب کوئی قوم دین میں بدعت (نیا عقیدہ یا نیا عمل) ایجاد کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مانند سنت سے ان کو محروم کر دیتے ہیں پھر وہ سنت ان کی طرف قیامت تک واپس نہیں کرتے۔

حدیث نمبر ۲۷:

﴿عن ابراهیم بن میسرہ رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من وقر صاحب بدعة فقد اعان علی هدم الاسلام﴾. (رواہ البیهقی فی شعب الایمان مرسلاً، مشکوۃ، ص: ۳۱)

ترجمہ: ''حضرت ابراہیم بن میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

فرمایا: جس شخص نے بدعتی یعنی نئے عقیدے اور نئے عمل کو دین بنانے والے کی تعظیم کی تو اسلام گرانے میں اس کی مدد کی۔''

حدیث نمبر ۲۸:

﴿عن ابن مسعود رضی الله عنه قال: من کان مستناً فلیستن بمن قدمات فان الحی لاتؤمن علیه الفتنة اولئک اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم کانوا افضل هذہ الامة ابرها قلوباو اعمقها علماً و اقلها تکلفًا، اختارهم الله لصحبة نبیه صلی الله علیه وسلم ولاقامة دینه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوا هم علی اثرهم وتمسکوا بما استطعتم من اخلاقهم وسیرهم فانهم کانوا علی الهدیٰ المستقیم﴾. (رواہ زرین، مشکوۃ، ص: ۳۲)

ترجمہ: ''حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں جو شخص پیروی کرنا چاہتا ہے اسے چاہئے کہ ان لوگوں کی پیروی کرے جو فوت ہو چکے ہیں یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی کیونکہ زندہ لوگ فتنہ سے مامون نہیں ہیں۔ اور قابل اتباع لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین ہیں۔ یہی لوگ امت کے افضل ترین لوگ ہیں۔ دل کے اعتبار سے نیک اور علم کے اعتبار سے کامل اور تکلف میں بہت کم تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور

اپنے دین کی اقامت کے لئے ان کو چن لیا تھا پس تم ان کی فضیلت کو پہچانو ان کے نقش قدم کی پیروی کرو اور ان کے اخلاق وسیرت کوحتی الوسع مضبوطی سے پکڑو کیونکہ وہ ہدایت کی سیدھی راہ پر تھے۔

حدیث نمبر۲۹:

﴿عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله لايقبض العلم انتزاعاينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤساً جهالاً فسئلو افافتوا بغير علم فضلو او اضلوا﴾ .(متفق عليه ، مشكوة، ص: ۳۳)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہ اٹھائے گا کہ بندوں سے نکال لے لیکن اس کو اٹھائے گا علماء کے اٹھانے کے ساتھ یہاں تک کہ جب کسی عالم کو باقی نہیں رکھے گا لوگ جاہلوں کو سردار بنائیں گے ان سے مسائل پوچھیں گے وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے تو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔

حدیث نمبر۳۰:

﴿عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال

رسول الله من طلب العلم ليجاري به العلماء اوليماري به السفهاء اويصرف به وجوه الناس اليه ادخله الله النار﴾ .(رواه الترمذي ورواه ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنه، مشكوة، ص: ۳۴)

ترجمہ: ''حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص علم طلب کرے تاکہ اس کے ساتھ علماء سے مقابلہ کرے یا بے وقوفوں سے جھگڑا کرے یا اس کے ذریعہ لوگوں کے منہ اپنی طرف متوجہ کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ آگ میں داخل کرے گا۔''

حدیث نمبر۳۱:

﴿عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برائه فليتبوأمقعده من النار وفي روايةمن قال في القرآن بغير علم فليتبوأمقعده من النار﴾ .(رواه الترمذي، مشكوة، ص: ۳۵)

ترجمہ: ''حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے قرآن میں اپنی رائے (عقل) سے بات کہی اسے چاہئے کہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنالے۔ اور ایک روایت میں ہے جس شخص نے قرآن میں بغیر علم کے بات کہی اسے چاہئے کہ اپنا

ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔''

حدیث نمبر۳۲:

﴿عن جندب رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من قال فی القرآن برائه فاصاب فقد اخطأ﴾ (رواه الترمذی وابوداؤد، مشکوٰة، ص: ۳۵)

ترجمہ: ''حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے قرآن میں اپنی رائے (عقل) سے بات کہی پس واقع کے مطابق کہی تو تحقیق اس نے خطا کی۔''

حدیث نمبر۳۳:

﴿عن ابی هریرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم المراءُ فی القرآن کفرٌ﴾ (رواه احمد وابوداؤد، مشکوٰة، ص: ۳۵)

ترجمہ: ''حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں جھگڑا کرنا کفر ہے۔ یعنی اپنے گندے نظریات کو قرآن سے ثابت بنا کر لوگوں سے جھگڑا کرنا کفر ہے۔

حدیث نمبر۳۴:

﴿عن عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده قال سمع

النبی صلی الله علیه وسلم قوماً یتدارؤن فی القرآن فقال انما هلک من کان قبلکم بهذا ضربوا کتاب الله بعضه ببعض وانما نزل کتاب الله یصدق بعضه بعضاً فلا تکذبوا بعضه ببعض فما علمتم منه فقولوا وماجهلتم فکلوهُ الی عالمه﴾ (رواه احمد وابن ماجه، مشکوٰة، ص: ۳۵)

ترجمہ: ''حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ سے وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کے بارے میں سنا کہ وہ آپس میں قرآن میں بحث اور جھگڑا کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً تم سے پہلے والے لوگ اسی سبب سے ہلاک ہوئے انہوں نے کتاب اللہ کے بعض کو بعض پر مارا یعنی ایسے مطالب بیان کئے جس کی وجہ سے تعارض اور ٹکراؤ پیدا ہوا حالانکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اسی لئے اتاری گئی ہے کہ بعض بعض کی تصدیق کرتی ہے۔ لہٰذا تم بعض کو بعض کے ساتھ مت جھٹلاؤ اور اس کے بارے میں تم جتنا جانتے ہو اس کو بیان کرو اور جو نہیں جانتے ہو اسے اس کے جاننے والے کی طرف سپرد کرو۔''

حدیث نمبر۳۵:

﴿عن معاویة رضی الله عنه قال سمعت النبی صلی الله علیه وسلم یقول لایزال من امتی امة قائمة بامر الله لایضرهم من خذلهم ولامن خالفهم حتی یأتی امر

الله وهم على ذلك﴾. (متفق عليه، مشكوة. ص: ۵۸۳)

ترجمہ: ”حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ صلی اللہ علیہ و سلم فرماتے تھے میری امت میں ہمیشہ ایک ایسی جماعت رہے گی جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر قائم ہوگی۔ جو شخص اس جماعت کو چھوڑ دے گا یا اس جماعت کی مخالفت کرے گا وہ ان کو نقصان نہیں دے گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ پہنچے گا۔“

حدیث نمبر ۳۶:

﴿عن معاوية بن قرة عن ابيه رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فسد اهل الشام فلا خير فيكم ولا يزال طائفة من امتى منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة﴾. (رواه الترمذى وقال هذا حديث حسن صحيح، ص: ۵۸۴)

ترجمہ: ”حضرت معاویہ بن قرۃ اپنے باپ قرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اہل شام تباہ ہو جائیں تو تم میں بھلائی نہ ہوگی اور میری امت میں ہمیشہ ایک جماعت ایسی رہے گی جس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید و نصرت حاصل ہوتی رہے گی اور جو شخص اہل حق کی اس جماعت کو چھوڑ دے گا وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا حتیٰ کہ قیامت قائم ہوگی۔“

حدیث نمبر ۳۷:

﴿عن حذيفة رضى الله عنه قال كان الناس يسئالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت اسأله عن الشر مخافة ان يدركنى قال: قلت يارسول الله! انا كنا فى الجاهلية وشر فجانا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير قال نعم، وفيه دخنٌ. قلتُ: وما دخنه قال قوم يستنون بغير سنتى ويهدون بغير هديتى تعرف منهم وتنكر منهم قلت فهل بعد ذلك الخير من شر قال نعم. دُعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها قلت يارسول الله(صلى الله عليه وسلم) صفهم لنا قال هم من جلدتنا ويتكلمون بالسنتنا قلت فما تأمرونى ان ادركنى ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وامامهم قلت فان لم يكن لهم جماعة ولا امام. قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعض باصل شجرة حتى يدركك الموت وانت على ذلك. (متفق عليه، وفى رواية لمسلم قال يكون بعدى ائمة لا يهتدون بهدى ولا يستنون بسنتى وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين فى جثمان انس قال حذيفة رضى الله عنه قلت كيف اصنع يا رسول الله ان ادركت ذلك قال تسمع وتطيع الأمير وان ضرب ظهرك واخذ مالك

فاسمع واطع ﴿ (مشکوۃ، ص: ۴۶۲)

ترجمہ: ’’حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ لوگ تو اکثر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر و نیکی اور بھلائی کے متعلق سوال کرتے تھے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر و برائی کے متعلق سوال کیا کرتا تھا اس خوف کی وجہ سے کہ کہیں ہم کسی فتنہ میں مبتلا نہ ہو جائیں (یعنی دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم تو عبادت اور اطاعت کے متعلق سوال کیا کرتے تھے تا کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیک عمل اور اچھے کام کر سکیں) میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم جاہلیت اور شر میں تھے اللہ تعالیٰ ہمارے پاس اس خیر کو لایا تو کیا اس خیر کے بعد کچھ شر ہے فرمایا ہاں میں نے کہا اور اس شر کے بعد پھر کیا خیر ہوگی؟ فرمایا ہاں اور اس میں کدرت ہوگی میں نے کہا اور اس کی کدورت کیا ہے فرمایا کچھ لوگ ہوں گے جو میری راہ کے سوا اور راہ اختیار کریں گے اور میری راہ کے علاوہ اور راہ دکھائیں گے ان کے بعض کاموں کو تو پہچانے گا۔ بعض کا انکار کرے گا میں نے کہا اس خیر کے بعد شر ہوگی فرمایا کہ ہاں جہنم کے دروازے کی طرف بلانے والے ہوں گے جو ان کی بات مانے گا اس کو دوزخ میں ڈالیں گے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے ان کے صفات بیان کریں فرمایا وہ ہماری قوم میں ہوں گے اور ہماری زبان میں کلام کریں گے میں نے کہا آپ مجھ کو کیا حکم دیتے ہیں اگر مجھ کو ایسا وقت پالے فرمایا: مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو لازم پکڑ۔ میں نے کہا اگر ان کا امام اور ان کی جماعت نہ ہو۔ فرمایا ان سب فرقوں سے علیحدہ ہو جا اگر چہ تجھے درخت کی جڑ پناہ کیوں نہ دے یعنی یہاں تک کے تجھے موت پالے اور تو اس حالت پر ہو اور مسلم کی روایت میں ہے میرے بعد امام ہوں گے جو میری راہ پر نہیں چلیں گے اور نہ میرے طریقے کو اختیار کریں گے اس زمانے میں کتنے ہی لوگ ہوں گے جن کے دل شیطانوں کے ہوں گے انسانی جسموں میں۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں میں کیا کروں اگر ایسا وقت پالوں۔ فرمایا تو اپنے امیر کی اطاعت کر اور جو کچھ وہ کہے اس کو سن اگر چہ تیری پیٹھ پر مارا جائے اور تیرا مال پکڑا جائے پھر بھی تو سمع اور اطاعت اختیار کر۔‘‘

حدیث نمبر ۳۸:

﴿عن ابی هريرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمناً ويمسى كافراً ويمسى مؤمنا ويصبح كافراً يبيع دينه بعرض من الدنيا﴾. (رواه مسلم، مشکوۃ، ص: ۴۶۲)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ

فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کالی رات کی طرح سیاہ فتنے آنے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو۔ ایک شخص صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا۔ شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر ہوگا۔ اپنے دین کو دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر بیچ ڈالے گا۔

حدیث نمبر ۳۹:

﴿عن اسامة بن زيد رضی الله عنه قال اشرف النبی صلی الله علیه وسلم علی اطم من اطام المدینة فقال هل ترون ما اریٰ قالوا لاقال فانی لاریٰ الفتن تقع خلال بیوتکم کوقع المطر﴾. (متفق علیه، مشکوة، ص: ۴۶۲)

ترجمہ: ”حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ٹیلوں کو جھانکر فرمایا۔ کیا تم اس چیز کو دیکھتے ہو جس کو میں دیکھتا ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کی نہیں۔ فرمایا بے شک میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح گر رہے ہیں۔“

حدیث نمبر ۴۰:

﴿عن الزبیر بن عدی قال اتینا انس بن مالک رضی الله عنه ،فشکونا الیه مانلقیٰ من الحجاج فقال

اصبروا فانه لایاتی علیکم زمان الا الذی بعده شرٌ منه حتی تلقوا ربکم سمعته من نبیکم صلی الله علیه وسلم﴾. (رواه البخاری، مشکوة، ص: ۴۶۳)

ترجمہ: ”حضرت زبیر بن عدی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسے حجاج بن یوسف کے برے سلوک کی شکایت کی جس سے ہم دو چار تھے۔ آپ نے فرمایا صبر کرو تم پر جو زمانہ بھی آئے گا وہ پہلے سے بدتر ہوگا یہاں تک تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے یہ بات میں نے تمہارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔“

حدیث نمبر ۴۱:

﴿عن علی رضی الله عنه قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول سیخرج قوم فی آخر الزمان حداث الاسنان . سفهاء الاعلام یقولون من خیر قول البریة لایجاوز ایمانهم حناجرهم یمرقون من الدین کمایمرق السهم من الرمیة فاینما لقیتموهم فاقتلواهم فان فی قتلهم اجرًا لمن قتلهم یوم القیامة﴾. (متفق علیه ،مشکوة ،ص: ۳۰۷)

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے آخر زمانہ میں ایک قوم نکلے گی نوسن اور بے وقوف ہوں گے بہترین خلق کی باتیں کریں گے (یعنی بظاہر

قرآن وحدیث کی بات کریں گے) ایمان ان کے نرخرے سے تجاوز نہیں کرے گا۔ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے تم ان کو جہاں بھی پاؤ قتل کرو ان کے قتل کرنے سے قیامت کے دن ثواب ملے گا۔

حدیث نمبر۴۲:

﴿عن ابی سعید الخدری وانس بن مالک رضی الله عنهما. قال سیکون فی امتی اختلاف وفرقة یحسنون القیل ویسیئون الفعل ویقرؤن القرآن لایجاوز تراقیهم یمرقون من الدین مروق السهم من الرمیة لایرجعون حتی یرتد السهم علی فوقهم هم شر الخلق والخلقیة طوبیٰ لمن قتلهم وقتلوه یدعون الی کتاب الله ولیسومنا فی شیء من قاتلهم کان اولیٰ بالله منهم قالوا یا رسول الله ماسیماهم قال التحلیق﴾. (رواه ابوداؤد، مشکوة، ص:۳۰۸)

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری اور انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عنقریب میری امت میں اختلاف اور تفرقہ بازی ہوگی۔ ایک قوم ہوگی جن کی باتیں بظاہر اچھی ہوں گی اور کام ان کے برے ہوں گے۔ دین سے نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ دین کی طرف نہیں لوٹیں گے یہاں تک کہ تیر اپنے سوفار کی طرف لوٹ آئے وہ بدترین مخلوق ہیں خوشخبری ہے اس

شخص کے لئے جوان کو قتل کرے اور وہ جس کو یہ قتل کریں وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب (قرآن) کی طرف (برائے نام) دعوت دیں گے۔ حالانکہ ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں جو شخص ان کے ساتھ لڑائی کرے گا وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوگا۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے کہا ان کی علامت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سر منڈوانا۔

حدیث نمبر۴۳:

﴿عن شریک بن شهاب قال کنت اتمنی ان القیٰ رجلاً من اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم اسأله عن الخوارج فلقیت ابابرزة رضی الله عنه فی یوم عید فی نفر من اصحابه فقلت له هل سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یذکر الخوارج قال نعم سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم باذنیّ ورائیته بعینیّ اُتیَ رسول الله صلی الله علیه وسلم بمال فقسمه فاعطیٰ من عن یمینه ومن عن شماله ولم یعط من ورائه شیئا فقام رجل من ورائه فقال یا محمد! صلی الله علیه وسلم ماعدلت فی القسمة، رجل اسود مطموم الشعر علیه ثوبان ابیضان فغضب رسول الله صلی الله علیه وسلم غضباً شدیدًا وقال والله لاتجدون بعدی رجلاً هو اعدل منی ثم قال یخرج فی آخر الزمان قوم کانّ هذامنهم

یقرؤن القرآن لایجاوز تراقیھم یمرقون من الاسلام کمایمرق السھم من الرمیة سیماھم "التحلیق" لایزالون یخرجون حتی یخرج آخرھم مع المسیح الدجال فاذا لقیتموھم ھم شر الخلق والخلیقة ﴿رواہ النسائی ،مشکوۃ،ص: ۳۰۹﴾

ترجمہ: شریک بن شہاب سے روایت ہے وہ کہتے ہیں میں تمنا رکھتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کو ملوں اور اس سے خوارج کے متعلق حالات معلوم کروں۔ چنانچہ میں عید کے دن حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے چند رفقاء کے ساتھ ملا میں نے کہا۔ کیا تو نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خوارج کے متعلق ذکر، اذکار سنا ہے کہا جی ہاں میری دونوں کانوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور میری دونوں آنکھوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال لایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تقسیم فرمایا اور دائیں جانب والے لوگوں کو دیا اور بائیں جانب والے لوگوں کو بھی دیا۔ پیٹھ پیچھے بیٹھنے والوں کو نہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نے تقسیم میں انصاف نہیں کیا وہ سیاہ رنگ کا آدمی تھا اس کے بال منڈھے ہوئے تھے اس پر دو سفید کپڑے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور فرمایا اللہ کی قسم میرے بعد مجھ سے زیادہ انصاف کرنے والا تم نہیں پاؤ

گے پھر فرمایا آخر زمانہ میں ایک قوم ظاہر ہوگی گویا یہ شخص انہیں میں سے ہے۔ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن ان کی گردنوں کے نرخرہ کے نیچے نہیں جائے گا۔ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے ان کی علامت سر کا منڈانا ہے وہ ہمیشہ خروج کرتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کا آخر مسیح دجال کے ساتھ نکلے گا جب تم ان کو پاؤ ان کو قتل کرو وہ بدترین آدمیوں اور جانوروں سے ہیں۔

(ف):...... ان حدیثوں میں خارجیوں کی علامت سر منڈانا بتایا گیا ہے اس لئے کہ اس وقت اس فتنہ کا بانی سر منڈا تھا جبکہ عرب میں عام رواج بال رکھنے کا تھا۔ لہٰذا ان روایات سے سر منڈانے کی مذمت اخذ کرنا یا ہر سر منڈے کو خارجی سمجھ لینا درست نہیں ہے۔ کیونکہ سر منڈانا خصوصاً حج کے موقع پر دین اسلام کی علامات میں سے ہے۔ دیکھئے قرآن مجید کی تلاوت بھی ان لوگوں کے صفات میں بیان کی گئی ہے لیکن تلاوت کو برا نہیں سمجھا جائے گا۔

حدیث نمبر ۴۴:

﴿کان ابن عمر رضی اللہ عنہ یراھم شرار خلق اللہ وقال انھم انطلقوا الیٰ آیات اللہ نزلت فی الکفار فجعلوھا علی المؤمنین﴾ ﴿بخاری ج ۲ ص: ۱۰۲۳﴾

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما خوارج کو اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق سے برا سمجھتے تھے۔ اور فرماتے تھے کہ یہ لوگ کفار کے حق میں اترنے والی آیات کو مومنین پر چسپاں کرتے ہیں۔

حدیث نمبر ۴۵:

﴿عن ابی سلمة وعطاء بن یسار رضی الله عنهما انهما آتیا اباسعید الخدری رضی الله عنه فسألاهٗ عن الحروریة، اسمعت النبی صلی الله علیه وسلم قال لاادری ماالحروریة سمعت النبی صلی الله علیه وسلم یقول یخرج فی هذه الامة ولم یقل منها. قوم تحقرون صلوتکم مع صلوتهم ویقرؤن القرآن لایجاوز حلوقهم اوحناجرهم یمروقون من الدین کمروق السهم من الرمیة فینظر الرامی الی سهمه الی نصله الی رصافه فیتماریٰ فی الفوقه هل علق بها من الدم شیء﴾. (بخاری، ج ۲، ص: ۱۰۲۴)

ترجمہ: ”حضرت ابوسلمہ اور حضرت عطا بن یسار سے روایت ہے کہ وہ دونوں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے سوال کیا کہ کیا آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خوارج کے متعلق کچھ سنا ہے۔ فرمایا میں نہیں جانتا حروریہ (خوارج) کیا ہیں! میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اس امت میں یوں نہیں فرمایا اس امت میں سے کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے اور قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے

جیسے تیر جانور سے پار نکل جاتا ہے (اس میں کچھ لگا نہیں رہتا) تیر مارنے والا تیر کو دیکھتا ہے پھر اس کے پیکان کو دیکھتا ہے پھر اس کے بار کو دیکھتا ہے (کہیں کچھ نہیں) اس کے بعد جز میں (جو کمان سے لگتا ہے) اس کو شک ہوتی ہے شاید اس میں خون لگا ہو (مگر وہ بھی صاف)۔

حدیث نمبر ۴۶:

﴿عن انس رضی الله عنه قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول انّ من اشراط الساعة ان یرفع العلم ویکثر الجهل. الحدیث﴾. (متفق علیه، مشکوٰة، ص: ۴۶۹)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے۔ قیامت کے علامات میں سے ہے کہ علم (دین) اٹھا لیا جائے گا اور جہالت زیادہ ہوگی۔

حدیث نمبر ۴۷:

﴿عن ابی هریرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ... ولعن آخر هذه الامة اولها. الحدیث﴾. (رواه الترمذی، مشکوٰة، ص: ۴۷۰)

ترجمہ: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس امت کے پچھلے لوگ پہلوں کو

لعن طعن، بُرا بھلا کہیں گے۔

حدیث نمبر ۴۸:

﴿عن ابی قلابة قال: قال ابن مسعود رضی الله عنه عليكم بالعلم قبل ان يقبض وقبضه ان يذهب باصحابه، عليكم بالعلم فان احدكم لايدری متی يفتقر اليه اويفتقر الىٰ ماعنده انكم ستجدون اقوامًا يزعمون انهم يدعونكم الىٰ كتاب الله وقد نبذوهُ وراء ظهورهم فعليكم العلم واياكم والتبدع، واياكم والتنطع، واياكم والتعمق، عليكم بالعتيق﴾. (سنن دارمی ج ١ ص: ٦٦)

ترجمہ: ابو قلابہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا علم کو قبض ہونے سے پہلے لازم پکڑو اور اس کے قبض ہو جانے کی صورت یہ ہے کہ اہل علم چلے جائیں گے۔ علم کو لازم پکڑو یقیناً تم میں سے کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ اس کو علم کی کب ضرورت پڑے گی اور دیگر لوگوں کو اس کے علم کی کب ضرورت پڑے گی۔ عنقریب تم ایسی قوموں کو پاؤ گے جو یہ گمان رکھتے ہوں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلا رہے ہیں حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال چکے ہوں گے تو علم کو لازم پکڑو اور اپنے آپ کو نئے عقائد و اعمال ایجاد کرنے سے بچاؤ اور اپنے آپ کو غلو فی الدین سے بچاؤ اور اپنے آپ کو خواہ مخواہ کی گہرائیوں اور باریکیوں سے بچاؤ اور (صحابہ کرام کے) پرانے راستے کو لازم پکڑو۔

حدیث نمبر ۴۹:

﴿عن شقيق قال: قال عبد الله كيف انتم اذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنةً فاذاغيرت قالوا غيرت السنة قالوا متى ذلك يا اباعبد الرحمن؟ قال اذا كثرت قراء كم وقلت فقهاؤ كم وكثرت اُمراؤ كم وقلت اُمناؤ كم والتمست الدنيا بعمل الآخرة﴾. (سنن دارمی ج ١ ص: ٧٥، شعب الايمان رقم حديث: ٦٩٥١)

ترجمہ: ”حضرت شقیق رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا کہ جب تم ایسے فتنہ میں گھر جاؤ گے کہ اسی فتنہ کی حالت میں چھوٹے بچے پرورش پا کر جوان ہو جائیں گے اور بڑی عمر والے بڑھاپے کو پہنچ جائیں گے لوگ اس فتنہ پر اس طرح عمل پیرا ہوں گے کہ اس کو سنت بنا لیں گے اس میں کوئی تبدیلی آئے گی تو کہیں گے کہ سنت تبدیل ہوگئی ہے۔ لوگوں نے کہا اے ابو عبدالرحمٰن! ایسا کب ہوگا؟ فرمایا یہ حالت اس وقت ہوگی جب تم میں قاریوں (قرآن پڑھنے والوں) اور حکمرانوں کی کثرت ہوگی اور امانت داروں کی قلت ہوگی اور آخرت طلب کرنے والے عمل کے ذریعہ دنیا

طلب کی جائے گی۔''

حدیث نمبر ۵۰:

﴿عن ثوبان رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم انه قال: انما اخاف علی امتی الائمة المضلین﴾

(سنن دارمی، ج ۱ ص: ۸۱)

ترجمہ: حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی امت پر گمراہ کرنے والے ائمہ کا خطرہ ہے کہ وہ میری امت کو سبز باغ دکھا کر گمراہ کریں گے۔

حدیث نمبر ۵۱:

﴿عن محمد بن علی رضی الله عنه قال لاتجالس اصحاب الخصومات فانهم یخوضون فی آیات الله﴾. (سنن دارمی، ج ۱ ص: ۸۲)

ترجمہ: حضرت محمد بن علی سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں جھگڑا کرنے والوں کے ساتھ مت بیٹھو وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی آیات میں گھسنے والے ہیں۔

حدیث نمبر ۵۲:

﴿عن ابن عمر رضی الله عنهما انه جاءه رجل فقال ان فلاناً یقرأ علیک السلام قال بلغنی انه احدث فان کان احدث فلاتقرأ علیه السلام﴾. (سنن دارمی، ج ۱ ص: ۱۲۰)

ترجمہ: ''حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہا کہ فلاں آدمی آپ کو سلام دیتا ہے۔ انہوں نے کہا مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ اس نے دین میں نئے نظریات ایجاد کئے ہیں (بدعات) اگر یہ بات درست ہے تو میرے سلام ان کو مت پہنچانا کیونکہ وہ اہل بدعت ہونے کی وجہ سے سلام کا حقدار نہیں ہے۔''

حدیث نمبر ۵۳:

﴿عن اسماء بن عبید دخل رجلان من اصحاب الاهواء علی ابن سیرین فقالا یا بابکر نحدثک بحدیث؟ قال لا. قال فنقراء علیک آیةً من کتاب الله قال. لا، لتقومان عنی او لا قومن قال فخرجا، فقال بعض القوم یا ابابکر و کان علیک ان یقرأ علیک آیة من کتاب الله تعالیٰ؟ قال انی خشیت ان یقرأ علیّ فیحرفانها فیقر ذلک فی قلبی﴾. (سنن دارمی، ج ۱ ص: ۱۲۱)

ترجمہ: اسماء بن عبید سے روایت ہے کہ دو بدبخت خواہش پرست حضرت امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا۔ اے ابا بکر ہم آپ کو حدیث سنائیں؟ فرمایا نہیں کیا قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھیں فرمایا نہیں (پھر فرمایا) یہاں سے اُٹھ کر چلے جاؤ یا پھر میں اُٹھ کھڑا ہوں گا۔ راوی کہتا ہے کہ

وہ دونوں اٹھ کر چلے گئے تو قوم کے بعض ساتھیوں نے کہا ان کے قرآن پڑھنے میں کیا حرج تھی؟ فرمایا مجھے خوف تھا کہ اگر وہ قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھتے اور اس کی معنی کی تحریف کرتے اور یہ غلط معنی میرے دل میں بیٹھ جاتا (شاید میں ان کی طرح گمراہ ہو جاتا لہٰذا ایسے لوگوں سے قرآن و حدیث سننا بھی درست نہیں)۔

حدیث نمبر۵۴:

﴿عن سهل بن سعد رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انی فرطكم على الحوض من مرّ علی شرب ومن شرب لم يظمأ ابداً ليردنّ علی اقوام اعرفهم ويعرفونني ثم يحال بينهم فاقول انهم منی فيقال انک لاتدری مااحدثوا بعدک فاقول سحقًا سحقًا لمن غيّر بعدی﴾. (متفق عليه، مشکوٰۃ، ص: ۴۸۸)

ترجمہ: حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً میں حوض کوثر پر تمہارا منتظر ہوں گا جو میرے پاس سے گزرے گا اس سے پئے گا اور جو شخص پئے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ پیاسا نہ ہوگا وہاں کچھ لوگ میرے پاس سے گزریں گے میں بذریعہ علامات ان کو پہچانوں گا اور وہ مجھے پہچانیں گے پھر میرے اور انکے درمیان

رکاوٹ ڈال دی جائے گی تو میں کہوں گا یہ (بظاہر) میرے ہیں تو مجھے کہا جائے گا آپ کو معلوم نہیں انہوں نے آپ کے بعد کیا بدعتیں ایجاد کیں تو میں کہوں گا ہلاکت در ہلاکت اس شخص کے لئے جس نے میرے دین کو تبدیل کیا۔

حدیث نمبر۵۵:

﴿اخرج الديلمی فی مسند الفردوس بسند ضعيف عن ابن عمر رضی الله عنهما عن النبی صلى الله عليه وسلم قال: تبيض وجوه اهل السنة وتسود وجوه اهل البدع﴾. (تفسير مظهری، ج ۲ ص: ۱۱٦، تفسير درمنثور ج ۲ ص: ٦۳)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل السنۃ کے چہرے سفید اور اہل بدعت کے منہ کالے ہوں گے۔

حدیث نمبر۵٦:

﴿عن ابن عباس رضی الله عنه انه قرء هذه الآية. "قال تبيض وجوه اهل السنة وتسود وجوه اهل البدعة﴾ (تفسير مظهری، ج ۲ ص: ۱۱٦، تفسير در منثور ج ۲ ص: ٦۳)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کی یہ آیت "يوم تبيض وجوه وتسود

وجوہ" تلاوت کی اور فرمایا اہل سنت کے چہرے سفید اور اہل بدعت کے منہ کالے ہوں گے۔

حدیث نمبر ۵۷:

﴿عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنه قال انّ فی البحر شیاطین مسجونة اوثقها سلیمان یوشک ان تخرج فتقرء علی الناس قرأنًا﴾ ۔(مسلم شریف ،ج ا ص: ۱۰)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ دریا میں شیطان قید ہے جن کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے قید کیا تھا عنقریب وہ نکلیں گے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے ان پر قرآن پڑھیں گے۔

حدیث نمبر ۵۸:

﴿عن ابن سیرین رحمة الله علیه قال لم یکونوا یسئلون عن الاسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سمّوا النار جالکم فینظر الی اهل السنة فیؤخذ حدیثهم وینظر الی اهل البدع فلایؤخذحدیثهم﴾ ۔ (مسلم ج ا ص: ۱۱)

ترجمہ: ابن سیرین رحمۃ اللہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں (عہد اول) کے لوگ سند حدیث کے بارے میں سوال نہیں کرتے تھے (کیونکہ اہل بدعت نہ ہونے کی وجہ سے سب ثقہ تھے) تو جب فتنے فساد اور بدعات رونما ہوئے تو لوگ کہتے تھے کہ اپنے راویوں کا نام لو (تاکہ ان کی جانچ پڑتال کی جائے) تو دیکھا جائے اگر وہ اہلسنت سے ہے تو اس کی حدیث کو لیا جائے گا اور اگر اہل بدعت سے ہے تو اس کی حدیث کو نہ لیا جائے گا۔

حدیث نمبر ۵۹:

﴿عن عمران بن حصین رضی الله عنه قال :قال رسول الله صلی الله علیه وسلم خیرامتی قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم ثم ان بعدهم قوم یشهدون ولایستشهدون ویخونون ولا یؤتمنون وینذرون ولا یفون ویظهرفیهم السمن وفی روایة ویحلفون ولا یستحلفون. (متفق علیه،وفی روية لمسلم عن ابی هریرة رضی الله عنه،ثم یخلف قوم یحبون السمانة﴾ ۔(مشکوة،ص:)

ترجمہ: حضرت عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میری امت کے بہترین لوگ میرے زمانے والے ہیں پھر وہ جوان کے بعد آئیں گے اور پھر وہ جوان کے بعد آئیں گے پھر ان کے بعد ایسی قوم آئے گی جو گواہی دیں گے اور ان سے گواہی طلب نہ کی جائے گی اور خیانت کریں گے ان پر اعتماد نہ کیا جائے گا اور منت مانیں گے اور پورا نہ کریں گے اور ان میں موٹاپا ظاہر ہوگا اور مسلم

کی روایت ہے پھر ایسی قوم آئے گی جو موٹاپا کو پسند کرے گی۔

مذکورہ بالا احادیث کا خلاصہ

اگر آپ مذکورہ بالا احادیث کا بغور مطالعہ فرمائیں تو آپ کو یہ بات واضح طور پر معلوم ہو جائے گی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی ہے کہ اس امت میں بکثرت فتنے فساد برپا ہوں گے گمراہیوں کے امام رونما ہوں گے سبز باغ اور رنگین دعوؤں کے ذریعہ لوگوں کے ایمانوں کو لوٹ لیں گے اسلام اور مسلمانی کا دعویٰ کریں گے حالانکہ اسلام سے ایسے نکل چکے ہوں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے اپنے خود ساختہ عقائد ونظریات کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کریں گے اور بات بات پر قرآن کی آیات پڑھیں گے قرآن، قرآن کی خوب رٹ لگائیں گے لیکن قرآن ان کے حلقوم سے نیچے نہیں اترے گا صحیح اور سچی احادیث کا یہ کہہ کر انکار کر دیں گے کہ یہ قرآن کے خلاف ہیں عقائد اپنے دماغ سے خود تیار کریں گے پھر قرآن مجید کی آیات کو ان کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے۔ آیات قرآنیہ کا ایسا غلط مطلب بیان کریں گے جو دوسری آیات کے خلاف اور متصادم ہوگا قرآن کے نام پر مسلمانوں سے خوب جھگڑا کریں گے حالانکہ خود پرلے درجہ کے جاہل ہوں گے جانتے کچھ نہ ہوں گے لیکن ان پڑھ ہونے کے باوجود فتوے دیکر لوگوں کو گمراہ کریں گے صرف اپنے آپ کو مسلمان سمجھیں گے باقی تمام مسلمانوں پر شرک وکفر کے فتوے لگائیں گے جو آیات یہود ونصاریٰ کے حق میں نازل ہوئی ہیں وہ خوانخواہ مسلمانوں پر فٹ کریں گے گمراہیوں کے یہ سرغنے غیر دین کو دین بنائیں گے اور دین میں رنگ برنگی اعتقادی بدعات کو شامل کریں گے دین اسلام کی اصلی شکل وصورت کو مسخ کرکے

ایک نئے قسم کا ایک ڈھانچہ تیار کریں گے اہلسنت والجماعت سے کٹ کر اور سلف صالحین کی پاک باز جماعت کو چھوڑ کر نئے نئے فرقے بنائیں گے کبھی اسلام کے نام پر کبھی قرآن کے نام پر کبھی قرآن وحدیث کے نام پر کبھی توحید کے نام پر اور کبھی اتحاد کے نام پر عوام الناس کو دھوکہ وفریب دیں گے۔

اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین نے ایسے لوگوں کا نام اہل ہوئی، اہل بدعت اور اہل فرقہ رکھا ہے اور ایسے لوگوں سے کلی اجتناب کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ ان کے پاس بیٹھنے کا ان کی باتیں سننے بلکہ ان سے قرآن وحدیث سننے سے بھی منع فرمایا ہے کیونکہ یہ لوگ قرآن پر بڑے دلیر واقع ہوئے ہیں جو چیز قرآن نہیں ہے اس کو قرآن بنا کر پیش کرتے ہیں اور قرآن مجید کی آیات کی تحریف کرتے ہیں اور غلط مفہوم بیان کرتے ہیں لہٰذا ایسے لوگوں سے قرآن سننے کو بھی ناجائز قرار دیا گیا ہے۔

مذکورہ بالا روایات سے یہ بات بھی واضح ہے کہ اہلسنت والجماعت سچی اور برحق جماعت ہے یہ وہ جماعت ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لے کر آج تک تسلسل اور تواتر وتوارث کے ساتھ چلی آ رہی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک اس مقدس جماعت کا تسلسل باقاعدگی کے ساتھ قائم ہے اور تسلسل ایک دن بھی نہیں ٹوٹا۔ اور یہ تسلسل قیامت تک دائم اور قائم رہے گا یہ جماعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے والی ہے۔ اور چودہ سو سالہ یہ صدی وار تسلسل نہیں ہے وہ فرقہ جس صدی کی بھی پیداوار ہے وہ اپنے سے پہلی صدی والا تک اپنا رشتہ نہیں بتا سکتا۔ بلکہ براہ راست قرآن کا یا قرآن وحدیث کا مدعی بننا چاہتا ہے اور جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تک اپنے مذہب اور

نظریات وعقائد کا تسلسل ثابت نہیں کر سکتے بلکہ درمیان والی تمام صدیوں کو پھلانگ کر قرآن یا قرآن وحدیث یا اسلام کا نام لیتے ہیں ان کا یہ طرز عمل خود ان کی گمراہی کی دلیل ہے کیونکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ درمیان میں کچھ ایسی صدیاں گزری ہیں جن میں تمام لوگ نہ قرآن واسلام کو جاننے والے تھے نہ ماننے والے اور نہ ہی اس پر عمل کرنے والے تھے۔ ان میں کوئی ایک شخص بھی مسلمان نہیں تھا اور یہ بات خود غلط اور قرآن وحدیث کی پیشگوئیوں کے خلاف ہے اور اس لئے بھی کہ جو قرآن وحدیث اور اسلام ایسے لوگوں کے ذریعے آئندہ صدی کے لوگوں کے ہاتھوں تک پہنچا ہے تو اس قرآن واسلام پر کیا اعتماد رہ سکتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ہر دور اور ہر صدی میں قرآن، حدیث اور اسلام کو جاننے، ماننے اور اس پر عمل کرنے والے مسلسل چلے آ رہے ہیں اس تسلسل میں ایک منٹ بھی انقطاع واقع نہیں ہوا اور یہی چیز اہلسنت والجماعت کا خاصہ ہے جو دوسرے کسی فرقے اور گروہ میں نہیں پایا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل سنت والجماعۃ سے وابستہ رہنے کی تاکید فرمائی ہے اور اس جماعت کو چھوڑنے پر جہنم کی وعید سنائی ہے اور ایسی جماعت کو اہل حق اور اہلسنت فرما کر ان کا نام خود تجویز فرمایا ہے اور قیامت تک ہر دور اور ہر وقت میں تسلسل کے ساتھ جاری وساری رہنے والی اس جماعت کے ساتھ قائم رہنے کی ترغیب فرمائی اور اس کو چھوڑنے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا۔

اہلسنت والجماعۃ اور فرقہ بندی

قرآن مقدس اور حدیث پاک میں گروہ بندی اور فرقہ بازی سے شدت کے ساتھ منع کیا گیا ہے لیکن واضح ہو کہ اہلسنت والجماعت اصطلاحی معنی میں نہ گروہ

ہے نہ فرقہ بلکہ یہ لوگ تو اہل حق کی ہر دور میں ایک رواں دواں جماعت ہے۔ فرقہ تو وہ ہے جو اس جماعت سے کٹ کر اور اس جماعت کی راہ چھوڑ کر ایک نئی جماعت بنالی جائے اور اہلسنت سے علیحدہ اپنا ایک اور تشخص قائم کرے وہ فرقہ ہے اور گروہ بندی ہے اور اسی کی قرآن وحدیث میں مذمت کی گئی ہے اہلسنت والجماعۃ مذموم فرقہ قطعاً نہیں ہے۔ اہل حق کی اس سچی جماعت کو فرقہ کہنا یا فرقہ سمجھنا بہت بڑی غلط فہمی اور مغالطہ آمیزی ہے۔ لہٰذا اگر کہیں اہل حق کی اس جماعت کو فرقہ کہا بھی گیا ہے تو وہ مذموم معنی کے لحاظ سے اصطلاحی فرقہ مراد نہیں ہے بلکہ وہاں فرقہ بامعنیٰ جماعت کے ہے بہت سے لوگ اس حقیقت سے ناآشنا ہونے کی وجہ سے اہل السنّت والجماعت کو فرقہ کہنے اور سمجھنے لگ جاتے ہیں حالانکہ یہ جماعت فرقہ نہیں ہے بلکہ فرقے وہ ہیں جو اس جماعت کو چھوڑ کر الگ نام، کام اور جماعت بنا چکے ہیں۔ حتیٰ کہ اہلسنت والجماعت کے عقائد ونظریات بھی چھوڑ چکے ہیں اور خود ساختہ اور خود باختہ خیالات کو قرآن وحدیث اور اسلام کا لیبل لگا کر سادہ لوح عوام کو گمراہ کرنے میں مشغول و مصروف ہیں فقہی مذاہب اور اصلاحی مشارب، فقہ کے چار مذاہب اور صوفیاء کرام کے چار اصلاحی سلسلے قطعاً فرقے نہیں ہیں بلکہ چاروں آئمہ مجتہدین امام ابوحنیفہؒ، امام مالکؒ، امام شافعیؒ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور ان کے پیروکار و مقلدین اہل السنّت والجماعت ہیں، ان کا آپس کا فقہی فروعی اختلاف مذموم نہیں بلکہ محمود اور رحمت ہے ان کے اختلاف کی حقیقت وحیثیت صرف مختلف تعبیرات اور تشریحات کی ہے اسی طرح اصلاحی سلاسل، نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، اور سہروردیہ بھی مختلف فرقے نہیں ہیں بلکہ یہ سب حضرات اہلسنت والجماعت ہیں البتہ سالکین راہ کی اصلاح اور تربیت کے طریق ان کے مختلف ہیں جیسے دینی مدارس کے قرآن پڑھانے والے

اساتذہ کرام مبتدی طلبہ کو قرآن مجید پڑھانے سے پہلے کوئی نورانی قاعدہ پڑھاتا ہے اور کوئی بغدادی قاعدہ پڑھاتا ہے اور کوئی یسرنا القرآن، پڑھاتا ہے لیکن مقصد سب کا ایک ہوتا ہے کہ بچے کے لئے قرآن پڑھنا آسان ہوجائے اسی طرح اصحاب سلاسل مختلف طریقوں سے سالکین کی تربیت کرتے ہیں مقصد سب کا ایک ہوتا ہے کہ سالک کی اصلاح ہوجائے اسی طرح آئمہ اربعہ کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ لوگ قرآن وحدیث پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ لہٰذا آئمہ اربعہ اور اصحاب سلاسل کو فرقہ کہنا کوتاہ فہمی ہے کیونکہ یہ تو سب کے سب اہلسنت والجماعت ہیں، دلیل یہ ہے کہ فرقہ بندی میں جو لوگ مبتلا ہو چکے ہیں وہ لوگ اہلسنت والجماعت سے نفرت کرتے ہیں ان سے بغض وعناد رکھتے ہیں ان کے خلاف ان کے سینے کینے سے بھرے ہوئے ہیں جبکہ ان چاروں مذاہب اربعہ کے پیروکاروں اور چاروں سلاسل کے سالکین کے درمیان پیار ومحبت ہے۔ الفت واخلاص ہے۔ رواداری اور ایثار ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ معمولی اختلاف کے باوجود یہ سب ایک ہیں اور سب اہل حق اور اہل سنت ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کو فرقہ کہنا درست نہیں ہے جو ان کو فرقہ کہتا ہے وہ درحقیقت فرقہ کی حقیقت سے ناآشنا ہے۔

قرآن مجید میں سلف صالحین کی جماعت کی پیروی کا حکم

آپ نے گزشتہ سطور میں بہت سی احادیث کا مطالعہ کیا جن میں جماعت کے ساتھ چلنے کی زبردست تاکید کی گئی ہے اور جماعت سے کٹنے کو ایمان کے لئے خطرناک قرار دیا گیا ہے اب چند آیات ملاحظہ فرمائیے جن میں صالحین کی جماعت کی راہ کو صراط مستقیم کہا گیا ہے اور اسی راہ پر چلنے کی تاکید فرمائی گئی ہے۔

آیت نمبر۱:

اھدنا الصراط المستقیم. صراط الذین انعمت علیھم. غیر المغضوب علیھم ولا الضالین. (سورۃ الفاتحۃ، آیت ۷)

ترجمہ: از حضرت تھانوی رحمہ اللہ بتلا دیجئے ہم کو راستہ سیدھا، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب کیا گیا اور نہ ان لوگوں کا جو راستہ سے گم ہوگئے۔

(ف)......اس آیت میں صراط مستقیم یعنی سیدھی راہ کو متعین کیا گیا ہے کہ وہ ان مقدس لوگوں کی راہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا اور اس انعام یافتہ جماعت کے لوگ چار قسم کے ہیں چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

آیت نمبر۲:

﴿ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیھم من النبیین والصدیقین والشھداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا﴾ (سورۃ النساء آیت ۶۸)

ترجمہ: "از حضرت تھانوی، اور جو شخص اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مان لے گا تو ایسے اشخاص بھی ان حضرات کی ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے یعنی انبیاء، اور صدیقین اور شہداء، اور صلحا اور یہ حضرات بہت اچھے رفیق ہیں۔

تو اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ منعم علیہم چار قسم کے لوگ ہیں۔ ۱۔ انبیاء کرام علیہم السلام ۲۔ صدیقین ۳۔ شہدا ۴۔ صالحین۔"

تو ثابت ہوا کہ صالحین کی راہ بھی صراط مستقیم ہے اور ان کی پیروی کرنا، ان کے نقش قدم پر چلنا گویا کہ صراط مستقیم پر چلنا ہے اس آیت میں صراط مستقیم کو متعین کرنے میں صراط القرآن والحدیث کے مختصر جملہ کی بجائے صراط الذین انعمت علیہم فرمانا دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن وحدیث کے صحیح مفہوم ومطالب تک رسائی سلف صالحین کی پیروی کے بغیر مشکل ہے اور صراط مستقیم بھی ان کے اتباع کے بغیر حاصل نہیں ہوتی ہے تو قرآن مجید کی یہ آیت سلف صالحین کی جماعت کی پیروی کرنے کی تاکید کرتی ہے الحمدللہ اہلسنت والجماعت کا قرآن مجید کی اس آیت پر پورا پورا عمل ہے چنانچہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ انسان کی اصلاح وفلاح کے لئے دو چیزیں ضروری ہیں ایک کتاب اللہ جس میں انسانی زندگی کے ہر شعبہ سے متعلق احکام موجود ہیں دوسری رجال اللہ، یعنی اللہ والے ان سے استفادہ کی صورت یہ ہے کہ کتاب اللہ کے معروف اصول پر رجال اللہ کو پرکھا جائے جو اس معیار پر نہ اتریں ان کو رجال اللہ ہی نہ سمجھا جائے اور جب رجال اللہ صحیح معنی میں حاصل ہو جائیں تو ان سے کتاب اللہ کا مفہوم سیکھنے اور عمل کرنے کا کام لیا جائے۔

فرقہ وارانہ اختلافات کا بڑا سبب یہی ہے کہ کچھ لوگوں نے صرف کتاب اللہ کو لے لیا، رجال اللہ سے قطع نظر کر لی ان کی تفسیر وتعلیم کو کوئی حیثیت نہ دی اور کچھ لوگوں نے صرف رجال اللہ کو معیار حق سمجھ لیا اور کتاب اللہ سے آنکھ بند کر لی اور ان دونوں طریقوں کا نتیجہ گمراہی ہے۔ (تفسیر معارف القرآن جلد ۱ صفحہ ۹۴)

آیت نمبر ۳:

﴿واذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا أنؤمن کما آمن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولکن لایعلمون﴾. (سورۃ بقرہ آیت ۱۳)

ترجمہ: "از حضرت تھانوی، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایسا ہی ایمان لے آؤ جیسا ایمان لائے ہیں اور لوگ تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لاویں جیسا ایمان لے آئے ہیں یہ بے وقوف، یاد رکھو بے شک یہی ہیں بے وقوف لیکن اس کا علم نہیں رکھتے۔"

(ترجمہ از شاہ رفیع الدین صاحبؒ)

(ف):...... اس آیت میں منافقین کے سامنے ایمان اور اعتقاد کی ایک کسوٹی اور معیار پیش کیا گیا ہے کہ تم ان لوگوں جیسا ایمان لے آؤ تب تمہارا ایمان معتبر ہے اگر تمہارا ایمان ان لوگوں جیسا نہیں ہے خواہ تم ایمان، قرآن اور اسلام کے کتنے دعوے کیوں نہ کرو تمہارے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں کیونکہ صحابہ کرام ایمان کی کسوٹی اور حق کا معیار ہیں اور اس مقدس جماعت کی پیروی راہ نجات اور صراط مستقیم ہے اور صحابہ کرام کی جماعت صالحین کی سرخیل اور اول دستہ ہے لہٰذا ان جیسا ایمان قابل قبول ہے ورنہ مردود ہے۔ اس آیت پر عمل کرتے ہوئے علماء اہلسنت والجماعۃ صحابہ کرام کو معیار حق سمجھتے ہیں اور اس مقدس جماعت کی پیروی کو ضروری قرار دیتے ہیں چنانچہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ لکھتے ہیں۔ "چھٹی آیت میں منافقین کے سامنے صحیح ایمان کا ایک معیار رکھا گیا ہے کہ "اٰمِنُوا کَمَآ اٰمَنَ النَّاسُ" یعنی ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے اور لوگ" اس میں لفظ ناس سے مراد بالاتفاق، مفسرین صحابہ کرام ہیں کیونکہ وہی

حضرات ہیں جو نزول قرآن کے وقت ایمان لائے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی ایمان معتبر ہے جو صحابہ کرام کے ایمان کی طرح ہو جن چیزوں میں جس کیفیت کے ساتھ ان کا ایمان ہے اسی طرح کا ایمان دوسروں کا ہوگا تو ایمان کہا جائے گا ورنہ نہیں اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا ایمان ایک کسوٹی ہے جس پر باقی ساری امت کے ایمان کو پرکھا جائے گا جو اس کسوٹی پر صحیح نہ ہو اس کو شرعاً ایمان اور ایسا کرنے والے کو مومن نہ کہا جائے گا اس کے خلاف کوئی عقیدہ اور عمل خواہ ظاہر میں کتنا ہی اچھا نظر آئے اور کتنی ہی نیک نیتی سے کیا جائے اللہ کے نزدیک ایمان معتبر نہیں۔ ان لوگوں نے صحابہ کرام کو سُفھاء یعنی بے وقوف کہا اور یہی ہر زمانے کے گمراہوں کا طریقہ رہا ہے کہ جو ان کو صحیح راہ بتلائے اس کو بے وقوف جاہل قرار دیتے ہیں مگر قرآن کریم نے بتلا دیا کہ در حقیقت وہ خود ہی بے وقوف ہیں کہ ایسی کھلی نشانیوں پر ایمان نہیں رکھتے۔

(معارف القرآن جلد ا ص ۱۲۵)

تو معلوم ہوا کہ قران مجید کی یہ آیت بھی صالحین کی جماعت کی پیروی کا حکم دیتی ہے۔

آیت نمبر۴:

﴿ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ماتولى ونصله جهنم وساء ت مصيرا﴾ (سورۃ نساء آیت ۱۱۵)

ترجمہ: ''از حضرت تھانویؒ۔ اور جو شخص رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی مخالفت کرے گا بعد اس کے کہ اس کو امر حق ظاہر ہو چکا تھا اور مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستہ پر ہو لیا تو ہم اس کو جو کچھ وہ کرتا ہے، کرنے دیں گے اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بری جگہ ہے جانے کی۔''

(ف): اس آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے ساتھ ساتھ مومنین کی جماعت کی مخالفت کو ایمان کے لئے خطرناک قرار دیا گیا اور جماعت مومنین سلف صالحین کی راہ پر چلنے کی تاکید و ترغیب دی گئی اور ان کے راستے کو چھوڑنے سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ اور اہلسنت والجماعت کا یہی نظریہ ہے کہ جماعت کی راہ صراط مستقیم ہے جس کو چھوڑنے سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے چنانچہ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ لکھتے ہیں (آیت نمبر ۱۱۵) اس آیت میں دو چیزوں کا جرم عظیم اور دخول جہنم کا سبب ہونا بیان فرمایا ہے ایک مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ظاہر ہے کہ مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفر اور وبال عظیم ہے۔ دوسرے جس کام پر سب متفق ہوں اس کو چھوڑ کر ان کے خلاف کوئی راستہ اختیار کرنا، اس سے معلوم ہوا کہ اجماع امت حجت ہے، یعنی جس طرح قرآن وسنت کے بیان کردہ احکام پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے اسی طرح امت کا اتفاق جس چیز پر ہو جائے اس پر بھی عمل کرنا واجب ہے اور اس کی مخالفت گناہ عظیم ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا:

﴿يد الله على الجماعة،من شذشذ فى النار﴾

''یعنی جماعت کے سر پر اللہ کا ہاتھ ہے اور جو شخص جماعت مسلمین سے علیحدہ ہوگا وہ علیحدہ کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔''

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ کیا! اجماع امت کے حجت ہونے کی دلیل قران مجید میں ہے؟

آپ نے قرآن مجید سے دلیل معلوم کرنے کے لئے تین روز تک مسلسل تلاوت قرآن کو معمول بنایا، ہر روز دن میں تین مرتبہ اور رات میں تین مرتبہ پورا قرآن ختم کرتے تھے، بالآخر یہی مذکورہ آیت ذہن میں آئی اور اس کو علماء کے سامنے بیان کیا تو سب نے اقرار کیا کہ اجماع کی حجت پر یہ دلیل کافی ہے۔ (معارف القرآن ج:۲ ص ۵۴۷) تو ثابت ہوا کہ سلف صالحین کی جماعت کی پیروی ضروری ہے اور اس راہ کو چھوڑنا گمراہی ہے۔

آیت نمبر ۵:

والسبقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضى الله ورضوا عنه. (سورۃ توبہ آیت: ۱۰۰)

ترجمہ: "از حضرت تھانویؒ۔ اور جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کی ساتھ ان کی پیرو ہیں اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اس سے راضی ہوئے۔"

(ف)...... اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سابقین اولین مہاجرین و انصار سے راضی ہونے کی خوشخبری سنائی اور ساتھ ساتھ ان کے پیروکاروں کو بھی خوشخبری سنائی کہ میں ان سے راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہیں۔

تو یہ آیت بھی صحابہ کرام کی مقدس جماعت کی پیروی کی ترغیب دیتی ہے اور تاکید کرتی ہے اور صحابہ کرام صالحین کی جماعت کے سرخیل اور سرتاج ہیں۔ اور اہلسنت والجماعت کا عقیدہ ہیکہ صحابہ کرام کی جماعت کی پیروی کے بغیر نجات مشکل ہے چنانچہ حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں "وَالَّذِیْنَ اتَّبَعُوْهُمْ" سے وہ لوگ مراد ہیں جو سابقین اولین کے بعد آئے اور ان کے نقش قدم پر چلے خواہ وہ صحابہ ہوں تابعین ہوں یا تبع تابعین یا ان سے بھی بعد۔ غرض یہ کہ "وَالَّذِیْنَ اتَّبَعُوْهُمْ" سے وہ تمام لوگ مراد ہیں جو مہاجرین اور انصار کی پیروی کریں۔ خواہ وہ کسی زمانہ میں ہوں وہ سب جنت کے مستحق ہیں اور خدا ان سے خوش اور وہ خدا سے خوش پس یہ آیت قیامت تک جملہ مسلمانوں کو شامل ہے جو صحابہ کے طریقہ پر ہوں اور اقوال و افعال میں ان کے پیروکار ہوں۔ بغیر صحابہ کے اتباع کے اور پیروی کے خدا کی رضا اور جنت نہیں مل سکتی اور اہل سنت والجماعت کا یہی طریقہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور جماعت صحابہ کرام کے طریقہ پر چلتے ہیں اس لئے ان کو اہلسنت والجماعۃ کہا جاتا ہے۔ (معارف القرآن ادریسی ج:۳ ص:۳۰۰)

تو بہرحال یہ آیت بھی جماعت کی پیروی کی دلیل ہے۔

آیت نمبر ۶:

﴿واتبع سبيل من اناب الىّ﴾ (سورۃ لقمان آیت ۱۵)

ترجمہ از حضرت تھانویؒ: "اور اس شخص کی راہ پر چلنا جو میری طرف رجوع ہو۔"

(ف)...... اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے لوگوں کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ والوں کی راہ پر چلو اور ان کا اتباع کرو۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن اور اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لئے سلف صالحین کی جماعت کی پیروی ضروری ہے۔

مفسر قرآن علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمہ اللہ آیت مذکورہ بالا کی تعریف لکھتے ہیں۔ "وحاصله اتبع سبيل المخلصين" خلاصہ یہ ہے کہ مخلصین کی

جماعت کی پیروی ہے۔ (روح المعانی جلد:۱۱ص:۱۳۲)

علامہ آلوسی رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں "وغیر واحد یقول هو صلی الله علیه وسلم والمومنون والظاهر العموم" (روح المعانی ج: ۱۱ ص:۳۱۳) یعنی بہت سے مفسرین نے فرمایا ہے کہ آیت مذکورہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والوں کی پیروی کا جو حکم دیا گیا ہے اس سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کی جماعت ہے اور واضح یہی ہے کہ اس آیت میں عموم ہے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام مومنین کی جماعت مراد ہے۔

آیت نمبر ۷:

﴿یاایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم ج﴾ (سورۃ النساء آیت ۵۹)

ترجمہ از حضرت تھانویؒ: اے ایمان والو تم اللہ کا کہنا مانو اور رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کا کہنا مانو اور تم میں جو لوگ اہل حکومت ہیں ان کا بھی۔

(ف)......اس آیت میں "اُولی الامر" کی اطاعت کا بھی حکم دیا گیا "اُولی الامر" کا معنی حکم والے اور یہ دو قسم پر ہیں ایک حکمران جو حکم چلانے والے ہیں دوسرا علماء وفقہاء اسلام یہ حکم بتانے والے ہیں لہٰذا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ "اُولی الامر" یعنی حکمرانوں اور علماء وفقہاء کی بھی اطاعت کرنی ہے اور یہ علماء وفقہاء اسلام بھی صالحین کی جماعت کے افراد ہیں لہٰذا یہ آیت بھی صالحین کی جماعت کی پیروی اور اتباع کا حکم دیتی ہے چنانچہ حضرت مولانا محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں: "اولی الامر" کی تفسیر میں بعض حضرات نے تو یہ فرمایا کہ اس سے مراد مسلمان حکام ہیں اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے فقہاء مراد ہیں۔ یہ دوسری تفسیر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مجاہد رحمہ اللہ، حضرت عطا بن ابی رباحؒ، حضرت عطاء بن السائب رحمہ اللہ، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ، حضرت ابوالعالیہ رحمہ اللہ اور دوسرے بہت سے مفسرین سے منقول ہے اور امام رازی رحمہ اللہ نے اسی تفسیر کو متعدد دلائل کے ذریعہ ترجیح دیتے ہوئے لکھا ہے:

"اس آیت میں لفظ "اُولی الامر" سے علماء مراد لینا اَولیٰ ہے"۔ (تفسیر کبیر ج:۳ ص:۳۳۴)

اور امام ابوبکر جصاصؒ فرماتے ہیں کہ دونوں تفسیروں میں کوئی تعارض نہیں، بلکہ دونوں مراد ہیں اور مطلب یہ ہے کہ حکام کی اطاعت سیاسی معاملات میں کی جائے اور علماء وفقہاء کی مسائل شریعت کے باب میں۔ (احکام القرآن للجصاص ج:۲ ص:۲۵۶)

اور علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اُمرا کی اطاعت کا نتیجہ بھی بالآخر علماء ہی کی اطاعت ہے کیونکہ اُمرا بھی شرعی معاملات میں علماء کی اطاعت کے پابند ہیں۔ "مطاعة الامرا تبع لطاعة العلماء"۔ (اعلام الموقعین، ج ا ص:۷)

بہرحال اس تفسیر کے مطابق آیت میں مسلمانوں کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور ان علماء وفقہاء کی اطاعت کریں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی شارح ہیں اور اسی اطاعت کا اصطلاحی نام تقلید ہے۔ (تقلید کی شرعی حیثیت ص:۱۶۔۱۷)

واضح رہے کہ جن علماء حق اور فقہاء اسلام کو اولی الامر کہہ کر ان کی اطاعت پیروی کا حکم دیا گیا ہے وہ صالحین کی جماعت کے اعلیٰ افراد ہیں لہٰذا اس آیت میں بھی صالحین کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔

جماعت قرآنی کے منکر آیات قرآنی کے منکر ہیں

قارئین! قرآن مجید کی یہ چھ آیات بینات آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں جن میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ ایک جماعت کی پیروی اور اتباع کا حکم دیا گیا ہی اور جماعت ایسی ہے جو عہد اول سے چلی ہے اور ہر دور میں مسلسل چلی آ رہی ہے اور قیامت تک چلتی رہے گی کیونکہ اس جماعت کے راستہ کو صراط مستقیم کہا گیا ہے اور ایسے لوگوں کی نقش قدم پر چلنے کی تاکید کی گئی ہے تو لازم ہے کہ یہ جماعت ہر دور میں اپنے عقائد اور نظریات کے ساتھ باقی موجود ہو اور سوائے اہلسنت والجماعت کوئی ایسی جماعت نہیں پائی جاتی جو اس تسلسل کے ساتھ دائم وقائم اور جاری وساری ہو کیونکہ جو فرقہ چودھویں صدی میں پیدا ہوا وہ تیرھویں صدی میں موجود نہیں تھا اور تیرھویں صدی میں پیدا ہونے والے کا بارھویں صدی میں نام ونشان نہیں اس طرح جس فرقہ نے بارہویں صدی میں جنم لیا وہ گیارہویں صدی میں موجود نہیں تھا لہٰذا قرآن مجید نے جس جماعت کی پیروی کا حکم دیا ہے وہ سلف صالحین کی اہلسنت والجماعت ہے باقی سب نوزائندہ فرقے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب ان نومولود فرقوں سے سوال کیا جاتا ہے کہ کیا تمہارے خیالات، نظریات والے لوگ تم سے پہلے بھی دنیا میں کہیں موجود تھے تمہاری جماعت کے افراد خیر القرون میں بھی پائے جاتے تھے؟ تو جواب دیتے ہیں کہ ہم کسی جماعت کو،

کسی جماعت کے افراد کو، بزرگوں، عالموں اور اماموں کو نہیں مانتے ہم تو قرآن کو مانتے ہیں۔ ایک تو یہ بات واضح ہوگئی کہ فرقے قرآن والی جماعت کو نہیں مانتے دوسری یہ بات کہ ان فرقوں کا عہد اول تک کوئی تسلسل نہیں ہے لہٰذا ان کا نومولود ہونا ہی ان کے گمراہ ہونے کی دلیل ہے اور ان کا یہ کہنا بھی جھوٹ ہے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں کیونکہ قرآن تو اپنی جماعت کی پیروی کا حکم دیتا ہے اور یہ لوگ قرآن کی جماعت کا انکار کرتے ہیں۔ اس طریقہ سے یہ لوگ صرف جماعت قرآنی کے منکر نہیں بلکہ آیات قرآنی کے بھی منکر ہیں جن میں جماعت کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔

وضاحت کے لئے ایک مثال:

ایک شخص بوڑھا ہوگیا۔ اس کے دو بیٹے تھے یہ شخص اپنے چھوٹے بیٹے کو کہتا ہے۔ بیٹا! میں تجھ نصیحت کرتا ہوں کہ تو اپنے بڑے بھائی کی پیروی کر اس کا کہا مان۔ اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کر۔ چھوٹا بولتا ہے۔ ابو جان میں آپ کی مانوں گا لیکن بڑے بھائی کی نہیں مانوں گا۔ باپ بار بار بڑے بھائی کی پیروی کا حکم کرتا ہے۔ بیٹا بار بار یہی کہتا ہے کہ ابو جان آپ کی مانوں گا۔ بڑے بھائی کی نہیں مانوں گا۔ تو ظاہر ہے کہ بے وقوف چھوٹا بیٹا صرف بڑے بھائی کا انکار نہیں کرتا ہے بلکہ باپ کی بات کو رد کر کے باپ کا نافرمان ہو رہا ہے اسی طرح قرآن مجید کے دعویدار لوگ قرآن مجید کی جماعت کا انکار کر کے قرآن مجید کا انکار کر رہے ہیں کیونکہ جماعت کی پیروی اور اطاعت کا حکم بھی تو قرآن نے دیا ہے۔ لہٰذا اسلف صالحین کی راہ چھوڑ دینا گویا قرآن مجید کو چھوڑ نا ہے۔

قرآن اور جماعت قرآن دونوں کی پیروی کی صحیح صورت

علماء اہلسنت والجماعت کے نزدیک دین اسلام کی اصل بنیاد قرآن مجید ہے اور اسی کی پیروی کرنا اس پر عمل کرنا راہ نجات ہے لیکن ہمارے علماء فرماتے ہیں قرآن مجید کی کسی آیت کی تفسیر سمجھنے کے لئے قرآن مجید کی جماعت کی راہنمائی حاصل کی جائے۔ جو کچھ قرآن مجید کی تفسیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، فقہاء اسلام اور بزرگان دین نے فرمائی ہے وہی صحیح اور برحق ہے۔ دوسرے لفظوں میں قرآن مجید کی کسی آیت کا مطلب متعین کرنے میں قرآن مجید کی جماعت کا فہم معتبر ہے قرآن کی جماعت نے قرآن مجید کی جو تشریح وتفسیر بیان کی ہے وہ درست ہے۔ یوں سمجھئے کہ قرآن اللہ کا اور فہم سلف صالحین کی جماعت کا ہے بخلاف گمراہ فرقوں کے کہ وہ سلف صالحین، بزرگان اور ائمہ مجتہدین کی بیان کردہ تشریحات کو پس پشت ڈال کر آیات قرآنی کا مطلب اپنی فہم وسمجھ کے مطابق متعین کرتے اور پھر اپنی فہم کو قرآن مجید کا درجہ دے دیتے ہیں اور جو شخص ان کی فہم کو نہ مانے اس پر منکر قرآن ہونیکا فتوٰی صادر کر دیتے ہیں۔

فرق خوب سمجھ لیجئے تفسیر قرآن کے سلسلہ میں اہلسنت والجماعت سلف صالحین کے فہم پر اعتماد کرتے ہیں جبکہ نومولود فرقے سلف صالحین کی راہ چھوڑ کر اپنی فہم وسمجھ کو قرآن کا درجہ دیتے ہیں۔

ایک دوسرا فرق یہ بھی ہے کہ اہلسنت والجماعت کے اکابر اور آئمہ مجتہدین قرآن مجید کا مطالعہ فرما کر عقائد ومسائل کا استخراج واستنباط کرتے ہیں بخلاف گمراہ فرقوں کے کہ وہ لوگ مسئلہ اپنے دماغ سے گھڑ لیتے ہیں پھر قرآن مجید کو اپنے خود ساختہ

مسئلہ کے مطابق ڈھالنے کی سعی مذموم کرتے ہیں۔ تو بہر حال یہ بات واضح ہوگئی کہ فہم قرآن کے سلسلہ میں جماعت قرآن کی پیروی کرنی ہے جو لوگ قرآن والی جماعت کی راہ چھوڑ کر تفسیر قرآن میں اپنی مرضی اور من مانی کرتے ہیں وہ ہمیشہ راہ راست اور صراط مستقیم سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔

قرآن مجید کی تفسیر میں اپنی مرضی اور من مانی کرنے کا انجام

جن لوگوں نے فہم قرآن کے صحیح طریقہ کو چھوڑ کر سلف صالحین کی تشریحات وتعبیرات کو پس پشت ڈال کر اور قرآن والی جماعت کی راہنمائی سے بے نیاز ہو کر اپنی مرضی اور منشاء کے مطابق قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کی اور آیات قرآنی کو اپنے خیالات کے مطابق ڈھالنے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور اپنے گندے اور خیالات فاسدہ کو قرآن کا درجہ دینے میں کھینچ تان کی تو ایسے بے راہ لوگوں نے اللہ تعالی کی کتاب کو بازیچہ اطفال بنا کر رکھ دیا اور تحریف قرآن کی بدترین مثالیں قائم کر کے یہود ونصاری کو بھی مات کر دیا۔

ایسے بدقماش لوگوں نے بزور قلم قرآن مجید سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد نہیں ہے۔ ایسے ہی لوگوں نے صلوٰۃ، زکوٰۃ اور روزہ وغیرہ عبادات مخصوصہ کا حلیہ بگاڑ کر کہا کہ صلوٰۃ، دعا کا نام ہے۔ زکوٰۃ پاکی صفائی کا نام ہے اور روزہ، صرف گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔

ایسے ہی لوگوں نے قرآن مجید سے ختم نبوت، حیات عیسیٰ علیہ السلام اور عذاب قبر کا انکار ثابت کیا۔ قرآن پڑھ کر، جنات، ملائکہ، پل صراط، شیاطین، وزن، اعمال، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حشر اجساد کا انکار کیا۔

یہی لوگ تو ہیں جنہوں نے قرآن کے نام پر معجزات، کرامات، قربانی، دجال اور امام مہدی کا انکار کیا ہے، ایسے ہی لوگوں نے ٹی وی، ناچ گانا، تصویریں، سود وغیرہ حرام کاموں کو قرآن مجید سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔

وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے قرآن سے اللہ کے نبیوں، ولیوں اور اماموں کو، عالم الغیب، مختار کل، ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا ثابت کیا ہے۔ غیر اللہ کے سجدے نذر و نیاز، گیارہویں شریف، جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن مجید سے ثابت کیا ہے۔ جو لوگ ایک مجلس کی تین طلاقوں کو تین نہیں کہتے اور یتیم پوتے کو دادا کی جائیداد میں وارث بناتے ہیں استدلال تو وہ بھی قرآن سے کرتے ہیں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کو ثابت کرنے والے، (نعوذ باللہ) لوگ بھی قرآن پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ان کا بن باپ پیدا ہونا قرآن کے خلاف ہے۔ حضور اکرم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو (توبہ نعوذ باللہ) کافر و مرتد کہنے والے لوگ بھی قرآن کریم کی آیات کو دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قاتل عبدالرحمٰن بن ملجم اور اس کا خارجی گروپ بہت بڑا قرآنی تھا اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کفر اور واجب القتل ہونا قرآن سے ثابت کرتا تھا۔ ثابت کرنے والوں نے اپنا متعہ بھی تو قرآن سے ثابت کیا ہے۔ مرد و عورت کی مساوات اور بے پردی بھی قرآن سے ثابت کی گئی ہے اور کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ نماز کی ضرورت نہیں، ذکر کافی ہے دلیل قرآن ہے کہنے والے قرآن کا نام لے کر کہتے ہیں۔ توسل شرک، سماع موتی شرک اور پوری اُمت مشرک (العیاذ باللہ) حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کو شرک کی بنیاد کہہ دیا بہت سے لوگوں۔ مہدی، مسیح، موعود اور نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور پھر ایسے دعوؤں کو قران سے ثابت کر دکھایا۔ کسی نے بیک وقت قرآن سے گیارہ شادیاں ثابت کیں۔ کسی نے عورت کی سربراہی ثابت کی۔ اور کسی نے عورت کی دیت کو مرد کی دیت کے برابر ثابت کیا۔

الغرض یار لوگوں نے کیا کچھ قرآن سے ثابت کر کے نہیں دکھایا حتیٰ کہ ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں کہ شراب و خنزیر حلال ہے۔ جب اس سے ثبوت مانگا گیا تو قرآن مجید کی درج ذیل آیت پڑھی اور اپنے دعوے کو ثابت کر دیا۔

﴿طَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ﴾

"یعنی اہل کتاب کا طعام تمہارے لئے حلال ہے۔"

طرز استدلال یہ اپنایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل کتاب کا کھانا تمہارے لئے حلال ہے۔ اہل کتاب شراب پیتے ہیں، خنزیر کھاتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے لئے بھی یہ چیزیں حلال ہیں۔ کیونکہ یہ بھی اہل کتاب کا کھانا ہیں حالانکہ سلف صالحین کی انعام یافتہ جماعت کے نزدیک اس آیت کی مراد یہ ہے کہ تمہارے لئے اہل کتاب کی ذبیحہ حلال ہے یعنی مرغی، بکری وغیرہ جس طرح مسلمان ذبح کرے تو حلال ہے اسی طرح اگر اہل کتاب کا کوئی آدمی حلال جانور کو ذبح کرے تو وہ بھی حلال ہے۔

خلاصہ یہ کہ آزادی نظر و فکر کے نام سے جن لوگوں نے قرآن کی بتائی ہوئی انعام یافتہ جماعت کی راہ چھوڑی اور اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اپنی مرضی کی اور من مانی چلائی تو عبدالرحمٰن بن ملجم جیسے خارجی، رافضی، ناصبی، معتزلی، جبری، قدری، ذکری، قادیانی، چکڑالی، پرویزی اور مسعود الدین عثمانی غیر مقلد جیسے فرقہ ساز لوگ پیدا ہوئے۔ جنہوں نے قرآن کو بازیچہ اطفال بنایا۔ غیر قرآن کو قرآن ٹھہرایا، بے دینی کو دین کا نام دیا اور کفر کو اسلام کا لیبل لگایا اور تمام مسلمانوں کو خارج از اسلام کہہ کر خود کو

اسلام کا واحد ٹھیکیدار بنایا۔

اسی بے راہ روی اور ذہنی آوارہ گردی سے بچنے کے لئے اللہ تعالی نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لئے انعام یافتہ جماعت صالحین کی پیروی کو لازمی قرار دیا ہے اور صرف اسی جماعت کو صراط مستقیم بتایا ہے اور جماعت کی راہ چھوڑنے کو گمراہی قرار دیا ہے اسی لئے تو اہلسنت والجماعت کے لوگ قرآن والی جماعت کی پیروی کرتے ہیں اور اس جماعت کے چھوڑنے کو گمراہی بتاتے ہیں جبکہ دوسرے فرقے صرف قرآن قرآن کی رٹ خوب لگاتے ہیں اور جماعت کی راہ اختیار کرنے سے انکاری ہیں حالانکہ جماعت کے بغیر قرآن کے مطالب تک رسائی ناممکن ہے۔ یہ ہے اہلسنت والجماعت اور فرقوں کا واضح فرق۔

کیا قرآن مجید میں ہر مسئلہ کا واضح جواب موجود ہے؟

قرآن مجید کو برائے نام استعمال کرنے والے فرقوں کی عادت ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو فوراً سوال کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ قرآن مجید سے کرو ثابت، قرآن مجید پیش کرو، اگر اس مسئلہ کا جواب قرآن میں نہیں ہے تو ہم اس کو نہیں مانتے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر مسئلہ اور ہر جزئیہ وضاحت کے ساتھ قرآن مجید کی عبارت میں موجود نہیں ہے اور نہ ہی ایسا ممکن ہے ورنہ موجودہ قرآن سے تو قرآن کئی گنا بڑھ جاتا ہے جس سے استفادہ کرنا بھی دشوار ہو جاتا۔ قرآن مجید تو ایک اصولی کتاب ہے جس سے جزئیات نسبتہً کم اور اصول زیادہ ہیں دیکھئے قرآن مجید میں نماز پڑھنے کا حکم موجود ہے لیکن مکمل طریقہ نماز تعداد رکعات وغیرہ ذکر نہیں کی گئیں۔ زکوٰۃ کا حکم ہے لیکن نصاب نہیں بتایا گیا اور یہ بھی نہیں بتایا گیا مال کا چالیسواں حصہ زکوٰۃ ہے روزے کا حکم ہے لیکن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا یہ تفصیل قرآن میں نہیں ہے حج وعمرہ کے بعض مسائل تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں مذکور ہیں لیکن مکمل طریقہ مذکورہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں التحیات، دعائے قنوت، اذان وتکبیر کے الفاظ اور رکوع وسجود کی تسبیحات موجود نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں نماز جنازہ ادا کرنے کا طریقہ لکھا ہوا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں گدھے، گھوڑے، ہاتھی، بھینس، کوا، اور طوطا وغیرہ پرندوں اور جانوروں کے حلال وحرام ہونے کا حکم موجود نہیں ہے۔

الغرض نامعلوم کتنی جزئیات وعبادات ہیں جن کا حکم یا تفصیل قران مجید میں موجود نہیں ہے لہٰذا ہر مسئلہ میں قرآن مجید کی آیت کا مطالبہ کرنا کہ ہر مسئلہ قرآن سے ثابت کرو ورنہ ہم نہیں مانتے پرلے درجے کی جہالت اور قرآن سے ناواقفیت ہے۔ حتی کہ مولانا محمد علی جالندھری رحمہ اللہ منکرین حدیث سے سوال کیا کرتے تھے کہ بتاؤ قرآن مجید کی کس آیت میں واضح طور پر لکھا ہے کہ کتے کا پیشاب ناپاک ہے، مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید میں تمام جزئیات کا احاطہ نہیں ہے البتہ قرآن مجید نے ایک ایسا طریقہ بتایا ہے کہ اگر اس پر عمل کیا جائے تو ہر مسئلہ کا حل نکل آتا ہے۔

"تِبۡیَانًا لِکُلِّ شَیۡءٍ" کا مطلب

جب یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ شریعت کے ہر مسئلہ کا جواب واضح لفظوں میں موجود نہیں ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو اللہ تعالی نے تبیانا لکل شئی فرمایا ہے تو اس کا کیا مطلب؟ تو علماء السنت والجماعت فرماتے ہیں کہ اس آیت کا صحیح مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ایسے اصول اور ضابطے قرآن مجید میں لکھ دیئے ہیں اگر ان کو بروئے کار لایا جائے اور صحیح استعمال کیا جائے تو ہر مسئلہ کا حل قرآن مجید سے نکل سکتا ہے اور اصول یہ ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں۔

﴿یاایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامرمنکم ﴾ (سورۃ النسا آیت ۵۹)

ترجمہ: اے ایمان والوتم اللہ کا کہنا مانو اور رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا کہنا مانو اور تم میں جو لوگ اہل حکومت میں ان کا بھی۔

اس آیت پاک میں اللہ تعالی نے کسی مسئلہ کے حل کے لئے یہ اصول بیان فرمایا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالی کی اطاعت کرو یعنی قرآن مجید کی طرف رجوع کرو اگر مسئلہ کا جواب قرآن مجید میں موجود ہے تو بہتر اگر قرآن میں وہ مسئلہ نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو یعنی حدیث میں مسئلہ کو تلاش کرو اگر حدیث میں مسئلہ مل جائے تو بہتر اگر نہیں تو "أولى الامر" کی اطاعت کرو اور یہ بات پہلے باحوالہ گزرچکی ہے کہ فقہاء اسلام اور علماء ربانی "أولي الامر" میں داخل اور شامل ہیں لہٰذا ان کی طرف رجوع کرو اگر اس مسئلہ پر تمام فقہاء اسلام کا اتفاق ہے تو یہ اجماع اُمت ہے اور اگر فقہاء اسلام کا اس میں اختلاف ہے تو یہ اجتہاد اور قیاس صحیح ہے پس اپنے امام کی تقلید کرو۔ اب اس آیت میں ہمیں بتایا گیا کہ مسئلے کا حل پہلے نمبر پر قرآن میں تلاش کرو، نہیں تو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تلاش کرو، نہیں تو اجماع امت کو مانو۔ نہیں تو اپنے فقیہ وامام کی تقلید کرو اور یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ شریعت کے چار اصول ہیں (۱) کتاب اللہ (۲) سُنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (۳) اجماع اُمّت (۴) قیاس صحیح۔ الحمدللہ علماء اہلسنت قرآن مجید کے بتائے ہوئے اس اصول پر ہمیشہ عمل کرتے چلے آرہے ہیں بخلاف گمراہ فرقوں کے کہ انہوں نے قرآن مجید کے بیان کردہ اصولوں کو چھوڑ رکھا ہے بلکہ

اس اصول قرآنی کے منکر ہیں کیونکہ بعض فرقے بلکہ اکثر فرقے صرف قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور بس۔ بقیہ اصولوں کا واضح لفظوں میں انکار کرتے ہیں۔ حدیث کا انکار۔ اجماع کا انکار اور قیاس صحیح کا انکار اور بعض گمراہ فرقے زبانی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن وحدیث کو مانتے ہیں اور کسی چیز کو نہیں مانتے بلکہ اجماع اور قیاس صحیح کا کھلے لفظوں میں انکار کرتے ہیں اور بعض فرقے قرآن وحدیث اور اجماع کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن قیاس صحیح کا صاف انکار کرتے ہیں۔ اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے قرآن مجید کے بیان کردہ ان چار اصولوں میں سے کسی ایک کے انکار سے چاروں کا انکار لازم ہے اور کسی ایک آیت کے انکار پورے قرآن مجید کا انکار لازم ہے۔ یہ بات پہلے گزرچکی ہے کہ اہلسنت والجماعت کی راہ چھوڑ کر نئے فرقے بنانے والے یہ لوگ قرآن مجید کی جماعت کا انکار کر کے چھ سے زائد آیات کا انکار کر چکے ہیں اور اب قرآن مجید کے اس اصول کا انکار کر کے مزید نا معلوم کتنی آیات کا انکار کرتے ہیں جن میں یہ اصول بیان کیا گیا ہے اور علماء اہلسنت پوری پابندی کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہیں۔ چنانچہ مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں" رہا یہ سوال کہ قرآن کریم میں دین کے بھی تو سب مسائل مذکور نہیں تو "تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ" ۔ کہنا کیسے درست ہوگا اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم میں اصول تو تمام مسائل کے موجود ہیں انہیں کی روشنی میں احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مسائل کا بیان کرتی ہیں اور کچھ تفصیلات کو اجماع وقیاس شرعی کے سپرد کر دیا جاتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع وقیاس سے جو مسائل نکلے ہیں وہ بھی ایک حیثیت سے قرآن ہی کے بیان کئے ہوئے ہیں۔ (معارف القرآن جلد ۵ صفحہ ۳۷۵) تو معلوم ہوا کہ بے شک قرآن ہر مسئلے کا حل پیش

کرتا ہے اور ہر شئے کا بیان ہے بشرطیکہ قرآن کے بتائے ہوئے طریقہ پر عمل کیا اور قرآن مجید میں اپنی مرضی اور من مانی نہ کی جائے۔

کتاب اللہ میں مرضی اور من مانی کرنا یہود کا طریقہ ہے

یہودیوں کی ایک بُری عادت یہ بھی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں تحریف کرتے تھے اور ان کا غلط اور من مانا مطلب بیان کرتے تھے چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

آیت نمبر۱:

﴿افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منھم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونه من بعد ما عقلوہ وھم یعلمون﴾ (سورۃ بقرہ: آیت ۷۵)

ترجمہ از حضرت تھانوی رحمہ اللہ: کیا اب بھی تم توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہارے کہنے سے ایمان لے آویں گے حالانکہ ان میں کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے تھے پھر اس کو کچھ کا کچھ کر ڈالتے تھے اس کو سمجھنے کے بعد اور جانتے تھے۔

آیت نمبر۲:

﴿ومن الذین ھادوا یحرفون الکلم عن مواضعه، الآیة﴾ (سورۃ النساء آیت ۴۶)

ترجمہ از حضرت تھانوی رحمہ اللہ: یہ لوگ یہودیوں میں سے ہیں۔ کلام کو اس کے مواقع سے دوسری جانب پھیر دیتے ہیں۔

آیت نمبر۳:

﴿ومن الذین ھادوا سمّٰعون للکذب سمّٰعون لقوم آخرین لم یاتوک یحرفون الکلم من بعد مواضعه﴾، الآیة، (سورۃ مائدۃ، آیت ۴۱)

ترجمہ از حضرت تھانوی رحمہ اللہ: اور خواہ وہ ان لوگوں میں سے ہوں جو کہ یہودی ہیں یہ لوگ غلط باتوں کے سننے کے عادی ہیں آپ کی باتیں دوسری قوم کی خاطر سے کان دھر دھر سنتے ہیں جس قوم کے یہ حالات ہیں کہ وہ آپ کے پاس نہیں آئے کلام کو بعد اس کے کہ وہ اپنے مواقع پر ہوتا ہے بدلتے رہتے ہیں۔

قارئین کرام! یہ چند آیات آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں ان کے علاوہ اور بھی آیات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم یہود اللہ اور اس کے پیغمبروں کے کلام میں تحریف کرتے تھے اور ان کا غلط معنی اور غلط مطلب بیان کرتے تھے بعینہ اہلسنت والجماعت کو چھوڑ کر فرقے بننے والے لوگ اپنے غلط نظریات کو قرآن مجید سے ثابت کرنے کے لئے قرآن مجید کے معانی ومطالب کو تبدیل کر دیتے ہیں اور بات کو کہیں سے کہیں تک پہنچا دیتے ہیں اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی بھی تحریف کرتے ہیں۔ اور پھر اس کو قرآن کہنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ وہ قرآن نہیں بلکہ قرآن مجید کی تحریف ہوتی ہے چنانچہ ان لوگوں نے جو پروپیگنڈہ کر رکھا ہے کہ تنخواہیں حرام ہیں۔ سماع موتی اور توسل شرک ہے اور قبر کا حساب وعذاب نہیں ہے وغیرہ یہ قرآن قطعاً نہیں ہے بلکہ یہ قرآن مجید کی تحریف ہے اور آیات کا غلط مطلب ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ بہرحال آیات قرآنیہ میں تحریف کرنا یہودیوں کا

ایک شرمناک کردار ہے جس کو ان فرقوں نے اپنا رکھا ہے۔

اللہ تعالیٰ پر افتراء یہودیوں کا کام ہے

قوم یہود جن روحانی بیماریوں میں مبتلا تھی ان میں ایک مرض اللہ تعالیٰ پر افتراء یعنی بہتان باندھنا بھی ہے چنانچہ ان کی عادت یہ تھی کہ وہ جو عقیدہ رکھتے، جو عمل کرتے کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے فرمایا ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ پر افتراء ہوتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس قسم کا کوئی حکم نہیں دیا ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ناشائستہ حرکت کو بہت بڑا ظلم قرار دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا۔

﴿وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰی عَلَی اللّٰہِ الْکَذِبَ﴾.
(سورۃ صف، آیت)

ترجمہ از حضرت تھانوی رحمہ اللہ: اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور ایک دوسرے مقام پر ارشاد ہے "ویلکم لاتفتروا علی اللہ کذبا فیسحتکم بعذاب وقد خاب من افتری"۔ (سورۃ طٰہٰ، آیت ۶۱)

ترجمہ از حضرت تھانوی رحمہ اللہ: "ارے کم بختی مارو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ افتراء مت کرو کبھی خدا تعالیٰ تم کو کسی قسم کی سزا سے بالکل نیست و نابود ہی کر دے اور جو جھوٹ باندھتا ہے وہ ناکام رہتا ہے۔"

بد قسمتی سے یہود کی یہ بیماری ان نام نہاد قرآنیوں میں بھی پائی جاتی ہے یہ لوگ بھی مسئلے اور عقیدہ خود تراش لیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ پر افتراء کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا اور وہ فرمایا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی جس سے ان کے

خیالات باطلہ کی تائید ہو لیکن محض اللہ تعالیٰ پر جھوٹے بہتان باندھتے ہیں جس طرح یہودی باندھا کرتے تھے۔

قرآن کے مدعیوں کی حقیقت

محترم قارئین: آپ کو معلوم ہو گیا کہ اہلسنت کی راہ چھوڑنے والے مدعی قرآن نہ تو قرآن کی جماعت کی پیروی کرتے ہیں بلکہ کھلے لفظوں میں قران کی جماعت کا انکار کرتے ہیں حالانکہ قرآن مجید میں بار بار صالحین کی جماعت کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے اور پھر قرآن مجید کے یہ مدعی قرآن کے اصول کو بھی تسلیم نہیں کرتے کہ کسی مسئلہ کا حل اولاً قرآن مجید میں تلاش کیا جائے اگر وہ مسئلہ قرآن مجید میں نہ ہو تو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تلاش کیا جائے اگر حدیث میں نہ ہو تو اجماع امت کی طرف رجوع کیا جائے ورنہ قیاس شرعی سے مسئلہ حل کیا جائے لیکن قرآن کے یہ مدعی اس اصول قرآنی کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تحریف قرآن اور افتراء علی اللہ کر کے یہود کی پیروی کرتے ہیں بلکہ قران مجید میں یہود کی جن بیماریوں کا ذکر ہے وہ سب کی سب ان فرقوں میں قدر مشترک کے طور پر پائی جاتی ہیں کیونکہ درحقیقت ان فرقوں اور فتنوں کو برانگیختہ کرنے میں یہودیوں کا ہاتھ ہے عبد اللہ بن سبا دراصل یہودی تھا اس ظالم نے منافقانہ طور پر اسلام کا اظہار کیا اور بڑی عیاری وچالاکی سے اس ظالم نے مسلمانوں میں تفرقہ ڈال کر فرقہ بندی کی داغ بیل ڈالی۔

الحمد للہ اہلسنت والجماعت جماعت نبوی ہے اور اس کو چھوڑنے والے فرقے ہیں۔ البتہ ہر فرد نے اپنا ایک رنگین نام تجویز کر رکھا ہے لیکن یہ سب فرقے عبد اللہ بن سبا کی ذہنیت کے مالک اور ان کے خیالات باطلہ کے حامل ہیں۔

آپ اگر میرے اس دعویٰ کی تصدیق چاہتے ہیں تو قرآن مجید کی اُن آیات کا مطالعہ فرمائیں جن میں یہود کے اطوار و اخلاق کو بیان کیا گیا ہے اور پھر اہلسنت والجماعت کی راہ چھوڑنے والے برائے نام قرآنی فرقوں کے اخلاق اور عادات کو دیکھیں انشاء اللہ آپ ان میں اور اُن میں سرِمُو فرق نہ پائیں گے۔ طابق النعل بالنعل ان پر بالکل فٹ آتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ اسلام و قرآن اور توحید کا لیبل لگا کر یہودیت کے ایجنٹ یا پھر سبائیت، خارجیت اور معتذلیت کا نیا ماڈل ہیں۔

قرآن کے چار اصولوں کی اہمیت وافادیت

قرآن مجید میں جو یہ چار اصول بیان کئے گئے ہیں اور درجہ بدرجہ ان سب کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے کہ پہلے نمبر پر قرآن کی دوسرے نمبر پر حدیث کی تیسرے نمبر پر اجماع اُمت کی اور چوتھے نمبر پر قیاس شرعی کی پیروی کرو۔ یہ ہے تمام مسائل کا حل جس کو اللہ تعالیٰ نے پیش فرمایا ہے اور دنیا ودین کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو اس ترتیب سے حل نہ ہو اور یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ دین اسلام کی کسی عبادت کو بھی سرانجام دینے کے لئے ان چارے قرآنی اصولوں پر عمل ناگزیر ہے نماز روزہ، حج، عمرہ، زکوٰۃ وغیرہ کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جو ان چاروں میں سے کسی ایک کو چھوڑ کر صحیح طریقہ پر ادا کی جاسکے۔ مثلاً نماز کو لے لیجئے۔ دو یا تین یا چار رکعت نماز میں آپ قیام، قرات، رکوع، سجود، ثناء، تعوذ، تسمیہ وغیرہ بہت کچھ ادا کرتے ہیں اور یہ بھی یقین ہے کہ ان سب کا درجہ ایک نہیں ہے بعض چیزیں، فرض، بعض واجب بعض سنت اور بعض مستحب ہیں۔ یقین جانیئے یہ تمام درجات قرآن وحدیث میں صاف لفظوں میں مقرر نہیں کئے گئے بعض اجماع اور بعض قیاس صحیح یعنی اجتہاد سے مقرر کئے گئے ہیں۔ نیز نماز میں قیام، قرأت اور رکوع وسجود تو قرآن سے ثابت ہیں اور فاتحہ اور سورۃ ملانا وغیرہ حدیث سے ثابت ہے اور امام کی تکبیریں اونچی اور مقتدیوں کی آہستہ اجماع اُمت سے ثابت ہیں اسی طرح امام کا سلام اونچا اور مقتدی کا سلام آہستہ یہ بھی اجماع اُمت سے ثابت ہے اور اگر کوئی شخص بھول کر رکوع کی تسبیح کی بجائے سجود کی تسبیح پڑھ لے یا سجود کی تسبیح کی بجائے رکوع کی تسبیح پڑھ لے تو کیا نماز ہوگی یا نہ؟ اگر ہوگئی تو سجدہ سہو واجب ہوگا یا نہ؟ تو جواب یہ ہے کہ نماز ہوگئی اور سلام سہو بھی واجب نہیں ہے یہ ایک فقیہ اسلام اور امام وقت کا اجتہاد ہے کیونکہ رکوع وسجود کی تسبیحات اور ان کے الٹ ہوجانے یا ترک ہوجانے سے نہ نماز ٹوٹی ہے اور نہ ہی سَہو واجب ہوتا ہے۔ تو نماز کی تکمیل میں قرآن کے ان چاروں اصولوں کو بروئے کار لایا گیا اور یہی حال بقیہ عبادات کا ہے۔ تو بہرحال قران کے یہ چار اصول کتنے اہم اور مفید ہیں کہ آدمی ان کے بغیر چار رکعت بلکہ ایک رکعت نماز بھی ادا نہیں کرسکتا۔ لیکن برائے نام قرآنیوں کو دیکھئے وہ قران کے ان چاروں اصولوں کو پس پُشت ڈال کر قرآن، اسلام اور توحید کا نام استعمال کرتے ہیں۔ حالانکہ صحیح معنوں میں قرآن کو ماننے والا قرآن سے کسی ایک اصول کا انکار نہیں کرسکتا۔ کیو کہ ان میں سے کسی کا انکار، چاروں کا انکار ہے اور چاروں کا انکار قرآن کا انکار ہے۔

کیا قرآن آسان ہے؟

جماعت قرآنی کو چھوڑنے والے اصول قرآنی کو توڑنے والے۔ یہودی ذہنیت کے مالک اور قران، توحید، اسلام کے نام لیوا یہ فرقہ پرست اور فرقہ ساز لوگ

ہمیشہ آیات قرآنیہ کا غلط معنی و مطلب بیان کر کے عوام الناس کو دھوکہ دیتے ہیں چنانچہ ان بے راہ لوگوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ قرآن آسان ہے اس کو ہر شخص سمجھ سکتا ہے لہٰذا کسی استاد، عالم اور مربی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ولقد یسرنا القرآن للذکر فھل من مدکر﴾ (سورۃ آل عمران، آیت: ۳۲)

''یعنی اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لئے آسان کر دیا ہے سو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے۔''

آیت مذکورہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا گیا ہے کہ قرآن مجید کا جو حصہ وعظ و نصیحت پر مشتمل ہے وہ آسان ہے اس کو ہر عربی جاننے والا سمجھ سکتا ہے اور جو قرآن کی عربی زبان نہیں جانتا ہے وہ اہل علم سے سیکھ سکتا ہے کیونکہ اس کا سیکھنا آسان ہے۔ باقی رہا احکام اور استنباط کا علم تو وہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ان اَن پڑھوں نے سمجھ رکھا ہے کیونکہ اس کے لئے تو بہت بڑی علمی مہارت کی ضرورت ہے ہر آدمی کے بس کا روگ نہیں ہے کہ وہ بغیر لیاقت علمی کے قرآن سے کوئی مسئلہ استنباط کر سکے۔ چنانچہ حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں بعض لوگوں کو ''ولقد یسرنا القرآن'' پر سرسری نظر کرنے سے مجتہد بننے کی ہوس ہوتی ہے لیکن یہاں پر ''للذکر'' سے ''تیسیر للاستنباط'' لازم نہیں، اسکا تو سیدھا مطلب یہ ہے کہ ترغیب و ترہیب کے متعلق قرآن میں جو مضامین ہیں وہ نہایت جلی ہیں اور وجوہ استنباط کا دقیق ہونا تو خود ظاہر ہے۔ (بیان القرآن صفحہ 102 مطبوعہ تاج کمپنی)

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔

''اس آیت میں ''یسرنا'' کے ساتھ ''للذکر'' کی قید لگا کر یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ قرآن کو حفظ کرنے اور اس کے مضامین سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی حد تک اس کو آسان کر دیا گیا ہے۔ جس سے ہر عالم و جاہل، چھوٹا اور بڑا یکساں فائدہ اٹھا سکتا، ہے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ قرآن کریم سے مسائل اور احکام کا استنباط بھی ایسا ہی آسان ہو۔ وہ اپنی جگہ ایک مستقل اور مشکل فن ہے جس میں عمریں صرف کرنے والے علماء راسخین کو ہی حصہ ملتا ہے ہر ایک کا وہ میدان نہیں ہے۔''

اس سے اُن لوگوں کی غلطی واضح ہوگئی جو قرآن کریم کے اس جملہ کا سہارا لے کر قرآن کی مکمل تعلیم۔ اس کے اصول و قواعد سے حاصل کئے بغیر مجتہد بننا اور اپنی رائے سے احکام و مسائل کا استخراج کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کھلی گمراہی کا راستہ ہے۔

(معارف القرآن جلد: ۸ صفحہ: ۲۳۰)

نیز یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہے کہ قران مجید آسان ہے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن سیکھنے کے لئے کسی استاد، عالم اور مربی کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن مجید کو باقاعدہ حضرات اساتذہ کرام سے سیکھا جائے تو وہ آسان ہے جیسے کہا جاتا ہے۔ عربی، فارسی آسان ہے یعنی اس کو باقاعدہ پڑھا جائے تو آسان ہے اسی طرح اگر کہا جائے کہ بی اے آسان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص باقاعدہ بی اے کا کورس پڑھے تو وہ آسان ہے لیکن ان بے راہ نام نہاد قرآنیوں نے اس آیت کا غلط مطلب لے کر بغیر علم اور بغیر سیکھے قرآن میں تفسیر اور استخراج مسائل میں دخل دینا شروع کر دیا ہے۔ حتیٰ کہ نوبت بانیجا رسید کہ جو شخص قرآن مجید کی عبارت کے صحیح لفظ نہیں پڑھ سکتا آج وہ مفسر قرآن بنا بیٹھا ہے۔ اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ قرآن آسان ہے لہٰذا کسی کی ضرورت نہیں ہے تو یہ لوگ ترجمہ

قرآن کے محتاج ہیں پھر تو انہیں ترجمہ بھی خود بخود آ جانا چاہئے حالانکہ بغیر ترجمہ وال قرآن کے یہ لوگ کسی آیت کا ترجمہ بھی نہیں کر سکتے لہذا بغیر علم کے قرآن میں ان لوگوں کا دخل دینا گمراہی کی خشت اول ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ت کہ قرب قیامت میں ان پڑھ لوگ مفتی بن بیٹھیں گے بغیر علم کے فتوے دے گے خو بھی گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔

خیر سے یہ قرآن واسلام کے نام لیوا خود بھی علم دین سے کورے ہیں اور کس دوسرے اہل علم کی پیروی بھی نہیں کرتے بلکہ جہالت کے باوجود ان کا ہر فرد مفتی امام، مفسر نا معلوم کیا کچھ بنا بیٹھا ہے۔

الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے

آپ حضرات نے معلوم کرلیا کہ اہلسنت والجماعت سے کٹنے والے فرقے قرآن والی جماعت کی راہ چھوڑ چکے ہیں اور قرآن مجید میں پیش کردہ اصول استنبا کو پس پشت ڈال چکے ہیں۔ یہود نامراد کی طرح آیات قرآنیہ کا غلط اور من بھا مطلب بیان کر کے اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر افتراء کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو عامل قرآن یا عامل حدیث۔ اسلام کا واحد ٹھیکیدار اور توحید علمبردار سمجھتے ہیں اور اہلسنت والجماعت جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک چلی آ رہی ہے اور قیامت تک رہے گی، کو خلاف قران وحدیث کا الزام ہے اور شرک و بدعت کے فتوے صادر کرتے ہیں حتیٰ کہ ان کو سلام کرنا ناجائز سمجھتے ہیں اور کوئی مسلمان اہلسنت والجماعت فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ کو بھی جائز نہیں سمجھتے ہیں۔

حالانکہ خود یہ بے راہ لوگ اہلسنت والجماعت کو چھوڑ کر قسم قسم کے شرک و کفریات میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ ان کے عقائد، نظریات اور خیالات سب بدعات کا مجموعہ ہیں عجیب بات ہے کہ خود اہل بدعت ہونے کے باوجود اہلسنت والجماعت کو بدعات کا الزام دیتے ہیں رنگ برنگے کفر میں ملوث ہونے کے باوجود دوسروں پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ خارج از اسلام ہونے کے باوجود اپنے آپ کو مسلمین اور اہل اسلام شمار کرتے ہیں۔ شرکیات اپنانے کے باوجود اپنے آپ کو توحیدی کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت اور آپ کی سنت کو چھوڑنے کے باوجود اپنے آپ کو متبع سنت سمجھتے ہیں ایسے ہی موقع پر کہا گیا ہے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔

اہلسنت اور اہل بدعت

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اہلسنت والجماعت قرآن و حدیث کو مانتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اجماع امت کو حجت مانتے ہیں اور جو مسئلہ قرآن و حدیث اور اجماع سے واضح طور پر ثابت نہ ہو وہاں آئمہ اربعہ میں کسی ایک کی معین طور پر تقلید شخصی کو ترجیح دیتے ہیں اور اسی میں اپنے دین و ایمان کی خیر و سلامتی سمجھتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اہلسنت والجماعت ان اصول اربعہ کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی جماعت کو بھی اپنا رہبر و پیشوئی سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو تفسیر مفہوم و مطالب اور تشریح سلف صالحین و بزرگان دین نے کی ہے اس کو حق اور صحیح جانتے ہیں اور اسی کو مشعل راہ سمجھتے ہیں۔ معاذ اللہ وہ قرآن مجید کی تفسیر میں خود رائی اور خودسری نہیں کرتے کیونکہ یہ تو گمراہی کی بنیاد ہے اور معاذ اللہ وہ اپنے آئمہ دین اور

اکابر امت کو خدا، نبی، شارع اور معصوم نہیں سمجھتے بلکہ صرف ان کی تشریحات قرآنیہ کو حق اور صحیح سمجھتے ہیں اور اپنی فہم پر ان کی فہم کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور ان کی پیروی اسی لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی پیروی کا حکم دیا ہے اور ان کی راہ کو صراط مستقیم قرار دیا ہے اور ہمیں ان کی راہ پر چلنے کا حکم فرمایا ہے اور ان کی راہ کو چھوڑنے والوں کو ضالین اور مغضوب علیہم فرمایا ہے۔

الحمدللہ اہل السنّت والجماعت کی راہ، راہ اعتدال ہے یہ جماعت افراط و تفریط سے پاک ہے ان کے قلوب میں الفت ہے یہ لوگ بغض حسد اور کینہ سے دور و نفور ہیں۔ اس جماعت کا یہ نام خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا تجویز فرمودہ ہے اور یہ جماعت خیر القرآن میں اسی نام سے مشہور و معروف تھی زمانہ کا کوئی دور اس پاک جماعت سے خالی نہیں رہا۔ قرآن مجید اور حدیث پاک میں اہل حق کی جو علامات بیان کی گئی ہیں وہ سب کی سب ان میں پائی جاتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی وجہ سے یہ اہل سنت ہیں اور صحابہ کرام رضوا اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کی پیروی کرنے اور ان کے معیار حق سمجھنے کی وجہ سے ان کو والجماعت کہا جاتا ہے۔ اور اہل بدعت وہ ہیں جو قرآن مجید کے بیان کردہ اصول اربعہ، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجماع امت اور قیاس شرعی کو نہیں مانتے اور جماعت قرآنی کی پیروی کا انکار کرتے ہیں۔ سلف صالحین کی فہم پر اپنی فہم کو ترجیح دیتے ہیں بجائے منعم علیہم کی راہ کے۔ ضالین اور مغضوب علیہم کی راہ پر چلتے ہیں۔ اللہ اور اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹے افترا کرتے ہیں جو بات اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی ان کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ یہود و نصاریٰ کے حق میں اُترنے والی آیات کو مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں۔ ان کے

دل، بغض، کینہ اور حسد و نفرت سے بھرے ہوتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں باطل پرستوں اور اہل ھوئی کی جو علامات بیان فرمائی گئی ہیں وہ سب ان پر منطبق آتی ہیں۔ قرآن اور قرآنی ہدایات کی دل کھول کر مخالفت کے باوجود قران کے مدعی ہیں۔ خارج اسلام ہیں لیکن اپنے آپ کو اہل اسلام اور مسلمین کہتے ہیں۔ فرقہ بندی کی مذمت کرتے ہیں اور خود فرقہ بناتے ہیں۔ جو کچھ زبان سے کہتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے قرآن ان کی حلقوم کے نیچے نہیں اترتا۔ یہ لوگ افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ انتہا پسند ہیں اور تشدد ان کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے۔ اہل بدعت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اپنے دماغ سے جو مسئلہ بھی بناتے ہیں براہ راست قرآن مجید سے استدلال کرنے لگ جاتے ہیں اگر ان سے پوچھا جائے کہ آج تک تو کسی عالم نے اس آیت سے یہ مسئلہ نہیں نکالا اور نہ ہی کسی مسلمان نے اس پر عمل کیا حالانکہ قرآن مجید تو اس نو ایجاد مسئلہ سے بہت پہلے کا چلا آ رہا ہے لیکن خیر القرون کے مسلمانوں کا تو اس مسئلہ کی طرف ذہن نہیں گیا تو جواب یہ ہوتا ہے کہ تم قرآن کے منکر ہو مثلاً ایک شخص جشن میلاد اور عید میلاد کے اثبات میں قرآن مجید کی کئی آیات پڑھ دیتا ہے کہ میلاد کا جشن اور میلاد کی عید فلاں آیت سے ثابت ہے اور فلاں آیت سے ثابت اور جب سوال کیا جاتا ہے کہ میلاد کا جشن اور میلاد کی عید تو ۶۰۴ھ میں شروع ہوا اور قرآن تو اس سے پہلے موجود تھا لیکن وہ لوگ اس خاص طرز کا جشن اور خاص قسم کی عید نہیں مناتے تھے۔ کیا ان لوگوں نے بھی ان آیات سے جشن اور عید ثابت کی ہے کیا ان لوگوں کو قرآن کی یہ آیات سمجھ نہ آئیں؟ تو جواب دیتے ہیں کہ تم قرآن کے منکر ہو۔

اسی طرح بعض لوگ اپنے ذہن سے یہ فتویٰ اختراع کرتے ہیں کہ سماع موتی شرک ہے حالانکہ قرآن میں یہ کہیں نہیں فرمایا گیا کہ صرف سماع موتی شرک ہے

ہاں غیر اللہ کو اختیارات کا مالک، متصرف الامور سمجھنا، عالم الغیب اور مشکل کشا، حاجت روا سمجھنا بے شک شرک ہے لیکن صرف سماع موتی کو قرآن مجید میں شرک نہیں کہا گیا یہ فتویٰ صرف اور صرف چودھویں صدی کی ایجاد اور پیداوار ہے۔ بے شک سماع موتی ہر دور میں مختلف فیہ رہا ہے لیکن کسی جانب سے فتویٰ زنی نہیں کی گئی تو جب ایسے متشددین سے پوچھا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی یہ آیات تو پہلے سے موجود تھیں لیکن عہد اولی سے لے کر آج تک کسی نے سماع موتی کے قائلین پر شرک کا فتویٰ نہیں لگایا کیا وہ قرآن نہیں سمجھتے تھے؟ انہوں نے ان آیات پر عمل کیوں نہ کیا تو کہتے ہیں کہ تم قرآن کے منکر ہو۔ گویا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے خودساختہ مسائل وعقائد کو خود قرآن سمجھتے ہیں اور جو ان کے نظریات کا انکار کرے گویا وہ قرآن کا منکر ہے۔

بہرحال! میں نے یہ دو مثالیں عرض کی ہیں کہ اہل بدعت واہل ہوئی براہ راست قرآن سے استدلال کرتے ہیں اور ان کو اپنے خودساختہ مسائل میں کسی جماعت کی کسی امام کی کسی بزرگ کی تائید وتصدیق کی ضرورت نہیں ہوئی۔ تو قرآن کی جماعت کو چھوڑ کر قرآن سے استدلال کرنا بے راہ لوگوں کی خاص علامت ہے جس سے وہ پہچان لئے جاتے ہیں۔

ایک اور پہچان

نام نہاد قرآنیوں کی ایک اور علامت بھی ہے کہ یہ لوگ جب قرآن مجید سے اپنا من بھاتا مطلب کشید کرتے ہیں جو قرآن مجید کی دیگر آیات کے متصادم ہوتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیح کے خلاف ہوتا ہے تو ان کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحیح حدیثیں پیش کی جاتی ہیں کہ تمہارا یہ

مطلب ان صحیح حدیثوں کے خلاف ہے لہذا درست نہیں ہے تو فوراً بلا جھجک یہ کہہ ڈالتے ہیں کہ چونکہ یہ حدیثیں قرآن کے خلاف ہیں لہذا مردود ہیں۔ ہم ان کو نہیں مانتے۔ چنانچہ یہ ظالم خلاف قرآن کا بہانہ بنا کر احادیث صحیح کو رد کر دیتے ہیں اور بہت بڑی جسارت کرتے ہیں۔

کیا صحیح حدیثیں، قرآن کی خلاف ہوتی ہیں؟

حالانکہ محدثین نے جن حدیثوں کو صحیح قرار دیا ہے وہ قطعاً قرآن مجید کے خلاف نہیں ہوتیں بلکہ وہ قرآن مجید کی تشریح، تفصیل، اور تفسیر کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اور جو حدیثیں واقعی قرآن مجید کے خلاف تھیں ان کو محدثین نے صحیح کہا ہی نہیں کیونکہ یہ ایک نفیس ولطیف فن ہے اور جس کا کام اسی کو ساجھے کے اصول کے تحت حضرات فقہاء اسلام اور محدثین عظام ہی جانتے ہیں کہ کونسی حدیث قرآن مجید کے خلاف ہے اور کونسی حدیث قرآن مجید کی تشریح اور تفسیر ہے لہذا ہر آدمی کا یہ کام نہیں کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے اور ظاہر ہے کہ جو شخص ایک فن سے ناواقف ہونے کے باوجود اس فن میں دخل دیتا ہے تو وہ لازماً ایک غلط رائے قائم کرے گا اور سیدھی راہ سے یقیناً گمراہ ہوگا اور ایسا گمراہ کہ اس کو اپنی غلطی اور گمراہی کا احساس تک نہ ہوگا بلکہ وہ ہمیشہ اپنی غلط رائے کو صحیح سمجھتا رہے گا اور گمراہی کو راہ ہدایت کہتا رہے گا تو اگر ان اَن پڑھ لوگوں کو جج تسلیم کر کے احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حوالے کر دی جائیں تو یہ جاہل ایک حدیث کو بھی باقی نہ چھوڑیں گے سب کو یہ کہہ کر ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں گے کہ یہ قرآن کے خلاف ہیں۔ حتیٰ کہ یہ ظالم اور اَن پڑھ مفتی مچھلی اور ٹڈی کے متعلق بھی فتویٰ سازی کریں گے کہ یہ میتہ ہونے کی وجہ سے

حرام ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ حُرِمَتْ علیکم المیتۃ یعنی تم پر میتہ یعنی جو جانور بغیر تکبیر اور ذبح کے مرگئے وہ حرام کی گئی ہے اور ظاہر ہے کہ مچھلی اور ٹڈی بغیر تکبیر اور ذبح کے مرتی ہے لہٰذا مردار ہونے کی وجہ سے حرام ہے۔ باقی رہی وہ حدیث جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے لئے دو میتہ حلال کی گئیں ہیں تو کہیں گے یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے لہٰذا مردود ہے مچھلی اور ٹڈی حرام ہے۔

تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جس طرح ان اَن پڑھوں نے قرآن کی جماعت کو چھوڑ کر اور صراط مستقیم سے ہٹ کر قرآن مجید کی من بھاتی تفسیر کر کے اس کو بازیچۂ اطفال بنایا۔ اسی طرح اگر ایسے لوگوں کو جج مقرر کر دیا جائے تو یہ لوگ ایک ایک حدیث کو قرآن کے خلاف کہہ کر ردی کی ٹوکری میں ڈالتے چلے جائیں گے۔ گویا قرآن کی اصلی تفسیر سے بھی محروم اور احادیث صحیحہ کا بھی انکار ہو جائے گا حالانکہ احادیث صحیحہ بھی قرآن مجید کی طرح حجت شرعیہ ہیں اور حدیث کے بغیر فہم قرآن بہت مشکل ہے۔

جو کام ہو چکا ہے اب دوبارہ اس کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے

قرآن پاک کی سچی جماعت جن کی راہ صراط مستقیم ہے، دین کا جو کام سر انجام دے دیا اب دوبارہ اس کو کرنا ایک عبث اور بے فائدہ کام ہے۔ مثلاً قرآن مجید کی قرأتوں کا کام مکمل ہو چکا ہے سلف صالحین کی جماعت حقہ نے اس کام کو بخیر وخوبی پایۂ تکمیل تک پہنچا دیا ہے اب ہمارے ذمہ ہے اس علم کی حفاظت کرنا اور بعینہٖ آئندہ نسلوں تک پہنچا دینا۔ اگر کوئی نیم مغز انسان کہے کہ مجھے سلف صالحین کی محنت اور کام پر

اعتماد نہیں ہے میں ان کی تقلید نہیں کرتا میں تو یہ کام از سرِ نو دوبارہ کرنا چاہتا ہوں تو ساری دنیا ایسے شخص کو نیم پاگل سمجھے گی کیونکہ جو کام صحیح طریقہ پر مکمل ہو چکا ہے اب پھر اس کو کرنا ایک عبث کام اور لایعنی حرکت ہوگی۔

اسی طرح احادیث شریفہ کی اسناد لکھنے کا کام مکمل ہو چکا ہے حضرات محدثین کرام نے بڑی محنت، عرق ریزی، طویل اسفار اور بڑی مشقتیں اٹھا کر یہ فریضہ سر انجام دے دیا ہے اب اگر کوئی شخص کہے کہ مجھے محدثین کے کام پر اعتماد نہیں ہے میں ان کی تقلید نہیں کرتا لہٰذا یہ کام میں از سرِ نو دوبارہ کرتا ہوں تو یقیناً اہل علم حضرات ایسے شخص کو احمق کہیں گے۔

اسی طرح علم اسماء الرجال کا کام بھی مکمل ہو چکا ہے اور جن اکابر نے یہ کام کیا ہے ان پر اعتماد لازم اور ان کی تقلید ضروری ہے اب اگر کوئی شخص یہ کام دوبارہ شروع کرے گا تو یہ اس کی بیوقوفی ہوگی۔

اسی طرح فقہاء اسلام نے اپنے اپنے دور کے پیش آمدہ مسائل کا حل، استنباط اور استخراج کے ذریعہ کتاب وسنت سے کر دیا ہے خصوصاً آئمہ اربعہ رحمہم اللہ نے لہٰذا ہمیں ان کی محنت کی قدر کرنی چاہئے ان کے اجتہادات پر اعتماد کرنا چاہئے اور ان کی تقلید کرنی چاہئے۔ اگر کوئی شخص آئمہ اربعہ اور فقہاء اسلام کے اجتہادات پر اعتماد نہیں کرتا بلکہ ان کی تقلید سے روگردانی کر کے ہر مسئلہ کا جواب خود تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ اس کی کم عقلی اور بدنصیبی ہوگی۔

ہاں! ہر دور جدید کے نئے پیش آمدہ مسائل جن کا حل فقہاء اسلام کی خدمات میں موجود نہیں ہے تو ایسے مسائل کا جواب کتاب وسنت اور اجماع امت سے درجہ اجتہاد رکھنے والے اہل علم حضرات، سلف صالحین کے اصولوں کی روشنی

میں تلاش کریں۔

تو میرے معروضات کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کام خیر و خوبی کے ساتھ سرانجام دیا جا چکا ہے اب اسے دوبارہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لہذا یہ کام کہ کونسی حدیث، قران مجید کے موافق ہے اور کونسی مخالف ہے یہ کام علماء محدثین و مفسرین اور فقہاء اسلام نے سرانجام دے دیا ہے لہذا ہمیں ان کی محنت پر اعتماد کرنا چاہئے اور اگر کوئی شخص سلف صالحین کے کئے ہوئے کام کو رد کر کے از سرنو یہ کام کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کی ذہنی آوارہ گردی اور غیر مقلدیت ہوگی۔ بہر حال یہ کام ہو چکا ہے اسی پر اعتماد کرنا ہوگا دوبارہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا محدثین کرام نے جس حدیث کو صحیح قرار دیا وہ قطعاً قرآن مجید کے خلاف نہیں ہے اس کی تصحیح مطابق قرآن ہونے کی سند ہے۔

نام نہاد قرآنیوں کی ایک اور جہالت

قرآن مجید کے نام پر بے دینی پھیلانے والے اہل ہوئی فرقے یہ بھی کہتے ہیں کہ جو حدیث قرآن مجید کے مطابق ہو ہم اس کو مانتے ہیں اور اس کا مطلب ان کے نزدیک یہ ہے کہ جو بات حدیث سے ثابت ہو رہی ہو وہ بات قرآن مجید میں بھی موجود ہو۔ حالانکہ جب وہ بات قرآن مجید میں آ گئی ہے تو وہ قرآن ہونے کی وجہ سے مُسلَّم ہے۔ اب یہاں کہنا کہ ہم اس حدیث کو مانتے ہیں چہ معنی دارد حدیث ماننے کا مطلب تو یہ ہے کہ جو بات قرآن میں نہیں ہے اور حدیث میں موجود ہے اس کو مانا جائے۔ جیسے نماز کی رکعتیں، زکوۃ کا نصاب، مفسدات و مکروہات روزہ، اذان، تکبیر، دعا قنوت وغیرہ ہزاروں مسائل، جزئیات اور احکامات ہیں جو قرآن میں تفصیل کے

ساتھ موجود نہیں ہیں۔ لیکن حدیث میں موجود ہیں لہذا سب حدیثوں کو ماننا جو کہ درجہ قبولیت حاصل کر چکی ہیں یہ ہے حدیث کو ماننے کا مطلب ہے۔

اہل ہوئی کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی

اہلسنت والجماعت کی راہ صراط مستقیم کو چھوڑنے والے اور قرآن کی جماعت سے کٹنے والے یہ گمراہ فرقے چونکہ غیر اسلام کو اسلام، غیر قرآن کو قرآن، غیر دین کو دین، ناحق کو حق اور گمراہی کو راہ راست سمجھتے ہیں اس لئے ایسے لوگوں کو توبہ کی توفیق بہت کم شاذ و نادر نصیب ہوتی ہے کیونکہ جب گمراہی کو ہدایت اور ناحق کو حق سمجھتے ہیں تو وہ کیسے اس سے باز آئیں گے بلکہ وہ تو اس پر ڈٹے اور اڑے رہیں گے اس لئے مرزائی، رافضی، پرویزی، چکڑالی، مسعودی اور دیگر قسم کے غیر مقلدین بہت کم اپنی گمراہی چھوڑنے پر تیار ہوتے ہیں کیونکہ وہ تو گمراہی کو گمراہی سمجھتے ہی نہیں توبہ کیسے کریں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں:

﴿قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنّ الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة﴾۔ رواه الطبرانی فی الاوسط و رجاله رجال الصحيح غير هارون بن موسىٰ الفروی وهو ثقه مجمع الزوائد جلد: ۱ صفحه: ۱۸۹)

ترجمہ: ”حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بدعتی پر توبہ کا دروازہ بند کر دیا ہے۔“

مندرجہ ذیل آیات کا بھی یہی مطلب ہے۔

آیت نمبر۱:

والله لايهدى القوم الظالمين (سورة الصف آیت ۷)

ترجمہ از حضرت تھانوی رحمہ اللہ: اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔

آیت نمبر۲:

﴿ان الـلـه لايهدى القوم الفاسقين﴾ (سورة المنافقون آیت ۶)

ترجمہ از حضرت تھانوی رحمہ اللہ: ”بے شک اللہ تعالیٰ ایسے نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔“

آیت نمبر۳:

﴿والله لايهدى القوم الكافرين﴾ (سورة البقرة آیت: ۲۶۴)

ترجمہ: از حضرت تھانوی رحمہ اللہ: ”اور اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو راستہ نہ بتلاویں گے۔“

آیت نمبر۴:

﴿كيف يهـدى الـلـه قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الـرسـول حق وجاء هم البينات والله لايهدى قوم الـظـالـمـين اولـئـك جز اء هـم ان عليهم لعنة الله والـمـلائـكة والـنـاس اجمعين. خالدين فيها لايخفف

عنهم الـعـذاب ولاهم ينظرون﴾ (سورة آل عمران آیت: ۸۸)

ترجمہ از حضرت تھانوی رحمہ اللہ: اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت کریں گے جو کافر ہو گئے بعد اپنے ایمان لانے کے اور بعد اپنے اس اقرار کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور بعد اس کے کہ ان کو واضح دلائل پہنچ چکے تھے اور اللہ تعالیٰ ایسے بے ڈھنگے لوگوں کو ہدایت نہیں کرتے ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ اُن پر اللہ تعالیٰ کی بھی لعنت ہوتی ہے اور فرشتوں کی بھی اور آدمیوں کی بھی سب کی وہ ہمیشہ ہمیشہ کو اسی میں رہیں گے اُن پر سے عذاب ہلکا بھی نہ ہونے پاوے گا اور نہ ان کو مہلت دی جاوے گی۔

فتنوں اور فرقوں کی بارش

فتنوں کا دور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق بارش کے قطرات کی طرح فتنے پڑ رہے ہیں۔ فتنہ پرداز اور فرقہ ساز لوگ شاخ در شاخ ہونے کی وجہ سے سینکڑوں سے متجاوز ہو چکے ہیں۔ کسی نے اپنا نام اہل اسلام، کسی نے مسلمین، کسی نے اہل قرآن، کسی نے اہل حدیث تجویز کر رکھا ہے۔ اگرچہ ان فرقوں کے مابین بہت فرق ہیں لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سمیت سلف صالحین کی قرآن والی جماعت کی راہ چھوڑ کر براہ راست قرآن سے اپنے نظریات فاسدہ ثابت کرنا ان سب کی قدر مشترک ہے اور یہ چیز ان سب میں واضح طور پر پائی جاتی ہے کہ یہ لوگ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور فقہاءِ اسلام کی جماعت کی پیروی

کرنے کی بجائے قران وحدیث تک براہ راست پہنچنا چاہتے ہیں ان میں اکثر تو وہ ہیں جو صاف لفظوں میں قرآن کی جماعت کی پیروی اور تابعداری کا انکار کرتے ہیں مثلاً: رافضی، خارجی، ناصبی، چکڑالی، بہائی، آغاخانی، پرویزی، ذکری، مماتی، مودودی، مسعودی اور غیر مقلدین باہمہ اقسام یہ سب فرقے جماعت قرآنی کی پیروی کا انکار کرتے ہیں۔ باقی رہے بریلوی حضرات اگرچہ یہ لوگ اپنے آپ کو اہلسنت و الجماعت کا ٹھیکے دار سمجھتے ہیں اور بزرگان دین کی محبت کا دم بھرتے ہیں لیکن یہ لوگ بھی اپنے خاص نظریات میں غیر مقلد ہی ہیں کیونکہ یہ حضرات اپنے نظریات مخصوصہ میں جماعت کی پیروی کرنے کے بجائے براہ راست قرآن وحدیث سے اجتہاد کرتے نظر آتے ہیں مثلاً عید میلاد کے مسئلہ کو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور فقہ حنفیہ سے ثابت کرنے کی بجائے خود قرآن وحدیث سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر عید میلاد قرآن وحدیث سے ثابت ہوتی تو صحابہ کرام اور فقہاً اسلام جشن عید میلاد ضرور مناتے حالانکہ اس جشن کا ثبوت نہ صحابہ کرام سے ملتا ہے نہ ہی فقہ حنفیہ سے اور نہ ہی قرآن کی جماعت سے اسی لئے تو یہ لوگ اپنے نظریات مخصوصہ کو ثابت کرنے کے لئے سلف صالحین کے فہم کو بالائے طاق رکھ کر قرآن سے حجت پکڑتے ہیں لہذا اپنے خاص نظریات میں یہ بھی غیر مقلد ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ جماعت چھوڑنے کی وجہ سے یہ سب فرقے مختلف ہونے کے باوجود غیر مقلد ہی ہیں۔

مقصد تالیف:

میرا دل چاہتا ہے کہ اسلام، قرآن، حدیث، مسلمین، توحید، محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت صحابہ ومحبت اہل بیت کے نام پر دھوکہ کے ذریعہ سادہ لوح مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ زنی کرنے والے ان سب گمراہ فرقوں کے دجل وفریب

کے پردہ تلبیس کو چاک کر کے اپنے مسلمان بھائیوں کے ایمان کی چوکیداری کروں۔

وَاللّٰه هو الموفّق المُيسّر. وهو الهادى الى الصراط المستقيم، وهو ولى فى الدنيا ولآخرة.

اور انشاء اللہ میں عہد کرتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گا اہلسنت والجماعۃ کی راہ، صراط مستقیم کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا رہوں گا اور اس سیدھی راہ چھوڑنے والوں کے خلاف عملی، علمی، قلمی، زبانی اور جانی ومالی جہاد جاری رکھوں گا۔

فاطر السموات والارض انت ولى فى الدنيا والآخرة توفنى مسلماً والحقنى بالصالحين آمين يا رب العالمين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضّالين.

آمين ثم آمين.

البتہ بندہ عاجز کی عمر تقریباً ۶۵ سال ہے کیونکہ میری پیدائش اگست ۱۹۳۸ء ہے اور اب ۳۰ جولائی ۲۰۰۳ء ہے۔ یوں سمجھ لیجئے میں پاکستان کا ہم عمر ہوں اور پھر شوگر جیسی موذی مرض میں تقریباً بیس سال سے مبتلا ہوں اور صبح شام اپنے آپ کو انسولین کا انجکشن لگاتا ہوں ساتھ ساتھ جامعہ عثمانیہ کی ہمہ خدمات بھی تادم تحریر میرے سپرد ہیں تو ایسے حالات میں اتنا بڑا کام سرانجام دینا مجھ سے ہیچمداں کمزور آدمی کے لئے اگرچہ مشکل ہے لیکن میں اپنے رب ذوالجلال سے پر امید ہوں کہ وہ اپنی رحمت اور توفیق سے میری مدد فرمائے گا انشاء اللہ۔ معلوم ہو کہ جو کچھ بندہ عاجز نے اجمالی رنگ میں لکھ دیا ہے وہ ان فرق باطلہ کی تردید میں کافی ووافی ہے۔ لیکن اب فرداً فرداً ایک ایک فرقے کے ایک ایک باطل نظریہ کی مفصل ومکمل اور مدلل تردید کے میدان میں قدم رکھنا چاہتا ہوں لیکن سب سے پہلے کراچی کے کیپٹن مسعود الدین عثمانی اور اس

کی جماعت نام نہاد مسلمین یا حزب اللہ کے نظریات فاسدہ اور خیالات باطلہ کی تردید کی جائے گی۔ انشاءاللہ۔ تردید میں مسعودیوں کو اولیت دینے کی چند وجوہات ہیں۔

کیپٹن مسعودالدین قرآن مجید کا منکر تھا

(۱) کیپٹن مسعودالدین قرآن مجید کا منکر تھا، قرآن مجید میں بندہ عاجز کی دانست کے مطابق چھ آیات ایسی ہیں جہاں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایماندار بندے اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں لیکن مسعودالدین عثمانی نے ان چھ آیات کے متعلق لکھ دیا کہ ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے ہیں۔ وہ آیات جن کا مسعودالدین نے انکار کیا یہ ہیں۔

آیت نمبر۱:

ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوابین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوابین ذلک سبیلاً. اولئک ھم الکافرون حقاواعتدنا للکافرین عذاباً مھیناً﴾.(سورۃ نساء آیت نمبر ۱۵۰،۱۵۱

ترجمہ: ”بے شک جولوگ منکر ہیں اللہ اور اس کے رسولوں سے اور چاہتے ہیں کہ فرق نکالیں اللہ میں اور اس کے رسولوں میں اور کہتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں بعضوں کو اور نہیں مانتے بعضوں کو اور چاہتے ہیں کہ نکالیں بیچ میں ایک راہ ایسے لوگ ہیں وہی اصل کافر اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے واسطے ذلت کا عذاب۔“

آیت نمبر۲:

﴿والذین آمنوا باللہ ورسلہ لم یفرقوا بین احد منھم اولئک سوف یؤتیھم اجورھم﴾ .(سورۃ نساء آیت نمبر:۱۵۲)

ترجمہ: ”اور جولوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور جدا نہ کیا ان میں سے کسی کو انکو جلد دے گا ان کا ثواب۔“

آیت نمبر۳:

﴿والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک ھم الصدیقون والشھداء عند ربھم .(سورۃ الحدید آیت نمبر ۱۹)

ترجمہ: ”اور جولوگ یقین لائے اللہ پر اس کے سب رسولوں پر وہی ہیں سچے ایمان والے اور لوگوں کا احوال بتلانے والے اپنے رب کے پاس۔“

آیت نمبر۴:

﴿سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ﴾ (سورۃ الحدید آیت)

ترجمہ: ”دوڑو اپنے رب کی معافی کی طرف اور بہشت کو جس کا پھیلاؤ ہے جیسے پھیلاؤ ہے آسمان اور زمین کا تیار کر رکھی ہے واسطے ان کے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔“

آیت نمبر ۵:

﴿فآمنوا بالله ورسله ج﴾ (سورۃ آل عمران آیت نمبر: ۱۷۹)

ترجمہ: ...... ''پس اب اللہ تعالیٰ پر اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لے آؤ۔''

آیت نمبر ۶:

﴿فآمنوا بالله ورسله﴾ (سورۃ نساء آیت نمبر ۱۷۱)

ترجمہ: ''سو اللہ پر اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لاؤ۔''

قارئین کرام! قرآن مجید کی ان چھ آیات میں آمنوا بالله ورسله فر کر تمام لوگوں کو ترغیب دی گئی ہے کہ اللہ اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لے آؤ اور کسی ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کو کفر کہا گیا ہے لیکن کراچی کا مسعود الدین عثمانی ان سب کا انکار کرتے ہوئے لکھتا ہے ''یہ حضرات آمنوا باللّٰہ و رَسُولِہٖ کے بجائے۔ آمنوا بالله ورُسُلِه۔ کی تلقین کرتے ہیں لیکن ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے ہیں۔

(دعوت الی اللہ ص:۱۶)

آپ نے دیکھ لیا کہ کتنے صاف لفظوں میں یہ جاہل چھ آیات قرآنیہ کا انکار کر رہا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں اور تمام کتابوں پر ایمان لا از حد ضروری ہے اور کسی ایک کے انکار سے تمام کا انکار لازم ہے ہاں اطاعت او پیروی صرف اور صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے اور قرآن کریم کی ہدایات کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ لیکن ایمان تو

ب کتابوں اور سب رسولوں پر لانا ہے لیکن یہ مسعود الدین کس صفائی سے لکھتا ہے کہ ہم آمنوا باللّٰہ و رُسُلِہٖ کو صحیح نہیں سمجھتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس جاہل کو اتنا علم بھی نہیں کہ ایمان کیا ہے اور اطاعت کیا ہے۔ اور نہ ہی ایمان و اطاعت کے فرق کو سمجھتا ہے۔

مسعودیوں کی حماقت:

مسعود الدین عثمانی مرتے دم تک ان آیات کے انکار پر قائم رہا اور اپنے اس کفر کی کوئی توبہ شائع نہیں کی اور نہ ہی کوئی معذرت کی لیکن اس کے مرنے کے بعد مسعودیوں کو جب اس چیز کا احساس ہوا کہ مسعود الدین تو اتنی آیات کا پوری زندگی انکار کرتا رہا ہے اور اسی انکار پر اس کی موت واقع ہوئی تو انہوں نے مذکورہ بالا رسالہ شائع کر کے اس کے اس صفحہ والی پوری عبارت اڑا دی اور اس کے بجائے دوسری عبارت لکھ دی جس میں یہ الفاظ موجود نہیں ہیں کہ ہم آمنو باللہ ورسله کو صحیح نہیں سمجھتے ان لوگوں کی اس طرز عمل سے چند چیزیں واضح ہو کر سامنے آجاتی ہیں:

اولاً:

مسعودیوں کو یقین ہو گیا کہ ہمارے مسعود الدین عثمانی نے واقعی آیات قرآنیہ کا انکار کر کے ایک بہت بڑی غلطی بلکہ کفر کا ارتکاب کیا ہے۔

ثانیاً:

ان کو چاہیے تھا کہ واضح لفظوں میں ان کے کفر کا اقرار کرتے پھر کفریہ عبارت کا ازالہ کر کے سابقہ غلطی کی توبہ اور معذرت نامہ شائع کرتے لیکن ایسا بالکل نہیں کیا گیا

بلکہ ان سب مسعود الدین کے پیروکاروں نے عبارت کو تبدیل کر کے اس کے کفر پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ لہٰذا اسکے سب جانشین اور پیروکار اس کے کفر پر راضی اور خوش ہیں البتہ لوگوں کی ملامت سے بچنے کیلئے عبارت تبدیل کر کے اس کے کفر کو چھپانے کی ایک مذموم حرکت کی ہے ان جاہلوں کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب، علیم بذات الصدور اور دانا و بینا ہے آدمی لوگوں سے تو چھپ سکتا ہے لیکن اپنے رب سے تو نہیں چھپ سکتا ہے لیکن شاید یہ اسلام کے نام نہاد علمبردار اور قرآن کے ٹھیکدار اللہ تعالیٰ کو دلوں کے بھید ماننے والا نہیں سمجھتے اسی لئے تو در پردہ چپکے سے ایک عبارت اڑا کر دوسری عبارت رکھ دی لیکن سوال یہ ہے کہ وہ اپنے اس حیلے بہانے سے رب العالمین کی گرفت سے بچ جائیں گے؟ نہیں، نہیں ہرگز نہیں بچ سکتے۔ وہ ان کے کفر اور اس پر پردہ ڈالنے کی ضرور بالضرور سزا دے گا۔

ثالثاً:

ان اَن پڑھ پیروکاروں نے جو اپنے مرشد کی کفریہ عبارت کو تبدیل کر دیا تو اس طریقہ سے اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ اگر کوئی شخص زندگی میں کفر بکتا اور لکھتا رہے اور اسی کفر پر اس کی موت واقع ہو جائے تو کیا پچھلوں کے کفر چھپانے اور تبدیل کرنے سے اس کے کفر کا ازالہ ہو جائے گا؟ اگر یہ طریقہ درست ہے تو کیا اگر کوئی شخص فرعون، نمرود، ہامان، قارون اور ابوجہل وغیرہ کے کفر پر پردہ ڈال دے تو ان کی جان چھوٹ جائے گی؟ نہیں، نہیں ہرگز نہیں۔ بہرحال مسعود الدین کے مرنے کے بعد اس کے کفر پہ پردہ ڈالنا اس کے پیروکاروں کی شرمناک حماقت اور رضا بالکفر کی بدترین مثال ہے۔

سات مزید آیات کا انکار:

بندہ عاجز کی دانست کے مطابق قرآن مجید میں سات مقامات پر قبر وقبور کا لفظ استعمال ہوا ہے اور ہر مقام پر قبر وقبور کا لفظ زمین کے اس حصہ پر استعمال کیا گیا ہے جہاں مردہ جسد دفن کیا جاتا ہے دوسرے لفظوں میں مردہ جسد کے مدفن کو قبر کہا گیا ہے پہلے آپ آیات بمع ترجمہ کے ملاحظہ فرمائیں پھر ان میں غور کریں آپ کو صاف صاف معلوم ہوگا کہ قران مجید جسد عنصری کے مدفن کو قبر کہتا ہے۔ دیکھئے۔

آیت نمبر۱:

﴿ولاتقم علی قبرہ﴾۔ (سورۃ توبہ آیت ۸۴ پ ۱۰)

ترجمہ: اور اس کی قبر پر کھڑے نہ ہو جائیں۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ کسی منافق کی قبر پر نہ جائیں۔

آیت نمبر۲:

﴿ومآانت بمسمع من فی القبور﴾۔ (سورۃ فاطر آیت ۲۲ پ ۲۲)

ترجمہ: اور آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ یعنی مدفون ہیں۔

آیت نمبر۳:

﴿کمایئس الکفار من اصحاب القبور﴾ (سورۃ الممتحنۃ، آیت ۱۳، پ ۲۸)

ترجمہ: وہ آخرت سے ایسے ناامید ہو گئے ہیں جیسا کفار جو

قبروں میں ناامید ہوں گے۔

آیت نمبر۴:

﴿ثم اماته فاقبره﴾. (سورۃ عبس آیت ۲۱ پ ۳۰)

ترجمہ: پھر اس کو موت دی پھر اس کو قبر میں لے گیا یعنی قبر میں دفن کرنے کا حکم دیا۔

آیت نمبر۵:

﴿واذا القبور بعثرت﴾. (سورۃ الانفطار آیت ۴ پ ۳۰)

ترجمہ: اور جب قبریں اکھاڑ دی جاویں گی۔ یعنی مردے قبروں سے باہر آجائیں گے۔

آیت نمبر۶:

﴿حتی زرتم المقابر﴾ (سورۃ التکاثر آیت ۲ پ ۳۰)

ترجمہ: یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں پہنچ جاتے ہو۔ یعنی مرتے دم تک مال کی محبت میں غافل رہو گے۔

آیت نمبر۷:

﴿وان اللہ یبعث من فی القبور﴾. (سورۃ الحج آیت ۷ پ ۳۰)

ترجمہ: ''اور اللہ تعالیٰ قبر والوں کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ یعنی مردوں کو ان کے مدفن سے اٹھائے گا۔''

مذکورہ بالا ساتوں آیات میں زمین کے اس حصہ کو قبر کہا گیا ہے جہاں مردہ انسان کو دفن کیا جاتا ہے لیکن مسعود الدین عثمانی آف کراچی اس زمین والی قبر کو قبر نہیں مانتا بلکہ اس کو اصرار ہے کہ روح کے مقام کا نام قبر ہے اس نے ایک رسالہ لکھا ہے۔ جس کا نام ہے ''عذاب برزخ'' اس میں سارا زور اسی پر خرچ کیا ہے کہ جسد عنصری کا مدفن قبر نہیں ہے چنانچہ اس کتاب کا اقتباس ملاحظہ فرمایئے لکھتے ہیں:

> ''مگر افسوس کہ آج دنیا والوں کی اکثریت نے اسی دنیا کی زمین کے ایک خطہ کو وہ قبر ماننا شروع کر دیا ہے جہاں سوال و جواب کے لئے ہر مرنے والے کو اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے اور پھر قیامت تک اسی کے ساتھ عذاب یا راحت کا معاملہ ہوتا رہتا ہے در آنحالیکہ ہر ایک جانتا ہے کہ کتنوں کو جلا کر راکھ کر دیا جاتا ہے۔ کسی کو درندہ ہڑپ کر جاتا ہے اور کوئی مچھلیوں کے منہ کا نوالہ بن جاتا ہے آخر ان مرنے والوں کو کیسے اٹھا کر بٹھایا جائے گا۔ کیسے سوال و جواب ہوگا اور کس طرح ان پر عذاب و راحت کا معاملہ قیامت تک گزرے گا۔'' (عذاب برزخ صفحہ ۲)

دیکھئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں زمین کے اس خطہ کو قبر کہتا ہے جس میں مردہ انسان دفن کیا جاتا ہے لیکن مسعود الدین اس کا انکار کرتا ہے اور اس کے بجائے ایک اور قبر تجویز کرتا ہے اور یوں ان سات آیات بینات کا انکار کرتا ہے۔

مزید چار آیات کا انکار

قرآن مجید واضح اور صاف لفظوں میں بتاتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کا ٹھکانہ یہی زمین ہے جس میں جلد یا بدیر انسان کی قبر بنائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ

ارشاد فرماتے ہیں۔

آیت نمبر ۱:

﴿قال فیھا تحیون و فیھا تموتون و منھا تخرجون﴾ (سورۃ اعراف آیت ۲۵)

ترجمہ: فرمایا: تم کو وہاں (زمین میں) ہی زندگی بسر کرنا ہے اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی سے پھر پیدا ہونا ہے۔

آیت نمبر ۲:

﴿منھا خلقناکم و فیھا نعیدکم و منھا نخرجکم تارۃً اُخریٰ﴾ (سورۃ طٰہٰ آیت: ۵۵)

ترجمہ: ہم نے تم کو اسی زمین سے پیدا کیا اور اسی میں ہم تم کو لے جاویں گے اور پھر دوبارہ اسی سے نکالیں گے۔

آیت نمبر ۳:

﴿واللہ انبتکم من الارض نباتاً. ثم یعیدکم فیھا ویخرجکم اخراجا﴾ (سورۃ نوح آیت: ۱۸)

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ نے تم کو زمین سے ایک خاص طور پر پیدا کیا پھر تم کو زمین ہی میں لے جاوے گا اور تم کو باہر لے آوے گا۔

آیت نمبر ۴:

﴿الم نجعل الارض کفاتاً احیاء و امواتاً﴾ (مرسلات آیت: ۲۶)

ترجمہ: ..... "کیا ہم نے زمین کو زندوں اور مردوں کو سمیٹنے والی نہیں بنایا۔"

قارئین کرام! قرآن مجید کا فرمان ہے کہ مردہ انسانوں کو ٹھکانہ زمین ہی ہے جلد یا دیر سے بہر حال مردہ انسانوں نے زمین ہی میں دفن ہونا ہے۔ باقی رہا روح تو اس کا مقام جو بھی ہو اس کا مردہ انسان کے جسم یا اجزاء اصلیہ سے برزخی تعلق رہتا ہے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد بالکل سچا اور صادق آتا ہے کہ مردہ انسانوں کا ٹھکانہ قیامت تک زمین کا یہی خطہ ہے جس میں وہ دفن ہے جس کو قبر کہا جاتا ہے۔ لیکن مسعودالدین عثمانی ان چاروں آیات بینات کا انکار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ زمین کے اس خطہ کو قبر نہیں کہتے جس میں مردہ انسان دفن ہے بلکہ وہ مردہ انسان کا کوئی اور ٹھکانہ بتاتا ہے جو کہ اس زمین کے علاوہ ہے خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کا ٹھکانہ یہی زمین ہے لیکن اس کے برعکس مسعودالدین صاحب کہتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کا ٹھکانہ زمین نہیں بلکہ آسمان وغیرہ ہے اور یوں ان چار آیات کا انکار کرتا ہے۔

مشرکانہ ذہنیت اور آیات کثرہ کا انکار

بندہ عاجز نے کیپٹن مسعودالدین عثمانی کے ایک رسالہ عذاب برزخ کا ایک اقتباس سابقہ اوراق میں آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے جس میں اس نے اس خطہ ارضی والی قبر کا انکار کیا ہے کہ اس زمین والی قبر میں کسی قسم کی جزا وسزا نہیں ہوتی اور دلیل میں مشرکانہ عقلی شبہات پیش کئے ہیں کہ جس مردہ کو درندے اور مچھلیاں کھا گئیں یا جلا کر راکھ کر دیا گیا اس کو عذاب قبر کیسے ہوگا۔ اور کیپٹن صاحب نے سمجھ رکھا

ہے کہ ایسے مردوں کو تو قبر نصیب ہی نہیں ہوئی۔ اس لئے تو کہتا ہے کہ ان کو عذاب قبر کیسے ہوگا۔

قارئین کرام! آپ کو معلوم ہے کہ مشرکین مکہ قیامت یعنی والبعث بعد الموت کے منکر تھے اور قیامت کا انکار عقلی شبہات کی وجہ سے کرتے تھے چنانچہ کہتے تھے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے۔ چورا چورا ہو جائیں گے اور ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ہم دوبارہ کیسے اٹھیں گے خاک و راکھ شدہ مردے کا زندہ ہونا ناممکن اور خلاف عقل ہے لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لئے قرآن مجید میں ان کے اس باطل نظریہ کو یوں بیان کیا گیا ہے۔ **هيهات هيهات لما توعدون.**

لیکن اللہ جل شانہ نے ان کے تمام شبہات کے جواب میں متعدد بار بلکہ بار بار یہی جواب دیا ہے کہ چاہے مردہ جس حالت میں بھی مستحیل ہو جائے۔ پتھر اور لوہا بن جائے یا خاک و راکھ ہو جائے اس کے سب ذرات میرے علم میں ہیں اور قدرت سے باہر نہیں چلے گئے بلکہ تحت القدرة ہیں میرے قابو اور گرفت میں ہیں جب چاہوں گا اس کو اٹھا لوں گا میرے لئے نہ یہ مشکل ہے نہ ناممکن۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہم پہلی بار تمہیں پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ اور فرمایا۔ جو ذات تمہیں اول بار بنا سکتی ہے وہ دوبارہ بھی بنا سکتی ہے۔ نیز پہلے بھی کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے پہلی بار مٹی کے منتشر اجزاء سے اکٹھا کر کے بنایا ہے جس نے پہلے بنایا وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے۔

الغرض ایک ہی قسم کے عقلی شبہات ہیں جن کی آڑ میں مشرکین مکہ آخرت کی زندگی کا انکار کرتے تھے اور کیپٹن صاحب قبر کی زندگی کا انکار کرتے ہیں۔

دو دعوے اور یک دلیل

مشرکین مکہ خاک و راکھ کی دلیل سے قیامت اور قیامت کے دن کی زندگی کا انکار کرتے تھے اور کیپٹن صاحب انہیں دلیلوں سے قبر اور اس کی زندگی اور جزا و سزا کا انکار کرتے ہیں کیونکہ دعوے تو دونوں کے مختلف ہیں اور دلیل ان دونوں کی ایک ہی ہے اسی لئے تو بندہ عاجز نے عرض کی ہے کہ کیپٹن صاحب اور مشرکین مکہ ایک ہی ذہنیت کے مالک ہیں۔ البتہ آخرت کی زندگی مستقل زندگی ہے اور محسوس ہونے والی زندگی ہے اور قبر کی زندگی مستقل زندگی نہیں ہے بلکہ "**نوع من المحيات**" ہے جو شعور میں آنے والی نہیں ہے البتہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع کی وجہ سے اس پر ایمان ضروری ہے۔ اور قبر کی زندگی اور اس کے حالات اور اس کی جزا و سزا پر ہمارا ایمان بالغیب ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو دلائل مشرکین مکہ کو سوجھے وہی کیپٹن صاحب کو سوجھے بلکہ اصل دلائل تو مشرکین مکہ نے ایجاد کئے ہیں، کیپٹن صاحب نے تو صرف ان کی تقلید کورانہ کی ہے۔ نامعلوم اس کورانہ تقلید میں کیپٹن صاحب نے کتنی آیات قدرت کا انکار کیا ہے۔

قدرت باری تعالیٰ کو رد کرنے کے لئے ایک بہانہ

جب کیپٹن صاحب اور اس کے ماننے والوں کے سامنے قرآن مجید کی یہ آیات رکھی جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ **علی کل شئی قدیر** ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے وہ مردہ انسان کے منتشر اجزاء کے ساتھ روح کا **مجهول الكيفية** تعلق جوڑ کر مردے کو جزا اور سزا دے سکتا ہے تو جواب دیتے ہیں کہ ہاں قادر تو ہے لیکن ایسا کرتا نہیں کیونکہ یہ قدرت ہے اس کا قانون نہیں ہے حالانکہ یہ ایک احمقانہ جواب ہے کیونکہ

انسان عالم دنیا میں رہ کر نیکی یا برائی کے ارتکاب کی وجہ سے جزا وسزا کا حقدار بن چکا ہے لہٰذا نیک و بد کو جزا وسزا دینا اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اور اس کے انصاف کا تقاضا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ قبر میں مردہ انسان کو جزا وسزا دینا قدرت ہے قانون نہیں ہے پرلے درجے کی حماقت ہے لہٰذا یہ قدرت اور قانون دونوں جمع ہیں جیسے نطفہ سے زندہ بچہ پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کا قانون بھی ہے اور قدرت بھی ہے اسی طرح مردہ انسان کو جزا وسزا دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی ہے اور قانون بھی ہے۔

ایک چیلنج:

کیپٹن سمیت تمام منکرین عذاب قبر کو میرا چیلنج ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت دکھائی جائے یا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث دکھائی جائے جس میں قبر کا لفظ استعمال کیا گیا اور اس سے روح کا مقام مراد لیا گیا ہو۔ یقین جانیئے قرآن و حدیث میں جہاں بھی قبر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہاں یہی خطہ اراضی مراد ہے جہاں مردہ انسان کو دفن کیا جاتا ہے۔

غلط فہمی کا ازالہ

دشمنان اسلام کے اعتراضات جو وہ دین اسلام کے عقائد و اعمال پر وارد کرتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اسلام عذاب قبر کا نظریہ پیش کرتا ہے حالانکہ بعض مردے ایسے ہیں جن کو یہ قبر نصیب نہیں ہوئی تو ان کو عذاب کیسے ہوگا۔ جیسا کہ کیپٹن صاحب نے بھی یہی اعتراض کیا ہے تو علماء اسلام نے جواب دیا کہ قبر سے مراد صرف یہ گڑھا نہیں ہے بلکہ قبر سے مراد عالم برزخ ہے۔ کیونکہ آدمی مرنے کے بعد عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے کیونکہ موت سے لے کر قیامت کے درمیانی زمانہ

کو عالم برزخ کہتے ہیں اور مردہ انسان خواہ جہاں بھی ہو وہ عالم برزخ میں ہے۔ خواہ قبر میں دفن ہو یا پرندوں درندوں کے پیٹ میں ہو یا خاک و راکھ ہو یا ہوا و فضا میں لٹکتا ہوا ہو تو ہمارے علماء نے قبر سے مراد برزخ اس لئے کہا تا کہ قبر کے مفہوم میں وسعت پیدا ہو جائے اور قبر کا مفہوم مردے کے ہر مقام کو شامل ہو جائے لیکن ان کج فہموں نے اس سے یہ سمجھ لیا کہ برزخ کہنے سے قبر کی نفی ہوگئی حالانکہ نفی نہیں ہوئی بلکہ وسعت پیدا ہوئی اس لئے ہمارے علماء اسلام فرماتے ہیں کہ جو مردہ باقاعدہ زمین میں دفن کیا گیا وہ اس کے لئے حقیقی قبر ہے اور جو مردہ کسی اور مقام میں ہے مثلاً شیشے کی الماری میں یا خاک و راکھ میں وغیرہ وغیرہ تو اس کی مجازی قبر ہے بہرحال مردہ انسان کے مقام اور مستقر کو قبر کہتے ہیں روح کے مقام کو کہیں قبر نہیں کہا گیا۔

واضح رہے کہ قبر اور برزخ کے مفہوم میں کوئی تضاد نہیں ہے اور نہ ہی یہ دونوں ایک دوسرے کی ضدیں ہیں کہ ایک سے دوسرے کی نفی ہو جائے نہیں نہیں ہرگز نہیں بلکہ یہ دونوں جمع ہوتے ہیں اور بیک وقت صادق آتے ہیں۔ قبر مردہ انسان کیلئے ظرف مکان ہے اور برزخ مردہ انسان کے لئے ظرف زمان ہے۔ لہٰذا مرنے والا انسان قبر میں بھی ہے اور برزخ میں بھی ہے برزخ اس قبر کے علاوہ کسی دوسرے مکان اور جگہ کا نام نہیں ہے جو شخص قبر کو مکان یا جگہ سمجھتا ہے یہ اس کی حماقت ہے۔

روح نکلتے ہی آدمی کا زمانہ تبدیل ہو جاتا ہے اگرچہ وہ چارپائی پر کیوں نہ پڑا ہو لہٰذا مردہ انسان کو برزخ میں نہ سمجھنا بلکہ دنیا کی چیز سمجھنا حماقت اور نادانی ہے لہٰذا جن اکابر علماء کرام نے قبر سے مراد برزخ لی ہے وہ قطعاً اسی خطہ ارضی کی قبر کے منکر نہیں ہیں انہوں نے تو دشمنان اسلام کے شبہ کا جواب دیا ہے لہٰذا ایسے لوگوں کے

متعلق یہ سمجھنا کہ وہ اس ارضی قبر کو قبر نہیں کہتے منکرین عذاب قبر کے سوئے فہم کا نتیجہ ہے جو اکابر بھی قبر سے مراد برزخ لیتے ہیں وہ سب کے سب اس ارضی قبر میں اعادہ روح تعلق روح اور اس میں جزا و سزا کے قائل ہیں منکر کوئی بھی نہیں ہے۔

کیپٹن صاحب نے آیت کا غلط مطلب بیان کیا

آپ کو معلوم ہو گیا کہ قبر و برزخ کے مابین کسی قسم کا تضاد و تنافی نہیں ہے اور نہ ہی یہ ایک دوسرے کی ضدین ہیں بلکہ ان دونوں کا بیک وقت اطلاق ہوتا ہے اور یہ دونوں ایک چیز پر صادق آتے ہیں یعنی مردہ جسد جہاں مدفون ہے وہی اس کی قبر ہے اور وہی اس کی برزخ ہے اور قبر کے لفظ کا اطلاق ہمیشہ اسی خطہ ارضی پر ہوتا ہے جہاں مردہ انسان دفن ہے اور قبر کا لفظ قطعاً روح کی قبر پر نہیں بولا گیا نہ قرآن میں نہ حدیث میں قبر کے لفظ کو اس زمینی مدفن سے پھیر کر کسی اور پر استعمال کرنا قبر کے مفہوم کی تحریف اور زندقہ ہے۔ لیکن کیپٹن مسعود الدین عثمانی نے اپنے اس زندقہ اور من بھاتے معنی کو ثابت کرنے کے لئے قرآن مجید کی اس آیت: **اماته فاقبره**۔ کا غلط مطلب بیان کیا کہ اس آیت میں جو **فاقبرهٗ** کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے روح کی قبر مراد ہے حالانکہ یہ سفید جھوٹ اور خلاف واقعہ بات ہے اور قرآن کا سیاق و سباق بھی اس معنی کا اَبا کرتا ہے لیکن مثال مشہور ہے ''کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا'' اس لئے قرآن مجید کی تحریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس جگہ قبر سے مراد روح کی قبر ہے اور دلیل یہ دی کہ ہر مردے کو یہ ارضی قبر نہیں ملتی بلکہ بعض مردے جلا دیئے جاتے ہیں اور بعضوں کو درندے ہڑپ کر جاتے ہیں لہٰذا اس قبر سے مراد روح کی قبر ہے جو ہر مردے کو مل جاتی ہے جبکہ یہ زمینی قبر ہر مردے کو نہیں ملتی۔

لیکن سب سے پہلے آپ آیت مذکورہ اور اس کا صحیح ترجمہ ملاحظہ فرمایئے پھر کیپٹن صاحب کے استدلال کا حشر دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿قتل الانسان ما اكفره . من اى شىء خلقه . من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره﴾ (سورۂ عبس آیت ۲۴)

ترجمہ از حضرت تھانویؒ: آدمی پر خدا کی مار وہ کیسا ناشکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسی چیز سے پیدا کیا۔ نطفہ سے اس کی صورت بنائی۔ پھر اس کو اندازے سے پیدا فرمایا پھر اس کو راستہ آسان کر دیا۔ پھر اس کو موت دی پھر اس کو قبر میں لے گیا پھر جب اللہ چاہے گا اس کو دوبارہ زندہ کر دے گا۔

آپ اس آیت کے سیاق و سباق میں غور کریں آیت کا ایک ایک لفظ بتا رہا ہے کہ یہاں قبر سے مراد جسد کی قبر ہے کیونکہ اولاً اللہ تعالیٰ نے انسان کا ذکر فرمایا جو کہ روح اور جسد کے مجموعہ کو کہتے ہیں۔ پھر نطفہ سے اس کی تخلیق کا ذکر فرمایا۔ ظاہر ہے کہ نطفہ سے جسد ہی بنتا ہے نہ کہ روح۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آنے کی راہ آسان فرمائی۔ ظاہر ہے کہ راستے کی آسانی بھی جسد عنصری سے تعلق رکھتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دی۔ ظاہر ہے کہ موت کا تعلق بھی جسد کے ساتھ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو قبر میں لے گیا۔ سب کو معلوم ہے کہ انسان جو کہ نطفہ سے بنا۔ مخصوص راستے سے دنیا میں آیا پھر موت کا لقمہ بنا اسی کے لئے اللہ تعالیٰ نے قبر بنائی اسی کو قبر میں دفن کرنے کا حکم دیا اور یونہی اس کو اللہ تعالیٰ قبر میں لے گیا۔ لہٰذا صاف ظاہر ہے کہ آیت میں جسد کی قبر کا ذکر ہے جس پر یہ سارے حالات طاری ہوتے ہیں نہ کہ روح کی قبر

مراد ہے کیونکہ نہ تو وہ نطفہ سے بنی ہے، نہ ہی اس کو راستے کی آسانی کی ضرورت ہے اور نہ ہی وہ مرتی ہے۔ پس فاقبرہٗ سے مراد جسد کی قبر ہے نہ کہ روح کی قبر۔ اسی لئے تو مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں لکھا ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مردہ انسان کو قبر میں دفن کرنا واجب ہے اور دیگر مفسرین کرام نے بھی فاقبرہٗ سے مراد جسد کی قبر لی ہے لہٰذا اس آیت سے جسد کی قبر کی نفی کر کے روح کی قبر مراد لینا قرآن مجید کی تحریف ہے۔

کیپٹن صاحب کی کوتاہ فہمی

کیپٹن صاحب۔ اس کے ماننے والے اور دیگر منکرین عذاب قبر یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ جس مردہ کو پرندے، درندے اور مچھلیاں کھا گئیں ہیں یا جو مردہ جل کر راکھ ہو گیا ہے۔ اس کو قبر نصیب نہیں ہوتی حالانکہ یہ ان لوگوں کی کوتاہ فہمی ہے۔ اگر ان لوگوں کی یہ منطق تسلیم کر لی جائے تو تو یہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے وعدہ کے خلاف لازم آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں" منھا خلقنا کم وفیھا نعید کم " یعنی ہم نے تم کو اس زمین سے پیدا کیا اور پھر اسی میں دوبارہ لوٹائیں گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ کے مطابق ہر مردہ نے زمین میں جانا اور دفن ہونا ہے ورنہ ذات باری تعالیٰ پر خلف وعدہ کا الزام آئے گا جس سے اس کی ذات منزہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ وعدہ خداوندی کے مطابق ہر مردہ نے زمین میں جانا ہے خواہ جلد یا دیر سے۔ بہر حال ہر مردہ انسان نے زمین میں جانا ہے۔ جو مردہ پرندوں، درندوں کے پیٹ میں گیا بالآخر وہ پرندہ اور درندہ کو مرنا ہے اور زمین میں ملنا ہے۔ جو مچھلیاں پانی کی تہہ میں مرگئیں بالآخر وہ بھی تہہ زمین میں جاتی ہیں۔ بہر حال دیر سے یا سویر سے ہر انسان نے زمین میں تو جانا ہی

ہے فرعون وغیرہ کی لاش اگرچہ کسی مکان میں رکھی ہے لیکن قیامت کے زلزلے سے وہ مکان گرے گا اور یوں فرعون کی لاش بھی زمین میں دفن ہو جائے گی۔ لہٰذا کیپٹن صاحب نے اَمَاتَہٗ فَاَقْبَرَہٗ سے جسد کی قبر کی نفی کر کے روح کی قبر مراد لیکر در حقیقت اس آیت کا انکار کیا ہے۔

مردے کہاں سے اٹھیں گے؟

کیپٹن صاحب اور اس کے ماننے والے کہتے ہیں کہ قیامت کے دن مردے انہیں قبروں سے اٹھیں گے جہاں ان کے مردہ جسم مدفون ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے:

﴿واذا القبور بعثرت﴾

"یعنی قبریں اکھیڑی جائیں گی اور مردے اٹھائے جائیں گے۔"

تو اگر کیپٹن صاب کے پہلے نظریہ کو سچا تسلیم کیا جائے کہ جہاں مردہ جسد مدفون ہے یہ قبریں نہیں ہیں بلکہ قبریں ارواح کی ہوتی ہیں تو ان کا پہلا نظریہ اس دوسرے نظریہ کے متصادم ہوگا۔ کیونکہ اگر قبریں ارواح کی ہوتی ہیں تو قیامت کے دن مردے بھی انہیں ارواح کی قبروں سے جی اٹھیں گے۔ کیونکہ ان کے نزدیک تو اجساد مدفونہ کے مقام قبریں ہی نہیں ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان آیات کا بھی انکار ہو جائے گا جن میں بتایا گیا ہے کہ انہیں قبروں سے مردوں کو زندہ کیا جائے گا۔ اور بات پھر بھی ذہن نشین کر لیں کہ قرآن وحدیث میں جہاں بھی قبر کا لفظ بولا گیا ہے وہ صرف اور صرف جسد عنصری کے مدفن پر ہی بولا گیا ہے اس کے علاوہ لفظ قبر کسی اور مقام پر نہیں بولا گیا اگر کسی نے قبر سے مراد برزخ لی ہے تو یقین جانیئے کہ جسد عنصری کا ہر مقام برزخ کے مفہوم میں داخل اور شامل ہے۔ برزخ کا اطلاق بھی اس کے علاوہ کسی

پر نہیں ہوتا۔ اور قرآن وحدیث کی نصوص سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ ہر مردہ کو یہ زمین والی قبر مل کر رہتی ہے۔ اگر کوئی شخص سمجھے ہوئے ہے کہ بعض مردوں کو قبر نہیں ملتی تو یہ اس کا نظریہ قرآن وحدیث کے خلاف ہے۔

کیپٹن صاحب نے حدیث کا غلط مطلب بیان کیا

آپ نے پڑھ لیا کہ پورے قرآن مجید میں سے کیپٹن صاحب نے صرف ایک آیت پیش کی ہے۔ اَمَـاتَـهٗ فـاقبره. اور اس کا غلط مطلب بیان کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہاں قبر سے مراد روح کی قبر ہے۔ حالانکہ دھوکہ دہی سے کام لیا اور فریب کاری کی درحقیقت اس آیت میں بھی قبر سے مراد جسد کی قبر ہے اور اس کے بعد پورے ذخیرہ احادیث سے صرف اور صرف ایک حدیث پیش کی اور پھر دھوکہ بازی اور فریب کاری کے ذریعہ سینہ زوری کی کہ اس حدیث میں جو قبر کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے روح کی قبر مراد ہے آپ سب سے پہلے حدیث اور پھر کیپٹن صاحب کا کیا ترجمہ اور تشریح ملاحظہ فرمائیں۔ پھر بندہ عاجز اس کے استدلال کی حقیقت آپ کے سامنے واضح کرے گا چنانچہ لکھتے ہیں۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ بخاری کی اس حدیث کا کیا جواب ہے تو خاموشی چھا جاتی ہے۔

> عن عـمـرة بنت عبدالرحمن انّها اخبرتهٗ اِنها سمعت عائشةؓ زوج النبی صلی اللہ علیه وسلم قالت انما مَرَّ رسـولُ اللہ صلی اللہ علیه وسلم علی یهودیة یبکی عـلیهـا اهلها فقال انهم لیبکون علیها وانها لتعذب فی قبرها .(فوٹو بخاری ج ا ص: ۱۷۲)

ترجمہ: ''عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودیہ (عورت) پر گزرے (قبر پر نہیں) اس پر گھر والے رو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ اس (یہودیہ) پر رو رہے ہیں اور اس کو اس کی قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔'' (بخاری، ص: ۱۷۲، ج ۱، ومسلم)

بخاری کی اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ وہ یہودی عوت ابھی زمین کی قبر میں دفن بھی نہیں کی گئی تھی زمین کے اوپر تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس یہودی عورت کو اس کی قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے معلوم ہوا کہ یہاں قبر سے مراد برزخی قبر ہے دنیاوی نہیں۔ (عذاب برزخ ص: ۱۶ مصنفہ کیپٹن صاحب)

قارئین کرام! آپ نے کیپٹن صاحب کی پیش کردہ حدیث اس کا ترجمہ اور اس کا مطلب جو کہ انہی کا بیان کردہ ہے آپ نے پڑھ لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ کیپٹن صاحب کا یہ استدلال بھی باطل اور جھوٹ کا پلندا ہے اس حدیث میں بھی قبر کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس سے بھی جسد کی قبر مراد ہے نہ کہ روح کی قبر باقی رہا کیپٹن صاحب کا یہ کہنا کہ یہودیہ تو ابھی زمین والی قبر میں دفن نہیں ہوئی تھی، لہٰذا اس حدیث میں قبر سے مراد روح کی قبر ہے نہ جسد کی۔ تو یہ سراسر مغالطہ ہے اور خالص دھوکہ ہے۔ اور اس مغالطہ کے چند جوابات ملاحظہ فرمائے۔

سات جوابات

جواب اول: حدیث کے ذخیرہ میں قبر کا لفظ بکثرت استعمال ہوا ہے جس کی تعداد لاکھوں تک پہنچ سکتی ہے اور ہر جگہ قبر سے زمین کا وہ حصہ مراد ہے جہاں مردہ جسد دفن کیا جاتا ہے یعنی مدفن ارضی کو قبر کہا گیا ہے اور کہیں بھی قبر سے مراد روح کی قبر نہیں لی

گئی لہٰذا یہ ناممکن ہے کہ تمام حدیثوں کے خلاف اس حدیث میں قبر سے روح کی قبر مراد لی جائے بلکہ ضروری ہے کہ بقیہ حدیثوں کی طرح یہاں بھی قبر سے مراد جسد کی قبر ہو تا کہ ایک حدیث کا مطلب کسی دوسری حدیث کے متصادم نہ ہو۔

جواب دوئم: جس طرح قرآن مجید کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ القرآن یفسر بعضه بعضاً اسی طرح ایک حدیث دوسری احادیث کی تفسیر ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ ابوداؤد شریف میں ایک حدیث وارد ہوئی ہے جو اس حدیث کی تفسیر کرتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس یہودی مرد یا عورت کی قبر پر ہوا جس کے اہل اس پر رو رہے تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے اور یہ اس پر رو رہے ہیں چنانچہ حدیث ملاحظہ فرمائیے۔

> عن ابن عمر رضی الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انّ الميت ليعذب ببكاء اهله عليه فذكر ذلك لعائشةؓ فقالت وَهَلَ تعنی ابن عمر انّما مَرَّ النبی صلى الله عليه وسلم على قبر فقال انّ صاحب هذا ليعذب و اهله يبكون عليه ثم قرءت ولا تزر وازرة وزر اُخرى. قال عن ابی معاوية على قبر يهودى. (ابو داؤد جلد: ۲ صفحہ: ۹۰)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میت کے اہل کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے تو یہ بات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سامنے ذکر کی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھول گئے ہیں (حقیقت یہ ہے

کہ) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قبر پر گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قبر والے کو عذاب دیا جا رہا ہے اور اس کے اہل اس پر رو رہے ہیں پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بار اٹھانے والی کسی دوسرے کا بار نہیں اٹھائے گی۔

حدیث کا ایک راوی کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر یہودی کی قبر پر ہوا تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ درحقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر یہودی مرد یا عورت کی قبر پر ہوا جس پر اس کے رشتہ دار رو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رو رہے ہیں اور اس کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے یہ حدیث مفصل ہے اور بخاری شریف کی حدیث مختصر اور مجمل ہے چونکہ کیپٹن صاحب کا مطلب مختصر حدیث سے پورا ہوتا تھا اسی لئے دھوکہ دینے کے لئے مختصر حدیث پیش کر دی اور اس کی تفصیل کو چھپا دیا ورنہ ان کا من بھاتا مطلب کشید نہ ہوتا۔ یہ صرف یہاں نہیں بلکہ کیپٹن صاحب ہمیشہ اپنے ہر استدلال میں دھوکہ اور فریب سے کام لیتے ہیں اور تلبیس و مغالطوں سے اپنی گاڑی چلاتے ہیں۔

جواب سوئم: بخاری شریف کی جو حدیث کیپٹن صاحب نے استدلال میں پیش کی ہے اس کے الفاظ ہیں "انها لتعذب فی قبرها" "لیعذب" فعل مضارع کا صیغہ ہے اور فعل مضارع میں دو زمانے پائے جاتے ہیں ایک حال دوسرا استقبال اور لیعذب میں اگر زمانہ استقبال مراد لیا جائے تو حدیث کا مطلب یہ ہوگا اس یہودی کو عنقریب قبر میں عذاب دیا جائے گا لہٰذا اس حدیث میں بھی قبر سے جسد کی قبر مراد ہے نہ کہ روح کی اور کیپٹن صاحب کا مغالطہ باطل بلکہ غلط ہے۔

جواب چہارم: قرآن وحدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے فوراً بعد اور دفن ہونے سے پہلے بھی جزاوسزا کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور علماء اہلسنت والجماعت نے لکھا ہے کہ قبل از دفن جو کارروائی ہوتی ہے اس کو بھی تغلیباً عذاب قبر کہا جاتا ہے کیونکہ عذاب کا اکثر حصہ قبر میں ہوتا ہے۔ لہٰذا دفن سے پہلے والی کارروائی سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ مدفن ارضی قبر نہیں ہے بلکہ قبر سے مراد روح کا مقام ہے یہ کیپٹن صاحب کے سوئے فہم کا نتیجہ ہے۔ بہرحال قبر یہی ہے جہاں مردہ انسان دفن کیا جاتا ہے یا مٹی میں جاملتا ہے دیر سے یا سویرے اس کے علاوہ قبر کا کوئی اطلاق نہیں ہے باقی جن علماء نے فرمایا ہے کہ قبر سے مراد برزخ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ارضی قبر کی نفی ہو گئی بلکہ قبر کے مفہوم میں وسعت پیدا کرنا مقصود ہے تا کہ قبر کے مفہوم میں مردہ انسان کا ہر مقام اور مستقر آ جائے۔ برزخ کے مفہوم سے قبر کو خارج سمجھنا ایک خطرناک مغالطہ ہے جس میں بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے ہیں۔

جواب پنجم: حدیث کا یہ مطلب جو کیپٹن صاحب نے بیان کیا خود ان کے اپنے نظریہ کے خلاف ہے کیونکہ کیپٹن صاحب کے نزدیک موت کے بعد عذاب مردہ جسد کو نہیں بلکہ روح کو ہوتا ہے اور اس حدیث سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ عذاب مردہ جسد کو ہوتا ہے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اسی مردہ جسد پر ہوا جس پر اس کے اہل رو رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مردہ جسد ہی کے بارے میں فرمایا کہ یہ رو رہے ہیں اور اس کو عذاب ہو رہا ہے چونکہ یہودی اسی مردہ جسد پر رو رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بھی اسی مردہ جسد پر ہوا اور اسی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے یہاں روح کا کوئی ذکر اذکار اور قرینہ موجود نہیں ہے لہٰذا ثابت ہوا کہ اسی مردہ جسد کو

عذاب قبر ہوتا ہے جبکہ کیپٹن صاحب اس کے عذاب کے سرے سے قائل ہی نہیں ہیں بلکہ اس پر تو ہزاروں اعتراض کرتے ہیں کہ اس جسد کو پرندے درندے کھا جاتے ہیں یہ تو خاک و راکھ ہو جاتا ہے اس کو عذاب کیسے؟ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس پر یہ رو رہے ہیں اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ لہٰذا یہ حدیث تو خود کیپٹن کے نظریہ کے خلاف ہے۔

جواب ششم: جس چیز کا وقوع یقینی ہو وہ اگرچہ ابھی تک وقوع پذیر نہ ہوئی ہو تو اس کو وقوع سے تعبیر کر دیا جاتا ہے کیونکہ اس کے واقع ہونے میں کسی قسم کا شک نہیں ہوتا اس کی مثالیں قرآن مجید میں بکثرت موجود ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿اقتربت الساعة وانشق القمر﴾

”یعنی قیامت نزدیک آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا۔“

اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا حالانکہ چاند قیامت کے دن ٹکڑے ٹکڑے ہو گا چونکہ قیامت کے دن اس کا شق ہونا یقینی ہے اس یقین کی بنیاد پر کہا گیا ہے کہ چاند شق ہو گیا۔ اسی طرح قبر میں یہودی کا عذاب یقینی تھا اور اسی یقین کی بنیاد پر کہا گیا کہ یہودی عذاب قبر میں مبتلا ہے اور یہ رو رہے ہیں یعنی یقیناً اس کو عذاب قبر میں مبتلا ہونا ہے۔ گویا ہو چکا ہے۔

جواب ہفتم: کیپٹن صاحب نے اس حدیث کا جو مطلب بیان کیا ہے کہ یہاں قبر سے روح کی قبر مراد ہے یہ ایک ایسا مطلب ہے جو نہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا نہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کسی صحابی نے نہ کسی تابعی نے اور نہ ہی پورے چودہ سو سالہ تاریخ اسلامی کے کسی سچے عالم دین نے بیان کیا ہے۔ کیپٹن صاحب پہلے آدمی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے روح کی قبر مراد ہے لہٰذا یہ مطلب اس لئے

بھی باطل ہے کہ آج تک کسی مسلمان نے حدیث کا یہ مطلب بیان نہیں کیا۔ اور اسی پر بدعت کی تعریف صادق آتی ہے۔ باقی قبر سے برزخ مراد لینے سے قطعاً قبر ارضی کی نفی نہیں ہوتی۔

تنبیه: آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ کیپٹن صاحب نے صرف ایک آیت اور صرف ایک حدیث پیش کی ہے جہاں قبر کا لفظ استعمال ہوا ہے اور سینہ زوری سے کہا ہے کہ یہاں قبر سے روح کی قبر مراد ہے اور اس کے استدلال کا حال آپ نے معلوم کرلیا ہے دھوکہ دیا اور جھوٹ بولا اور پھر بھی اپنے مقصد میں ناکام رہا۔ تو معلوم ہوا کہ ان دو مقامات کے علاوہ جہاں بھی قبر کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں یہی ارضی قبر مراد ہے۔ اور دلائل جو کیپٹن صاحب نے پیش کئے ہیں وہاں سرے سے قبر کا لفظ بھی موجود نہیں ہے۔ البتہ ان دلائل میں موت کے بعد اور قیامت سے پہلے جزا و سزا کا ثبوت ہے اور اس جزا و سزا کو علما اسلام عذاب قبر اور عذاب برزخ دونوں سے تعبیر کرتے ہیں اور ان دونوں میں کوئی تضاد اور تنافی نہیں ہے بلکہ ان دونوں کا اطلاق ایک ہے ایک سے دوسرے کی نفی سمجھنا حماقت اور جہالت ہے ان سب دلائل سے یہ ثابت ہے کہ عالم قبر اور عالم برزخ میں مردہ انسان کے روح اور جسد عنصری دونوں جزا و سزا کا مورود بنتے ہیں لیکن کیپٹن صاحب کی بنیادی غلطی یہ ہے کہ وہ برزخ کا لفظ دیکھ کر قبر کی نفی کر دیتا ہے حالانکہ یہ ان کی کوتاہ فہمی اور کم عقلی ہے: ۔

سخن شناس نہی دلبر خطا اینجا است

مزید ایک آیت کا انکار:

کیپٹن صاحب مردہ انسان کے مدفن و مستقر کو قبر ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں بلکہ قسم قسم کے عقلی شبہات کے بل بوتے پر اس قبر اور اس میں ہونے والی کاروائی

کا انکار کرتے ہیں بلکہ اس پر ملحدانہ اعتراض کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو کوا بھیج کر اسے ارضی قبر کی کھودائی اور اس میں مردہ جسم کو دفن کرنے کا طریقہ سکھایا ہے:

﴿فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا يَّبْحَثُ فِي الْاَرْضِ﴾

اگر اس زمینی قبر کو قبر نہ مانا جائے تو لازماً اس آیت کریمہ کا انکار ہوگا۔

پچاس سے زائد آیات کا انکار

قرآن مجید میں پچاس سے زائد آیات ایسی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ موت کے بعد اور قیامت سے پہلے مردہ انسان کو عالم قبر اور عالم برزخ میں جزا و سزا دی جاتی ہے اور قبر و برزخ کی یہ کارروائی روح اور جسد عنصری کے مجموعہ پر وارد ہوتی ہے چاہے یہ مردہ انسان جس حالت میں بھی تبدیل اور مستحیل ہو جائے لیکن کیپٹن صاحب قبر و برزخ کی اس کارروائی کو تسلیم نہیں کرتا ہے بلکہ شکوک وشبہات کے ذریعہ اس قرآنی نظریہ کو کمزور کرنے کی سعی مذموم کرتا ہے حتیٰ کہ قرآن مجید سے اس ثابت شدہ حقیقت کو کفر کا نام دیتا ہے۔ العیاذ باللہ لہٰذا قبر و برزخ کی اس کارروائی کا منکر پچاس سے زائد آیات کا منکر ہے جن سے یہ کارروائی ثابت ہے۔

تین موتیں، تین حیاتیں

کیپٹن مسعود الدین عثمانی اور اس کے ماننے والے بڑا شور مچاتے ہیں کہ قرآن مجید سے دو حیاتیں ثابت ہیں اس پر ایک آیت یہ پڑھتے ہیں "کیف تکفرون باللہ و کنتم امواتاً الخ" اور دوسری یہ آیت پڑھتے ہیں۔ "ربّنا احیتنا اثنتین الخ" اور کہتے ہیں اگر قبر میں ایک اور حیات مانی جائے تو دو کی بجائے تین حیاتیں بن جائیں گی اور قرآن کے خلاف ہو جائے گا حالانکہ ہمارے علماء اہل السنت

والجماعت اس شبہے اور وسوسے کا یہ جواب دے چکے ہیں کہ قبر کی زندگی کوئی مستقل حیات نہیں ہے بلکہ وہ۔ "نوعٌ من الحیات" ہے اور آیات مذکورہ بالا میں بتایا گیا ہے کہ مستقل زندگیاں دو ہیں ایک دنیا کی اور ایک آخرت کی باقی رہی حیات قبر تو چونکہ وہ مستقل حیات نہیں ہے بلکہ وہ دنیا کی زندگی کا تتمہ یا آخرت کی زندگی کا مقدمہ ہے لہٰذا شبہ وارد نہیں ہوتا تفصیل سے دیکھئے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ کی تفسیر معارف القرآن جلد:۱ صفحہ ۱۷۳، لیکن کیپٹن صاحب ان آیات کے سراسر خلاف تین حیاتوں اور تین موتوں کے قائل ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ موت کے بعد روح کو ایک اور جسم مل جاتا ہے یعنی روح کو دوسرے جسم میں داخل کر دیا جاتا ہے اور اس دوسرے جسم کے ساتھ اس کو حیات برزخی حاصل ہو جاتی ہے اور اس پر جزا و سزا کا سلسلہ جاری کر دیا جاتا ہے۔ دیکھئے کیپٹن صاحب کا رسالہ (عذاب برزخ صفحہ: ۲، ۶، ۹) اور یہ بھی کیپٹن صاحب کا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن روح کو اس دوسرے جسم سے نکال کر دنیا والے جسد کی طرف بھیجا جائے گا۔ تو آپ خود انصاف کریں جب کیپٹن صاحب روح کے لئے دوسرا جسم تجویز کرتے ہیں اور روح کو اس میں داخل مانتے ہیں اور اس کو حیات برزخی کہتے ہیں تو لازماً یہ تیسری حیات بن گئی اور جب قیامت کے دن روح کو دوسرے جسم سے نکال کر دنیاوی جسم کی طرف بھیجا جائے گا تو لازماً یہ تیسری موت بن جائے گی۔ کیونکہ روح نکالنے کو موت ہی تو کہتے ہیں لہٰذا کیپٹن صاحب تو ہمیں الزام دیتے تھے کہ قبر کی زندگی ماننے سے دو کی بجائے تین حیاتیں بن جائیں گی لیکن کیپٹن صاحب کے نظریہ کے مطابق تین حیاتیں اور تین موتیں بن رہی ہیں۔ کیا قرآن مجید کی مذکورہ بالا آیات جن سے دو حیاتیں ثابت کی جاتی ہیں۔ اگر قبر کی حیات مانی جائے تو اس کے خلاف ہو جاتی ہیں اور اگر برزخ کی تیسری حیات اور تیسری موت مانی

جائے تو خلاف نہیں پڑتی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ کیپٹن والے تین حیاتوں اور تین موتوں کے قائل ہیں اور قرآن مجید کی مذکورہ بالا آیات بہ نسبت ہمارے عقیدے کے خود ان کے عقیدہ اور نظریہ کے زیادہ خلاف ہیں۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے شور برپا کر رکھا ہے کہ علماء اسلام نے قرآن کے خلاف تیسری حیات بنا رکھی ہے اور اپنا پتہ نہیں کہ تیسری مستقل حیات بھی بنا رکھی ہے اور ساتھ تیسری موت بھی بنا رکھی ہے۔

کیپٹن مسعودالدین عثمانی کے نزدیک ہم تک قرآن مجید غیر مسلم ہاتھوں سے پہنچا

قارئین کرام! کراچی کا کیپٹن مسعودالدین عثمانی جو اپنے آپ کو عامل قرآن سمجھتا ہے اور علماء اسلام کو قرآن کے خلاف کہتا ہے۔ درحقیقت اس شخص کے نزدیک قرآن مجید قابل اعتماد ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ کہتا ہے کہ اصل اسلام اور قرآن پہلی صدی سے آگے نہیں بڑھا بلکہ دوسری صدی سے آج تک اتحادی اسلام چلا آ رہا ہے جس کو بعد والے لوگوں نے بنایا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب دین اسلام پہلی صدی سے آگے نہیں چلا بلکہ وہیں ختم ہو گیا تو دوسری صدی سے لے کر آج تک کے سب لوگ غیر مسلم ہیں جن کے ذریعہ ہم تک قرآن پہنچا اور جب ہم تک قرآن پہنچانے والے غیر مسلم ہیں اور اتحادی اسلام کے علمبردار ہیں تو ان کے لائے ہوئے قرآن پر کیا اعتماد ہے۔ تو معلوم ہوا ہے کہ کیپٹن مسعودالدین کے نظریہ کے مطابق یہ قرآن ناقابل اعتماد ہے کیونکہ یہ لوگ کیپٹن صاحب کے نزدیک غیر مسلم تھے اور اتحادی اسلام کے علمبردار تھے نہ کہ حقیقی اسلام کے چنانچہ لکھتا ہے دوسری صدی ہجری۔ حضرت ابراہیم بن الادھم۔ وفات ۱۹۲ھ حضرت رابعہ بصری وفات ۱۸۵ھ...... چودھویں (موجودہ

صدی) ہجری خاندان ولی اللٰہی کے خدام یعنی جماعت دیوبند و بریلی و اہلحدیث یہ سارے حضرات جن کا اوپر ذکر کیا گیا۔ دین اتحاد کے علمبردار تھے اور آج جو دین اسلام کے نام سے اس دنیا میں پایا جاتا ہے وہ انہیں حضرات کا ایجاد کردہ ہے قرآن و حدیث کے دین سے بالکل الگ یکسر ممتاز، دین بندگی کے بجائے دین فدائی ایمان خالص پہلی قسط (گھر کے چراغ ص:۸۵) آپ نے دیکھ لیا کہ کیپٹن صاحب نے دوسری صدی ہجری سے لے کر چودھویں صدی کے اکابر، علما اور بزرگان کے نام لے کر کہا کہ تمام لوگ دین اتحاد کے علمبردار تھے۔ آج جو دین اسلام دنیا میں پایا جاتا ہے انہیں کا ایجاد کردہ ہے۔ قرآن وحدیث سے یہ دین الگ، ممتاز اور جدا ہے۔

قارئین کرام! جب یہ صورت حال ہے کہ کیپٹن صاحب کے نزدیک مسلمانوں کی پوری تیرہ صدیاں اصلی اسلام سے یکسر خالی ہیں۔ دین اسلام پہلی صدی تک محدود رہا اس کے بعد وہ ختم ہو گیا لوگوں نے ایک الگ دین اسلام ایجاد کیا ہے اور دنیا میں یہی بناوٹی دین پایا جاتا ہے اور اصل ختم ہو چکا ہے تو قرآن مجید تو ہم تک ایسے لوگوں کے ذریعہ سے پہنچا ہے جو کہ اصلی اسلام کے پیروکار ہونے کی بجائے بناوٹی اسلام کے علمبردار تھے تو اس قرآن پر کیا اعتماد رہا جو کہ غیر مسلموں کے ہاتھوں ہم تک پہنچا ہے تو معلوم ہوا کہ کیپٹن صاحب کی منطق کی رو سے یہ قرآن ناقابل اعتماد ہے۔ جب کیپٹن صاحب کا قرآن پر اعتماد ہی نہیں تو یقیناً قرآن قرآن کی رٹ لگانا دھوکہ ہے اور مسلمانوں کے ایمان لوٹنے کا لاوا ہے۔

قرآن کا محافظ اللہ تعالیٰ ہے

شاید کسی شخص کے دل میں یہ خیال آئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد

فرمایا ہے "اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحَافِظُوْنَ" جس کا مطلب واضح ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود اٹھائی ہے۔ تو عرض ہے کہ بے شک قرآن مجید کا محافظ اللہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ حفاظت مسلمانوں کے ذریعہ فرمائی ہے کہ ہر دور کے مسلمان قرآن کو محفوظ طریقے سے آئندہ آنے والی نسل تک پہنچاتے چلے آ رہے ہیں اور یہ قرآنی امانت نسلاً بعد نسل ہمارے تک منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے اور یہ سلسلہ یونہی قیامت تک جاری وساری رہے گا۔ اگر قرآن کے ان ناقلین کو غیر مسلم قرار دے دیا جائے تو لازماً قرآن مجید سے خود بخود اعتماد اٹھ جائے گا۔ لہٰذا حفاظت قرآن کے لئے ضروری ہے کہ جن واسطوں سے ہم تک قرآن پہنچا ہے ان کو پکا، کھرا اور سچا مسلمان سمجھا جائے اگر قرآن پہنچانے والے وسائط کو غیر مسلم اور کافر قرار دے دیا جائے تو خود قرآن سے اعتماد اٹھتا ہے اور جس طرح بقیہ آیات قرآنیہ کو نقل کرنے والے ہم تک پہنچانے میں تیرہ سو سال کے لوگ ہیں اسی طرح۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا کو نقل کرنے والے بھی وہی لوگ ہیں اگر خدانخواستہ ان کو غیر مسلم تصور کیا گیا تو یہ آیت مذکورہ بالا بھی ناقابل اعتماد ہو جائے گی کیونکہ اس کو نقل کرنے والے ہم تک پہنچانے اور اس کو قرآن بتانے والے بھی وہی غیر مسلم ہیں۔ تو معلوم ہو گیا کہ کیپٹن صاحب کے اس نظریہ کی وجہ سے اس کے نزدیک قرآن مجید قابل اعتماد ہو ہی نہیں سکتا۔ چاہے قرآن کو ماننے کے بانگ دہل ہزاروں نعرے لگائے۔ بہر حال جب تک اپنے اس غلط نظریہ سے توبہ نہ کرے اس کا قرآن پر ایمان ثابت نہیں ہو سکتا۔

(۲) کیپٹن مسعود الدین عثمانی آیات قرآنیہ کا غلط مطلب بیان کرتا ہے

گذشتہ بالا سطور میں دلائل سے ثابت کیا گیا کہ کیپٹن صاحب قرآن مجید کا

منکر تھا اس کا قرآن مجید پر ایمان ثابت ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ صرف مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لئے قرآن کو برائے نام استعمال کرتا تھا۔ درحقیقت اس کا مقصد سادہ لوح مسلمانوں کو قرآن کی تعلیمات سے منحرف کرنا تھا اور آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ شخص آیات قرآنیہ کا غلط مطلب بیان کرتا تھا اور من بھاتا معنی کر کے گمراہی کی گاڑی چلاتا تھا اس کی چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں۔

مثال اول: کیپٹن مسعود الدین نے اپنے دماغ سے یہ مسئلہ گھڑا کہ علماء، مدرسین اور آئمہ مساجد کی تنخواہیں ناجائز بلکہ حرام ہیں اور ثبوت کے لئے درج ذیل آیت پیش کی "وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰیٰتِیْ ثَمَنًا قَلِیْلًا" سورہ بقرہ آیت ۴۱ (ترجمہ) اور مت لو بمقابلہ میرے احکام کے معاوضہ حقیر کو۔

یہ اور اس قسم کی دوسری آیات درحقیقت قوم بنی اسرائیل کے حق میں نازل ہوئی ہیں کیونکہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کی آیات کے نام پر رشوتیں لیا کرتے تھے بایں طور کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرح اپنے پاس ایک اور متوازی کتاب تیار کر رکھی تھی اور لوگوں کو یہ باور کرایا ہوا تھا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے حالانکہ وہ ان کی اپنی لکھی ہوئی کتاب تھی تو جب کوئی مسئلہ درپیش آتا تو یہ لوگ اپنی خود ساختہ کتاب سے لوگوں کا پسندیدہ حکم بتا کر رشوت لے لیتے تھے اور کہہ دیتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اس کی آیات ہے اور اس کا حکم ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹوکا کہ تمہارا یہ طریقہ تو اللہ تعالیٰ کی آیات بیچنے کے مترادف ہے لہٰذا میری آیات کو چند ٹکوں کی خاطر مت بیچو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات و احکام کے نام پر رشوت نہ لو۔ چنانچہ خود قرآن مجید کی دوسری آیات میں یہی تفصیل اور تفسیر موجود ہے۔

﴿فویل للذین یکتبون الکتب بایدیھم ثم یقولون

ھذا من عند اللہ لیشتروبه ثمنا قلیلا. فویل لھم مما کتبت ایدیھم وویل لھم مما یکسبون﴾ . (سورۃ بقرہ آیت ۷۹)

ترجمہ: "تو بڑی خرابی ان کی ہوگی جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے پھر کہہ دیتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے غرض یہ ہوتی ہے کہ اس ذریعہ سے کچھ نقد قدرے قلیل وصول کرلیں سو بڑی خرابی آوے گی ان کو اس کی بدولت جس کو ان کے ہاتھوں نے لکھا تھا اور بڑی خرابی ہوگی ان کو اس کی بدولت جس کو وہ وصول کرلیا کرتے ہیں۔"

قارئین! آپ نے دیکھ لیا کہ اس دوسری آیت نے پہلی آیت کی تفسیر کردی کہ اللہ تعالیٰ کی آیات و کتاب کے نام پر غلط حکم بتا کر رشوت لینا گویا اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچنا ہے تو معلوم ہوا کہ اس آیت اور اس قسم کی دوسری آیات کو علماء مدرسین اور آئمہ مساجد کی تنخواہوں سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن کیپٹن صاحب نے ان آیات کا غلط مطلب بیان کر کے تنخواہوں کو ناجائز کر دیا۔ اس سب کے باوجود عمل بالقرآن کا دعویدار بھی ہے، تسکین مزید کے لئے مذکورہ بالا آیت کا مطلب مفسر قرآن مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی سنیئے فرماتے ہیں' وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰیٰتِیْ ثَمَنًا قَلِیْلًا" اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے میں قیمت لینے کی ممانعت کا مطلب وہی ہے جو آیت کے سباق و سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کی مرضی اور ان کے اغراض کی خاطر اللہ تعالیٰ کی آیات کا مطلب غلط بتلا کر یا چھپا کر لوگوں سے پیسے لئے جائیں یہ فعل باجماع امت حرام ہے۔

تعلیم قرآن پر اجرت لینا جائز ہے

رہا یہ معاملہ کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کی آیات صحیح صحیح بتلا کر یا پڑھا کر اس کی اجرت لینا کیسا ہے۔ اس کا تعلق آیت مذکورہ سے نہیں خود یہ مسئلہ اپنی جگہ قابل غور و بحث ہے کہ تعلیم قرآن پر اُجرت و معاوضہ لینا جائز ہے یا نہیں۔ فقہاء اُمت کا اس میں اختلاف ہے۔ امام مالک، شافعی، احمد بن حنبل جائز قرار دیتے ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہؒ اور بعض دوسرے آئمہ منع فرماتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو ذریعہ کسب معاش کا بنانے سے منع فرمایا ہے لیکن متاخرین حنفیہ نے بھی جب ان حالات کا مشاہدہ کیا کہ قرآن مجید کے معلمین کو اسلامی بیت المال سے گزارہ ملا کرتا تھا اب ہر جگہ اسلامی نظام میں فتور کے سبب معلمین کو عموماً کچھ نہیں ملتا یا گر اپنے معاش کے لئے کسی محنت و مزدوری یا تجارت وغیرہ میں لگ جائیں تو بچوں کی تعلیم قرآن کا سلسلہ یکسر بند ہو جائے گا کیونکہ وہ دن بھر کا مشغلہ چاہتا ہے اس لئے تعلیم قرآن پر تنخواہ لینے کو بضرورت جائز قرار دیا۔ جیسا کہ صاحب ہدایہ نے فرمایا ہے کہ آج کل فتویٰ جواز پر ہے۔

مثال دوئم: کیپٹن صاحب درج ذیل آیت کا غلط مطلب بیان کر کے اردو خواندہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔

> ﴿حتی اذاجاء احدهم الموت قال رب ارجعون.
> لعلی اعمل صالحاً فیما ترکت کلا انها کلمة هو
> قائلها ومن ورائهم برزخ الی یوم یبعثون﴾. (سورۃ
> مؤمنون آیت: ۱۰۰)

ترجمہ: یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت آتی ہے اس

وقت کہتا ہے اے میرے رب مجھ کو واپس بھیج دیجئے تا کہ جس کو میں چھوڑ آیا ہوں اس میں نیک کام کروں۔ ہرگز نہیں۔ یہ ایک بات ہی بات ہے جس کو یہ کہے جا رہا ہے اور ان لوگوں کے آگے ایک آڑ ہے قیامت کے دن تک۔

قارئین کرام! قرآن مجید کی مذکورہ بالا آیت کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ موت کے وقت جب کافر مجرم کے سامنے اس کا بڑا مقام دکھایا جاتا ہے تو وہ گھبرا کر یہ تمنا کرتا ہے کہ مجھے دنیا میں دوبارہ، واپس بھیج دیا جائے تا کہ میں اپنے مال وغیرہ کے ذریعہ نیک عمل کرلوں اور قبر و آخرت کے سنگین عذاب سے بچ جاؤں لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ یہ صرف اس کی تمنا ہے لیکن پوری نہ ہوگی کیونکہ موت کے ساتھ آدمی بمع روح اور جسد کے عالم برزخ و قبر میں چلا جاتا ہے اب اس کو برزخ سے دنیا کی طرف دوبارہ واپس نہیں بھیجا جاتا چاہے وہ جتنی آرزو بھی کرے۔ تو معلوم ہوا کہ بندہ مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں دنیوی زندگی کے ساتھ واپس نہیں آسکتا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ مردہ انسان کو دوبارہ دنیا میں نہیں آنے دیتے ہاں قدرت اللہ علیحدہ ہے۔ لیکن کیپٹن صاحب نے اپنی کتابوں اور رسالوں میں اس آیت کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ عالم قبر و برزخ میں مردہ جسد کی طرف نہ اعادہ روح ہوتا ہے نہ روح کا تعلق اور نہ ہی اس مردہ انسان سے حساب ہوتا ہے اور نہ ہی قبر میں جزا و سزا ہوتی ہے بلکہ اس مردہ انسان میں کسی قسم کی حیات نہیں ہوتی ہے حالانکہ قرآن مجید کی پچاس سے زائد آیات اور سینکڑوں احادیث صحیح سے قبر کی حیات و جزا و سزا ثابت ہے۔ تفصیل کے لئے بندہ عاجز کی کتاب۔ "قبر کی زندگی" کا مطالعہ فرمائیں اور مذکورہ بالا آیت سے قبر کی

حیات کی نفی ہر گز نہیں ہوتی بلکہ ثبوت ملتا ہے کہ قبر و برزخ کی سزا سے آدمی گھبرا کر دنیا کی طرف واپسی کی تمنا کرتا ہے لیکن اس کو واپس نہیں کیا جاتا ہے۔

لہٰذا کیپٹن صاحب کا اس آیت سے قبر کی زندگی کا انکار کرتا آیت کا غلط مطلب ہے صحیح مطلب یہ ہے کہ مردہ انسان کو دنیا میں دوبارہ نہیں بھیجا جاتا۔ بلکہ وہاں اس کو سزا دی جاتی ہے اور یہی سزا حیات قبر کی دلیل ہے کیونکہ اگر حیات نہیں ہے تو سزا کیسے۔ واضح رہے کہ جس کو موت دی جارہی ہے سزا بھی اسی کو دی جاتی ہے نہ کہ کسی دوسرے جسد کو۔

مثال سوئم:...... اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو آیات نازل فرما کر حیات شہدأ کرام بیان فرمائی ہے اور وہ آیات یہ ہیں۔

آیت نمبر۱:

﴿ولاتقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ امواتٌ. بل احیاء ولکن لاتشعرون﴾. (سورۃ بقرہ آیت ۱۵۴)

ترجمہ: اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کئے جاتے ہیں ان کی نسبت یوں بھی مت کہو کہ وہ مردے ہیں بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں لیکن تم حواس سے ادراک نہیں کر سکتے۔

آیت نمبر۲:

﴿ولاتحسن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا. بل احیاء ولکن لاتشعرون﴾. (سورۃ آل عمران، آیت: ۱۶۹)

ترجمہ: اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کئے گئے ان کو مردہ مت خیال کر بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں اپنے پروردگار کے مقرب ہیں ان کو رزق ملتا ہے۔

قارئین کرام! مذکورہ بالا دونوں آیات شہداء کرام کی حیات جسمانی پر نص قطعی کی حیثیت رکھتی ہیں کیونکہ ان آیات میں فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل ہوئے وہ زندہ ہیں ان کو مردہ مت کہو یعنی مقتول فی سبیل اللہ زندہ ہیں اور ظاہر ہے کہ مقتول جسد عنصری ہے کیونکہ قتل والا فعل اسی جسد عنصری پر وارد ہوا تو آیات سے معلوم ہوا کہ شہداء کرام کا جسد عنصری جو مقتول ہے زندہ ہے البتہ حدیث صحیح کی رو سے ان کی ارواح بھی بایں طور زندہ ہیں کہ ارواح کا عالم برزخ میں ایک خاص قسم کا تعلق ہے جس کی کیفیت صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو آیات بیان کرتی ہیں کہ شہداء کرام کے جسد عنصری اپنی قبور میں زندہ ہیں لیکن کیپٹن مسعود ان آیات کے صحیح مطلب کا انکار کرتے ہوئے لکھتا ہے۔

> ''اس طرح سے صاف بتلا دیا گیا کہ شہداء عند ربھم۔ (اپنے رب کے) پاس ہیں اور وہاں رزق پا رہے ہیں۔ ان قبروں کے اندر زندہ نہیں۔'' (رسالہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور شہداء اللہ کے پاس جنت میں زندہ ہیں۔ قبروں میں نہیں) ص:۲

دیکھئے اللہ تعالیٰ کے قرآن نے فرمایا کہ شہداء کرام کے اجسام عنصریہ جو کہ مقتول اور قبروں میں مدفون ہے، زندہ ہیں اور کیپٹن صاحب صاف لفظوں میں انکار کر رہے ہیں کہ قبروں میں زندہ نہیں۔

کیپٹن صاحب کے شُبہ کا جواب

کیپٹن صاحب کو ''عند ربھم'' سے شبہ لاحق ہوا کہ اللہ کے پاس زندہ

ہیں۔ قبروں میں نہیں حالانکہ ان کا شبہ بالکل غلط ہے۔

اولاً: عند ربھم کا تعلق برزقون سے ہے یعنی شہداء کرام زندہ ہیں ان کو اپنے رب کی طرف سے رزق ملتا ہے۔

ثانیاً۔ کیپٹن کو وسوسہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کسی خاص مکان میں رہتا ہے اور شہداء کرام کے ارواح اس مکان کے قریب رہتے ہیں اور شہداء کرام کے اجسام عنصریہ جو کہ قبروں میں مدفون ہیں اس مکان سے دور ہیں حالانکہ یہ اس کی حماقت ہے اللہ تعالیٰ کسی مخصوص مکان میں نہیں رہتے ہیں وہ تو لا مکان ہیں اور ہر جگہ حاضر و ناظر اور موجود ہیں وہ تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہیں۔ ارواح اور اجسام سب کے قریب ہے اور شہداء کرام کی قبریں ان سے دور نہیں ہیں۔ کیپٹن صاحب کا قبروں کو رب سے دور سمجھنا نری حماقت ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ قبریں بھی رب کے پاس ہیں ارواح بھی رب کے پاس ہیں اور تعلق کی وجہ سے دونوں حیاتیں قبر سے فائز ہیں۔

ثالثاً: اگر کیپٹن صاحب کا وسوسہ درست مان لیا کہ شہداء کرام اپنے رب کے پاس زندہ ہیں قبروں میں نہیں تو ان الدین عنداللہ الاسلام کا کیا مطلب ہوگا؟ کہ دین اسلام اللہ تعالیٰ کے پاس ہے ہمارے پاس نہیں ہے؟

اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں "وَكَانَ عِنْدَاللّٰهِ وَجِيْهًا" یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نزدیک معزز، عزت والے تھے تو کیا اس آیت کا یہ مطلب ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت والے تھے اور ہمارے پاس عزت والے نہیں تھے (معاذ اللہ) نہیں نہیں ہرگز نہیں آیت کا یہ مطلب نہیں ہے بلکہ ایسا مطلب بیان کرنا تو قرآن مجید کی تحریف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی عزت والے ہیں اور ہمارے ہاں بھی عزت والے ہیں اسی طرح شہداء کرام اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی زندہ ہیں اور ہمارے ہاں بھی زندہ ہیں۔ معلوم ہوا کہ کیپٹن صاحب نے حیات شہداء کی آیات کا غلط مطلب اور غلط معنی کیا ہے۔

مثال چھارم: قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿والذین یدعون من دون اللہ لایخلقون شیئاً وھم یخلقون. اموات غیر احیاء ومایشعرون ایان یبعثون﴾

(سورۃ نحل آیت : ۲۱)

ترجمہ: اور جن کی یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود ہی مخلوق ہیں۔ مُردے ہیں زندہ نہیں اور ان کو خبر نہیں کہ مُردے کب اٹھائے جائیں گے۔

قارئین کرام! اس آیت کا صحیح مطلب یہ ہے کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کے سوا جن چیزوں کی پرستش کرتے ہیں وہ خالق نہیں بلکہ مخلوق ہیں اور وہ سب موت کا محل وقوع ہیں ہمیشہ زندہ رہنے والے نہیں ہیں اور انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تو اموات غیر احیاء کا مطلب یہ ہے کہ ان پر موت نے آنا ہے کیونکہ وہ موت کا محل ہیں ان پر موت آ چکی ہے یا پھر ضرور آئے گی وہ اللہ تعالیٰ کی طرح ہمیشہ زندہ رہنے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے بہر حال مرنا ہے۔ یہ تو مذکورہ بالا آیات کا صحیح مطلب ہے لیکن کیپٹن صاحب نے۔ اموات غیر احیاء، کا ترجمہ ایک جگہ یہ کیا ہے "موت کے بعد وہ بالکل مردہ ہیں ان میں جان کی رمق باقی نہیں ہے۔ (وفات ختم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ ۲)

اور دوسری جگہ اس کا معنی یہ کیا کہ "مردہ ہیں نہ کہ زندہ" یہ مزار یہ میلے ص: ۳۰ ۔ یہ دونوں ترجمے اور دونوں مطلب صحیح نہیں ہیں۔ یہ اس کی اپنی اختراع ہے اور پہلا

ترجمہ تو بہت زیادہ غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان آیات سے موت کے بعد کی زندگی کی نفی نہیں ہوتی بلکہ خود یہ آیت موت کے بعد ایک خاص قسم کی زندگی کی دلیل ہے کیونکہ آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو یہ شعور نہیں کہ وہ قبروں سے کب اٹھائیں جائیں گے۔ یعنی ان کو قبروں سے اپنے اٹھنے کا شعور نہیں۔ جزا وسزا کا شعور ہے اور یہ شعور حیات کو مستلزم ہے۔ دیکھئے کیپٹن صاحب جس آیت سے حیات قبر کی نفی کرنا چاہتا ہے وہی آیت حیات قبر کی دلیل ہے۔ اور کیپٹن صاحب کا یہ مطلب قرآن مجید کی پچاس سے زائد آیات کے بھی مخالف ہے جن سے قبر کی ایک خاص قسم کی زندگی ثابت ہوتی ہے۔

کیپٹن صاحب نے مرزا غلام احمد قادیانی کی تائید کی

کیپٹن صاحب نے آیت مذکورہ کا غلط ترجمہ کر کے مرزا غلام احمد قادیانی کی تائید کی ہے کیونکہ مرزا کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں اور دلیل میں یہ آیت پیش کرتا ہے کہ آیت مذکورہ میں من دون اللہ عام ہے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی داخل ہیں اور عیسائی ان کو معبود سمجھ کر ان کو پکارتے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کے سوا جن کو پکارتے ہیں وہ سب مردہ ہیں لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام بھی مردہ ہیں یہ مرزا اور مرزائیوں کی پوری پوری تائید وتصدیق ہے جس کا کیپٹن صاحب ارتکاب کر رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ کیپٹن صاحب نے آیت کا غلط معنی ومطلب کیا ہے۔

کیپٹن صاحب کا معنی خود کیپٹن صاحب کے معنی کے مخالف ہے

آیت مذکورہ میں اموات کا لفظ آیا ہے جو میت کی جمع ہے کیپٹن صاحب نے

اپنے رسالہ وفات ختم الرسل میں اور رسالہ یہ مزار یہ میلے میں اس کا معنی کیا ہے کہ مردہ ہیں جبکہ اپنے رسالہ وفات ختم الرسل کے سرورق پر قرآن مجید کی آیت۔ انک میت وانہم میتون" کا یہ معنی کیا" اے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) بے شک آپ کو بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی موت آنی ہے دیکھئے ایک ہی لفظ ہے صرف واحد اور جمع کا فرق ہے۔ یعنی میت واحد ہے اور اموات اس کی جمع ہے۔ کیپٹن صاحب کہیں اس کا معنی کرتے ہیں۔ مردہ ہیں اور کہیں اس کا معنی کرتے ہیں کہ مرنا ہے یعنی آپ پر موت نے آنا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ میت اور اموات کا معنی ہے موت کا محل وقوع جو مر چکا ہے اس پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے اور جو ابھی نہیں مرا لیکن اس نے مرنا ہے تو اس پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب لینا کہ جو مر گیا اس کو قبر کی خاص زندگی نصیب نہیں ہوتی نہ قبر میں حساب ہے نہ جزا وسزا تو یہ غلط مطلب ہے اور قرآن مجید کی دوسری آیات کے اور خود اس آیت کے بھی خلاف ہے۔ معلوم ہوا کہ کیپٹن صاحب آیات کا غلط مطلب ومعنی کرتا ہے۔

مثال پنجم: اللہ تعالیٰ نے فرعون کے متعلق ارشاد فرمایا کہ:

﴿فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیۃ﴾ (سورۃ یونس آیت ، ۹۲)

ترجمہ: ''سو آج ہم تیری لاش کو نجات دیں گے تا کہ تو ان کیلئے موجب عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں۔''

اس آیت کا مطلب حضرات مفسرین کرام نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو کہا۔ میں تیرے جسد کو پانی کی تہہ میں جانے سے بچا لوں گا تا کہ تو لوگوں

کے لئے نشان عبرت بنا رہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا نے لاش کو تہ میں لے جانے کی بجائے کنارے پر پھینک دیا۔

لیکن کیپٹن صاحب نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو عذاب قبر وغیرہ سے نجات دی حالانکہ اس نے آیت کا غلط مطلب سمجھا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے فرعون اور آل فرعون کو عذاب ہو رہا ہے ان کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے جیسا کہ خود قرآن مجید میں ہے۔ اَلنَّارُ یُعرضون علیھا غدوًّا و عشیاً۔ البتہ عذاب قبر غیب کی چیز ہے ہم اپنی آنکھوں سے قبر کی کارروائی کو نہیں دیکھ سکتے چاہے مردہ لاش ہمارے سامنے کیوں نہ ہو۔ قبر کی کارروائی پر ہمارا ایمان بالغیب ہے، فرعون کی لاش عذاب کو محسوس کر رہی ہے اگر چہ ہم نہیں دیکھ سکتے۔

کیپٹن صاحب نے جب آیت کا غلط مطلب بیان کیا کہ لاش کو عذاب نہیں ہو رہا اس کو تو نجات مل گئی ہے اور ادھر قرآن کہتا ہے کہ آل فرعون آگ پر پیش کئے جاتے ہیں تو عقیدہ گھڑ لیا کہ فرعون اور آل فرعون کو جسد عنصری کے علاوہ دوسرا جسد مل گیا اب آگ پر وہ پیش کیا جا رہا ہے چنانچہ لکھتا ہے۔ ''قرآن کے بیان سے معلوم ہوا کہ فرعون کی لاش اس دنیا میں عبرت کے لئے محفوظ اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں بھی اسی دنیا میں ہیں لیکن ان کو صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ ثابت ہوا کہ ان کو کوئی دوسرا قیامت تک باقی رہنے والا اور عذاب برداشت کرنے والا جسم دیا گیا ہے۔ (جسد عنصری بہر حال وہ نہیں، عذاب برزخ صفحہ ۳)

کیپٹن صاحب کا عقیدہ قرآن مجید سے ثابت نہیں

کیپٹن صاحب نے اپنے اس رسالہ میں اور اس کے علاوہ دوسرے رسالوں میں اپنا یہ عقیدہ لکھا ہے کہ مرنے والوں کو عذاب قبر جسد عنصری کے ساتھ

نہیں ہوتا بلکہ اس کی روح کو ایک دوسرا جسد ملتا ہے جس کا نام اس نے جسد برزخی رکھا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اس دوسرے جسد برزخی کا قرآن مجید کی کس آیت سے ثبوت ہے؟ یقین جانیئے قرآن مجید کی کوئی ایک آیت ایسی نہیں جس سے معلوم ہوتا ہو کہ مرنے کے بعد ارواح کو دوسرے برزخی جسم ملتے ہیں اور نہ ہی کیپٹن صاحب نے اپنے عقیدے کے اثبات میں کوئی آیت پیش کی اور نہ ہی کر سکتے ہیں۔ ہاں یونہی زمین و آسمان کے قلابے ملا کر اپنے عقیدے کو ثابت شدہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ فرعون کی لاش کو ہوتا ہوا عذاب نظر نہیں آتا لہٰذا عذاب کسی اور جسد کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ ہے کیپٹن صاحب کا عقلی ڈھکوسلہ جس کو قرآن بنا کر پیش کیا۔

برزخی روح:

کیپٹن صاحب نے جسد عنصری یعنی دنیا والے جسد کا انکار کر کے جزا و سزا کیلئے دوسرا جسد برزخی تجویز کیا ہے لیکن اگر کوئی شخص کہے کہ عالم برزخ میں جس طرح دوسرا جسد برزخی ہوتا ہے اسی طرح وہاں روح بھی برزخی ہوتا ہے لہٰذا وہاں نہ دنیا والا جسد ہوتا ہے نہ دنیا والی روح ہوتی ہے تو کیپٹن صاحب اس برزخی روح کو کس طرح رد کریں گے؟ بہر حال جس طرح بھی کیپٹن صاحب روح برزخی کو رد کریں گے اسی طریقہ سے اس کے جسد برزخی کو مردود کیا جائے گا۔

آل فرعون کون تھے؟ جسد عنصری یا جسد برزخی

کیپٹن صاحب نے جو یہ عقیدہ گھڑا ہوا ہے کہ عالم برزخ میں روح کے لئے جسد برزخی تیار کیا جاتا ہے تو سوال یہ ہے کہ قرآن مجید تو بتاتا ہے کہ آل فرعون کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ کیا جسد برزخی پر آل فرعون کا اطلاق درست

مجید کی تصریحات کے خلاف ہے یہی تو وجہ ہے کہ کیپٹن صاحب کا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن روح انسانی جسد عنصری کی طرف لوٹائی جائے گی اور پھر ایمان و عمل کے مطابق آدمی کو جسد عنصری کے ساتھ دوزخ یا بہشت میں ڈالا جائے گا۔ اگر یہ جسد عنصری محض ہتھیار ہے اور شریک کار نہیں تو اس کو بروز قیامت قبروں سے اٹھا کر دوزخ یا بہشت میں بھیجنے کا کوئی فائدہ نہیں تو اس کو اٹھا کر دوزخ یا بہشت میں بھیجنا دلیل ہے اس بات کی کہ یہ جسد عنصری نیکی اور بدی میں روح کا شریک کار ہے اسی لئے تو اس کو آخرت کی جزاوسزا میں شامل کیا گیا ہے لہٰذا قبر و برزخ کی جزاوسزا میں بھی شامل ہے۔

کیپٹن صاحب کی ایک حماقت

کیپٹن صاحب قبر اور اس میں مدفون جسد عنصری کو دنیا کی چیز سمجھتا ہے حالانکہ یہ اس کی حماقت ہے کیونکہ قبر اور مردہ دونوں عالم برزخ کی چیزیں ہیں اگرچہ دنیا والوں کو نظر بھی آرہی ہیں کیونکہ برزخ ایک مقام اور جگہ کا نام نہیں ہے اور برزخ وقت اور زمانے کو کہتے ہیں جو کہ موت سے لے کر قیامت تک کو شامل ہے اور آدمی مرنے کے بعد روح مع الجسد عالم برزخ میں داخل ہو جاتا ہے۔ خواہ چارپائی پر ہمارے سامنے کیوں نہ پڑا رہے دیکھئے جب آدمی سو جاتا ہے تو وہ نیند کی حالت میں عالم خواب میں چلا جاتا ہے حالانکہ وہ ہمارے سامنے چارپائی پر پڑا ہوتا ہے لیکن وہ عالم خواب میں سمجھا جاتا ہے اسی طرح اگرچہ مردہ اور اس کی قبر ہمیں نظر آتے ہیں لیکن ہیں عالم برزخ ہیں لہٰذا کیپٹن صاحب کا یہ کہنا ہے کہ فرعون کی لاش عالم دنیا میں ہے بہت بڑی حماقت ہے۔ فرعون ہمیں نظر آنے کے باوجود عالم بروزخ میں ہے اور قبر و برزخ کی جزاوسزا اس کو مل رہی ہے البتہ غیب کی چیز ہے ہمیں نظر نہیں آتی۔ لیکن اس

ہے؟ حالانکہ جسد برزخی تو دنیا میں آیا نہیں لہٰذا آل فرعون دنیا والے جسد ہیں اور انہیں آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ کہنا کہ آل فرعون کو نہیں بلکہ دوسرے برزخی جسموں کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے درحقیقت قرآن پاک کی تکذیب ہے۔

مجرم کون؟ جسد عنصری یا جسد برزخی

کیپٹن صاحب فرعون اور آل فرعون کے دنیاوی جسد کو برزخ کی جزاوسزا میں شریک نہیں سمجھتا لیکن سوال یہ ہے کہ فرعون اور آل فرعون نے جو اپنے رب کی بغاوت کی تو اس بغاوت میں دنیاوی جسد شریک تھا یا برزخی؟ اگر بغاوت میں دنیاوی جسد تھا تو سزا میں بھی اسی کو شریک ہونا چاہئے اور اگر بغاوت میں برزخی جسد شریک تھا تو سزا میں بھی اسی کو شریک ہونا چاہئے۔ ظاہر ہے کہ برزخی جسد تو دنیا میں آیا نہیں لہٰذا بغاوت بھی دنیاوی جسد نے کی ہے سزا بھی اسی کو ملنی چاہئے۔ اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ بغاوت تو دنیاوی جسد نے کی اور سزا برزخی جسد کو ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف ظلم کی نسبت لازم آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ظلم سے پاک ہے لہٰذا جو کرے وہی بھرے۔ اور یہ ناانصافی ہوگی کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی۔

جسد عنصری صرف آلہ نہیں بلکہ شریک کار ہے

جسد عنصری انسان کا ایک حصہ ہے قرآن مجید میں جا بجا جسد عنصری کو انسان کہا گیا ہے۔ مثلاً "بدء خلق الانسان من طین" اور "لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم وغیرہ وغیرہ" اور انسان ہی اللہ کا مخاطب اور احکام شریعت کا مکلف ہے اور پورا انسان ہی برزخ وقبر اور آخرت میں جزاوسزا کا حق دار ہے لہٰذا جسد کو صرف آلہ سمجھنا اور نیکی و بدی میں شریک کار نہ سمجھنا قرآن

پر ہمارا ایمان بالغیب ہے ملائکہ، جنات، کراماً کاتبین اور ابلیس وغیرہ موجود ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے اسی طرح فرعون کی مردہ لاش کو آگ پر پیش کیا جارہا ہے جیسا کہ قرآن نے فرمادیا۔ البتہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ کیپٹن صاحب کا یہ کہنا کہ فرعون اور آل فرعون کو آگ پر پیش نہیں کیا جارہا در حقیقت قرآن کا انکار ہے تو معلوم ہوا کہ کیپٹن صاحب نے "نجیک ببدنک" کا مطلب غلط بیان کیا ہے کہ فرعون اور اس کی آل کو عذاب سے نجات مل گئی نہیں نہیں ہرگز نہیں اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو دریا کی تہہ میں جانے اور ریزہ ریزہ ہوجانے سے عبرت کے لئے بچالیا ہے باقی رہا عذاب تو وہ اس کو ہورہا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن نے فرمایا ہے کہ ان کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔

قارئین کرام! میں کہاں تک اس کی مثالیں پیش کروں کہ کیپٹن صاحب نے کس کس آیت کا معنی و مطلب بدلا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس ظالم نے پورے قرآن اور تمام ذخیرہ احادیث کو اپنی جہالت اور حماقت کا تختہ مشق بنایا ہے اور کتاب و سنت کی اصل شکل وصورت کو مسخ کرنے کی سعی مذموم کی ہے۔ ہمیشہ سے زندیق آدمی کا یہ وطیرہ چلا آرہا ہے کہ وہ اپنی خواہش نفس سے نظریات کو گھڑ کر قرآن و حدیث کو ان کے مطابق بنانے اور ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے اور یہی کچھ کیپٹن مسعود الدین عثمانی نے کیا ہے ۔

خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدلتے ہیں

(۳) کیپٹن صاحب قرآن مجید کی تحریف کرتا ہے

کیپٹن صاحب نے بہت سی آیات قرآنیہ کی تحریف کی یعنی ان کو اپنے موقع ومحل سے ہٹا کر دوسری جگہوں پر چسپاں کیا ہے مثلاً درج ذیل آیت درحقیقت

یہود کے علماء و مشائخ کے حق میں نازل ہوئی ہے جو لوگوں سے رشوتیں لے کر غلط فتوے دیتے تھے لیکن کیپٹن صاحب نے اس آیت کو ان علماء اسلام پر چسپاں کیا جو بوجہ تنگدستی و مفلسی کے تنخواہ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔

﴿یاایھاالذین آمنوا ان کثیرًا من الاحبار والرھبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ﴾. (سورۃ التوبہ، آیت ۳۴)

ترجمہ: "اے ایمان والو! اکثر احبار اور رہبان لوگوں کے مال نامشروع طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے باز رکھتے ہیں۔"

اس آیت کی تفسیر میں حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی لکھتے ہیں:

"یعنی احکام حقہ کو پوشیدہ رکھ کر موافق مرضی عوام کے فتوے دے کر ان سے نذرانے لیتے ہیں" (بیان القرآن ص:۳۹۲ مطبوعہ تاج کمپنی)

معلوم ہوا کہ آیت مذکورہ بالا یہود کے ان علماء و مشائخ کے حق میں نازل ہوئی جو حق چھپا کر غلط فتوے دے کر لوگوں سے رشوت لیتے تھے اور ایسے ہی لوگ اس آیت کا مصداق ہیں لیکن کیپٹن صاحب نے اس کی تحریف کر کے اس کو تنخواہ وصول کرنے والے علماء و مشائخ پر فٹ کردیا۔ حالانکہ دینی کاموں پر تنخواہ لینے والے حضرات قطعاً اس کا مصداق نہیں ہیں۔

(۴) کیپٹن صاب اللہ تعالیٰ پر افترا کرتا ہے

(۱) کیپٹن صاب کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علماء مدرسین اور آئمہ مساجد کی

تنخواہ کو حرام کہا ہے حالانکہ اللہ نے قرآن مجید میں ایسی کوئی بات نہیں فرمائی لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ پر بہتان اور افتراٗ ہے۔ (۲) کیپٹن صاحب کہتا ہے کہ انبیاء و اولیاء کے توسل کو اللہ تعالیٰ نے شرک کہا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صالحین کے صحیح توسُّل کو شرک نہیں کہا۔ کیپٹن صاحب نے اللہ تعالیٰ پر افتراٗ کیا ہے۔ (۳) کیپٹن صاحب نے لکھا ہے کہ قبر میں میت کی طرف بوقت امتحان سوال و جواب اعادہ روح قرآن مجید کے خلاف ہے حالانکہ قرآن مجید میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے جس سے ہر قسم کے اعادہ روح کی نفی ہوتی ہو۔ لہٰذا یہ کیپٹن صاحب کا اللہ تعالیٰ پر افتراٗ ہے۔ ہاں قرآن مجید میں یہ ہے کہ مردے قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے جس کو والبعث بعد الموت کہتے ہیں یعنی قیامت کے دن مردے اٹھ کر اپنی پہلی حالت پر آ جائیں گے اور ان کو ایسی زندگی ملے گی جو ہر شخص کے شعور میں آ سکتی ہے لیکن قبر میں اعادہ روح اور زندگی ایسی نہیں ہے جسے والبعث بعدالموت کہا جائے بلکہ قبر میں اعادہ ایسا ہے کہ آدمی قبر سے اٹھ کر دنیا میں واپس نہیں آتا بلکہ وہ اعادہ کے باوجود قبر ہی میں رہتا ہے اور اس اعادہ کی کنہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اور یہ اعادہ میت سے امتحان لینے کے لئے ہوتا ہے۔ اور ایسے اعادہ کی نفی نہیں کی گئی بلکہ اس کا تو قرآن وحدیث سے ثبوت ملتا ہے۔ (۴) کیپٹن صاحب قرآن کے نام پر کہتا ہے کہ قبر میں مردے کے ساتھ روح کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اور نہ ہی مردہ میں کسی قسم کی حیات ہوتی ہے اور نہ ہی مردہ دکھ سکھ کو محسوس کرتا ہے حالانکہ قرآن مجید کی پچاس سے زائد آیات اور احادیث متواترہ سے قبر کی زندگی اور قبر کی جزا وسزا کا ثبوت ملتا ہے اور یہ بات بھی قرآن و حدیث کی تصریحات سے ثابت ہے کہ قبر کی یہ جزاُ وسزا روح اور جسد عنصری دونوں کو ملتی ہے لہٰذا کیپٹن صاحب کا یہ کہنا ہے قبر میں کسی قسم کی زندگی اور حیات نہیں ہے اللہ

تعالیٰ پر افتراٗ اور بہتان ہے۔ (۵) کیپٹن صاحب کہتا ہے کہ قرآن سے ثابت ہے کہ اموات کو زندوں کا بھیجا ہوا ثواب نہیں پہنچتا ہے لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ پر افتراٗ ہے قرآن مجید کی کسی آیت سے ایصال ثواب کی نفی نہیں ہوتی بلکہ ثبوت ملتا ہے۔ (۶) کیپٹن صاحب اللہ تعالیٰ پر افتراٗ کرتے ہیں کہ عالم قبر و برزخ میں جزاوسزا کے لئے اللہ تعالیٰ روح کے لئے ایک اور جسد تیار کرتے ہیں حالانکہ قرآن مجید میں یہ بات کہیں نہیں لکھی بلکہ قرآن وحدیث کے ذخیرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم قبر و برزخ کی جزاوسزا میں بھی دنیا والا جسد عنصری شریک رہتا ہے خواہ جسد مستحیل اور تبدیل بھی ہو جائے۔

(۵) کیپٹن عثمانی احادیث صحیحہ کا انکار کرتا ہے

عذاب قبر کی سینکڑوں احادیث متواترہ میں جن سے اعادہ روح، تعلق روح اور جزاوسزا میں جسد عنصری کی روح کے ساتھ شرکت ثابت ہے لیکن کیپٹن صاحب عذاب قبر کی ان سب احادیث کا انکار کرتا ہے بلکہ قبر کے مفہوم شرعی میں تحریف کر کے روح کے مقام کو قبر کہتا ہے جبکہ روح کے مقام کو نہ قرآن میں قبر کہا گیا ہے نہ حدیث میں۔ خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت با سعادت امت کے لئے احادیث صحیحہ سے ثابت ہے لیکن کیپٹن عثمانی ان احادیث صحیحہ کا انکار کرتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار اقدس کی زیارت بہت سی حدیثوں سے ثابت ہے اور **تلقی بالقبول** کی وجہ سے وہ حدیثیں صحیح اور حسن کا درجہ حاصل کر چکی ہیں لیکن کیپٹن عثمانی انکا انکار کرتا ہے۔ حیات الانبیاء علیہم السلام کی حیات قبر اور ان حضرات کا زائرین کے صلوٰۃ وسلام کو سننا صحیح حدیثوں سے ثابت ہیں لیکن کیپٹن عثمانی ان کا انکار کرتے ہیں توسل بالانبیاء والصالحین صحیح حدیثوں سے ثابت ہے لیکن کیپٹن صاحب

انکار کرتا ہے دین کا کام کرنے والے حضرات کی خدمت کرنا صحیح حدیثوں بلکہ آیات قرآنیہ سے ثابت ہے لیکن کیپٹن صاحب ان کا انکار کرتا ہے۔

سماع موتی کی حدیثیں۔ بخاری، مسلم اور صحاح ستہ وغیرہ کتب میں موجود ہیں لیکن کیپٹن عثمانی ان صحیح حدیثوں کا انکار کرتا ہے بلکہ سماع موتی کو شرک کہتا ہے۔

(۶) کیپٹن عثمانی فروعی مسائل میں تشدد کرتا ہے

مسئلہ سماع موتی اور مسئلہ توسّل وغیرہ ایسے مسائل ہیں جو علماء اسلام میں مختلف فیہ چلے آ رہے ہیں لیکن ان مسائل میں کسی جانب سے فتویٰ بازی نہیں ہوئی لیکن کیپٹن صاحب کے مزاج میں تشدد اور غلو کا مادہ پایا جاتا ہے اس لئے وہ ان مسائل کی وجہ سے مسلمانوں پر شرک وکفر کے فتوے صادر کرتا ہے۔

◆

(۷) کیپٹن عثمانی اللہ تعالیٰ کی توحید میں غلو کرتا ہے

ہمارے اکابر علماء دیوبند اہلسنت والجماعت اللہ تعالیٰ کی توحید پر پختہ ایمان ویقین رکھتے ہیں۔ شرکیات اور بدعات سے کوسوں دور ونفور ہیں۔ اپنی تحریروں اور تقریروں میں وہ حضرات کھل کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرتے رہتے ہیں بلکہ توحید خداوندی کا حق ادا کرتے ہیں یوں سمجھئے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید ان کے رگ وریشہ میں رچی بسی ہوئی ہے۔ عقیدہ توحید کو ہمارے اکابر بڑے پیارے انداز میں عوام الناس کو ذہن نشین کراتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ شرک وبدعات کو جڑ سے اکھیڑنے والے علماء دیوبند ہیں۔ جب ہمارے اکابر عقیدہ توحید پر تقریر یا تحریر کرتے ہیں تو ان پر اور سننے، پڑھنے والوں پر ایک وجدانی کیفیت طاری ہوتی ہے جس سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید کے پروانے اور دیوانے ہیں لیکن ہمارے بزرگوں کے مزاج میں اعتدال ہی اعتدال ہے وہ توحید سمیت تمام عقائد واعمال میں افراط وتفریط کی بجائے اعتدال کی راہ چلتے ہیں اور کیپٹن عثمانی کی طبیعت میں تشدد اور غلو کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ وہ ہر مسئلہ میں افراط وتفریط کا شکار ہے۔ خصوصاً مسئلہ توحید میں تو وہ بہت غلو کرتے ہیں اور حد سے بڑھ جاتے ہیں معمولی سی بات کو وہ شرک کہنے لگتے ہیں اور فتوے صادر کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات قبر کو اور عند القبر الشریف سماع صلوٰۃ وسلام کو بھی شرک کہتے ہیں حالانکہ ان مسائل پر اجماع امت ہو چکا ہے۔ آج تک کسی فرد بشر نے ان کا انکار نہیں کیا کیونکہ یہ مسائل تو کتاب وسنت سے ثابت شدہ ہیں لیکن کیپٹن صاحب کو حیات النبی وسماع النبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک نظر آتا ہے حالانکہ یہ توحید کا

تقاضا نہیں بلکہ توحید میں غلو ہے۔

کیپٹن عثمانی کے پاس نہ قران ہے نہ حدیث بلکہ تاویلیں ہیں

کیپٹن صاحب زبانی طور پر دعویٰ تو کرتا ہے کہ میں قرآن وحدیث پر چلتا ہوں حالانکہ یہ بیچارہ تو قرآن وحدیث سے واقف بھی نہیں ہے بلکہ اپنے دماغ اور اپنی خواہش سے عقائد تراش کر ان کو قران وحدیث کا لیبل لگا دیتا ہے۔ قرآن وحدیث میں تحریف کرتا ہے اور ان کے من مانے مطلب بیان کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے اور تاویلات فاسدہ سے اپنی خودساختہ گاڑی کو چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے اس دعویٰ کی تصدیق کے لئے کیپٹن صاحب کے ایک رسالہ، عذاب برزخ کی فہرست مضامین دیکھ لیجئے لکھتا ہے ''بخاری کی صحیح حدیث قرع نعال کی صحیح تاویل ''قليب بدر ''اور'' كلام الميت على الجنازة'' کی صحیح تاویل'' دو قبروں پر شاخیں لگانے کا واقعہ اور اس کی صحیح تاویل دیکھئے کیپٹن صاحب قرآن وحدیث کو ماننے کی بجائے ان کی تاویلیں کر رہے ہیں اور تاویلیں بھی غلط جن کو تاویل کی بجائے تحریف کہنا زیادہ موزوں ہے اور تحریف احادیث کی چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں۔

(۸) کیپٹن صاحب حدیثوں کی تحریف کرتا ہے اس کی چند مثالیں

جس طرح یہ زندیق آدمی آیات قرآنیہ کے معانی ومطالب کا غلط معنیٰ و مطلب بیان کر کے اپنے باطل نظریات کو ثابت کرتا ہے اسی طرح احادیث صحیحہ کو بھی یہ ملحد اپنے الحاد کا نشانہ بنا کر ان کی حقیقی شکل وصورت کو مسخ کرنے کی سعی ناتمام کرتا ہے۔ چند مثالیں ملاحظہ فرمائیے۔

مثال اول: بخاری شریف کی ایک حدیث جس میں صاف لفظوں میں بتایا گیا ہے کہ ان قبروں میں مدفون مردوں کو عذاب دیا جاتا ہے اور یہ عذاب قبر دلیل ہے اس بات کی کہ قبر میں مدفون مردہ کو ایک خاص قسم کی حیات نصیب ہوتی ہے جو ہمارے شعور سے بالاتر ہے بہرحال قران وحدیث کی تصریحات پر ایمان رکھتے ہوئے ہمارا اس خاص قسم کی حیات پر ایمان ہے اور مردہ انسان اس خاص قسم کی حیات کی وجہ سے دکھ سکھ اور رنج وراحت کو محسوس کرتا ہے اور واضح رہے کہ اس خاص قسم کی حیات کی وجہ سے عالم دنیا میں واپس نہیں آجاتا بلکہ وہاں اسی عالم قبر وبرزخ میں رہتے ہیں۔ جزا و سزا کو محسوس کرتا ہے۔ اگرچہ مردہ جس حال میں بھی ہو۔ خواہ راکھ ہو جائے یا خاک، بہرحال روح کا اس کے اجزاء وذرات سے تعلق رہتا ہے اور اس تعلق میں جسد کا اپنی اصلی حالت پر صحیح سالم رہنا بھی ضروری نہیں مردہ جس حالت میں بھی مستحیل ہو جائے وہ عذاب وراحت کا ادراک کرتا ہے چونکہ قبر میں مدفون مردہ کو دنیا میں موت آچکی ہے اس سے اہل دنیا اس کو مردہ ہی کہیں گے اور اس پر مردہ کا اطلاق ہوتا رہے گا اسی لئے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن مردے زندہ کر کے اٹھائے گا۔ لیکن وہ ایک خاص قسم کی زندگی ہے مکمل دنیا والی حیات نہیں ہے۔ لہٰذا قبر کی حیات کے ہوتے ہوئے ان پر باعتبار دنیا کے مردہ کا اطلاق درست ہے کیونکہ قبر وبرزخ کی حیات اور ہے اور دنیا کی حیات اور ہے لیکن ان حقائق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کیپٹن صاحب قاصر اور معذور ہے اسی لئے وہ قبر کی زندگی کو دنیا کی زندگی پر قیاس کر لیتا ہے اور قبر کی زندگی کو دنیا کی زندگی سمجھ کر قسم وقسم کے شبہات ووساوس میں پھنس جاتا ہے اور پھر آیات و احادیث کا انکار کرنے پر اتر آتا ہے۔

سخن شناس نہی دلبر خطا اینجا است

خیر بندہ تو عرض کر رہا تھا کہ بخاری شریف کی حدیث سے قبر میں مدفون مردہ انسان کا عذاب قبر کو محسوس کرنا ثابت ہے لیکن کیپٹن صاحب اس کے منکر ہیں اس نے اس حدیث کی تاویل میں کیا کیا گل کھلائے ہیں، لیکن پہلے حدیث بخاری مع ترجمہ ملاحظہ فرمایئے پھر کیپٹن صاحب کی ستم ظریفی دیکھئے۔ حدیث بخاری:

> مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قبرین فقال: انھما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر، ثم قال: بلیٰ اما احدھما فکان یسعی بالنمیمة. واما احدھما فکان لا یستنزہ من بولہ، قال: ثم اخذ عوداً رطباً فکسرہ باثنین، ثم غرز کل واحد منھما علی قبر، قال: لعلہ یخفف عنھما ما لم ییسا.

(بخاری ج ۱ ص: ۱۸۳ نسائی ج ۱ ص: ۲۲۵)

ترجمہ: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دو قبروں پر گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ان دونوں قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے اور کسی بڑے گناہ میں عذاب نہیں دیا جا رہا بلکہ ایک چغلخوری کرتا تھا اور دوسرا اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی تازہ ٹہنی کو لے کر اس کے دو حصے کئے اور ہر ایک قبر پر ان کو گاڑھ دیا اور فرمایا شاید جب تک یہ خشک نہیں ہوتیں عذاب میں تخفیف رہے۔

قارئین کرام! آپ اس حدیث میں غور فرمائیں اس کا ایک لفظ اور ایک ایک جملہ بول رہا ہے کہ انہیں زمین والی قبروں میں مدفون مردوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب میں مبتلا دیکھا۔ تخفیف عذاب کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے

دعا بھی فرمائی اور بطور علامت کے ان پر کھجور کی ٹہنی بھی گاڑھی۔

چونکہ یہ صحیح حدیث کیپٹن صاحب کے خودساختہ عقیدے پر ضرب کاری کی حیثیت رکھتی تھی اس لئے اس ظالم نے اس کی غلط تاویل بلکہ تحریف کی سعی ناتمام کی اور حدیث بخاری کی شکل بگاڑنے کی کوشش کی حتی کہ اس حدیث کو شکاری کا تیر کہہ کر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی۔ چنانچہ لکھتا ہے: ''ترکش کا ایک اور تیر چلتا ہے کہ بخاری کی یہ بھی تو حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو مومنوں کی قبروں کے پاس سے گزرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان دو قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے اور بڑی باتوں پر نہیں بلکہ ان باتوں پر جن کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں ایک پیشاب کے چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا اور دوسرا ادھر کی سنی ادھر آ کہتا پھرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی ایک ہری شاخ منگوائی اور دو حصے کر کے ہر ایک قبر پر لگا دیا اور کہا کہ مجھے امید ہے کہ جب تک یہ شاخیں تر رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان پر عذاب میں کمی رکھے گا۔ اس حدیث سے یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ جن قبروں پر ٹہنیاں لگائی گئیں تھیں انہیں قبروں کے اندر دونوں مردوں کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ اللہ کا فیصلہ ہے کہ قیامت سے پہلے مردہ جسم میں روح واپس نہیں آ سکتی اور ظاہر ہے کہ بغیر روح کے عذاب و راحت بے معنی ہیں اس طرح صحیح حدیث کے غلط معنی لے کر قرآن و حدیث کو جھٹلانے کی کوشش کی جاتی ہے اصل بات یہ ہے...... آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل سے اسی بات کو اپنے صحابہ کے ذہنوں میں پوری طرح محفوظ کرنا چاہتے تھے۔ جسے ایک لیکچر دینے والا اپنی زبان سے ایک مسئلہ بیان کرتا ہے اور ساتھ ساتھ تختہ سیاہ پر بھی اسی کو لکھتا جاتا ہے تاکہ کان کا سنا اور آنکھ کا دیکھا دونوں یاد رہیں۔

رہا یہ کہ شاخیں دنیاوی قبروں پر کیوں لگائیں تو ان دنیاوی قبروں پر اس

لئے لگائیں کہ برزخ میں اپنے ساتھیوں کو لے جا کر ان کی اصلی قبروں پر لگانا ممکن نہ تھا صرف یہ بتانا تھا کہ ان قبروں میں جو مردے دفن کئے گئے تھے ان پر برزخ میں یہ حالات گزر رہے ہیں۔ (عذاب برزخ صفحہ: ۱۷۔۱۸)

قارئین کرام! دیکھئے یہ ظالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث میں کس طرح تحریف کر کے اس کی حلیہ کو بگاڑ رہا ہے۔ حدیث میں صاف لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زمین والی قبروں میں مدفون مردوں کو عذاب ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بتایا کہ ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ پھر ان قبروں پر تر ٹہنی گاڑھ کر فرمایا امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف فرمائیں گے لیکن یہ ظالم کہتا ہے کہ ان قبروں میں نہیں بلکہ عذاب کہیں اور جگہ ہو رہا تھا۔ حالانکہ یہ تاویل نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کی تکذیب صریح ہے۔

پھر ظالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لیکچرار کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جیسے کوئی لیکچرار بات سمجھانے کے لئے تختہ سیاہ پر کوئی چیز لکھ دیتا ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر ٹہنی گاڑھ دی وہاں عذاب نہیں ہو رہا تھا۔ حالانکہ یہ بھی صریح جھوٹ ہے۔ اور پیغمبر اسلام کی واضح گستاخی ہے۔

کیپٹن صاحب برزخ کے مفہوم سے نابلد ہیں

کیپٹن صاحب کہتا ہے کہ عذاب قبروں میں نہیں بلکہ برزخ میں ہو رہا تھا۔ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ کیپٹن صاحب برزخ کے اطلاق سے بالکل نابلد ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ برزخ کسی مقام کا نام ہے جو اس قبر کے علاوہ کوئی اور جگہ

ہے حالانکہ یہ ان کی جہالت اور حماقت ہے کیونکہ برزخ وقت اور زمانے کو کہتے ہیں جو کہ موت سے شروع ہوتا ہے اور قیامت تک رہتا ہے اور ہر مرنے والا فوراً عالم برزخ میں چلا جاتا ہے خواہ وہ جہاں بھی ہو۔ اس کو یہ معروف قبر نصیب ہو یا نہ ہو بہر حال وہ جہاں بھی ہے برزخ میں ہے اور برزخ قبر سمیت مردے کے ہر مقام کو شامل ہے اور قبر برزخ کے مفہوم میں داخل ہے۔ ان میں کسی قسم کا تضاد اور تنافی نہیں ہے۔ تو ہر مردہ بیک وقت قبر میں بھی ہے۔ برزخ میں بھی ہے قبر مردہ کیلئے ظرف مکان اور برزخ اس کے لئے ظرف زمان ہے۔ جیسے کوئی شخص رات کے وقت مسجد میں بیٹھا ہو تو کہا جائے گا کہ وہ مسجد میں بھی ہے رات میں بھی ہے۔ کیپٹن صاحب کی بات کو عذاب قبر میں نہیں برزخ میں ہے۔ ایسی ہے جیسے کوئی احمق کہے کہ وہ شخص مسجد میں ہے یا رات میں ہے یہ نہیں ہوسکتا کہ مسجد میں بھی ہو اور رات میں بھی۔ جیسے مسجد اور رات کو ایک دوسرے کی ضد سمجھنا اور ایک سے دوسرے کی نفی کرنا حماقت ہے ایسے ہی قبر اور برزخ کو ایک دوسرے کی ضد سمجھنا اور ایک سے دوسرے کی نفی کرنا پرلے درجے کی حماقت ہے جس میں خیر سے کیپٹن صاحب مبتلا ہے۔

قرآن مجید کی ایک آیت کا صحیح مطلب

سورۃ المومنون آیت ۹۸۔۱۰۰ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

﴿حتی اذاجاء احدھم الموت قال رب ارجعون O
لعلی اعمل صالحا فما ترکت کلا انھا کلمۃھو
قائلھاومن ورائھم برزخ الی یوم یبعثون O﴾

ترجمہ: یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت آتی ہے اس وقت کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھ کو پھر واپس بھیج دیجئے تاکہ

> جس کو میں چھوڑ آیا ہوں اس میں نیک کام کروں۔ ہرگز نہیں یہ ایک بات ہی بات ہے جس کو یہ کہے جا رہا ہے اور ان لوگوں کے آگے ایک آڑ ہے قیامت کے دن تک۔

مذکورہ بالا آیت کا مطلب صاف ہے کہ جب کوئی مجرم موت کے گھاٹ اترنے لگتا ہے اور اس کو احوال آخرت کا معائنہ ہوتا ہے تو گھبرا اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں نیک عمل کرکے آخرت کی سزا سے بچ جاؤں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موت کے گھاٹ اترنے والے کی دنیا میں واپسی ہرگز نہ ہوگا کیونکہ ان کے اور دنیا کی طرف واپسی کے درمیان ایک چیز آڑے آنی والی ہے اور وہ موت ہے۔ لہٰذا یہ قیامت کے دن تک واپس نہیں آسکتے۔

تو معلوم ہوا کہ مرنے والا انسان دنیا میں واپسی کی تمنا کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت تک یہ آدمی دنیا میں دوبارہ واپس نہیں آسکتا۔ کیونکہ درمیان میں آڑ اور پردہ ہے اور وہ موت ہے چنانچہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ اور تفسیر خازن والے نے یہاں برزخ سے موت مراد لی ہے۔ جب برزخ سے مراد موت ہے تو برزخ کے مقام کا کیا مطلب ہے؟ حالانکہ اس آیت کے بل بوتے کیپٹن صاحب نے شور مچا رکھا ہے اور اردو خواندہ حضرات کو دھوکہ دے رکھا ہے کہ اس آیت میں برزخ سے مراد کوئی مکان ہے جس میں صرف ارواح رہتی ہیں اور ان کو وہاں برزخی جسم ملتے ہیں۔

ہاں! علماء اسلام نے اسی مناسبت سے عالم دنیا اور عالم آخرت کے درمیان والے عرصہ اور وقت کو عالم برزخ و قبر کہا ہے کیونکہ یہ وقت بھی دنیا و آخرت کے درمیان ایک قسم کی آڑ اور پردہ ہے تو معلوم ہوا ہے کہ برزخ کسی مقام کا نام نہیں

ہے بلکہ برزخ تو زمانہ اور وقت کو کہتے ہیں۔ برزخ بمعنی مقام نہ تو قرآن میں ہے نہ حدیث میں بلکہ یہ تو صرف اور صرف کیپٹن صاحب کی تحریف ہے۔ اور کیپٹن صاحب کا کہنا ہے کہ عذاب برزخ میں ہوتا ہے قبر میں نہیں ایک احمقانہ بات ہے اور قبر کی زندگی کو برزخی زندگی اس لئے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ برزخ بمعنی پردہ کے ہے اور قبر کی ساری کارروائی چونکہ پردہ میں ہوتی ہے اور چاہے مردہ ہمارے سامنے ہوتا ہے مگر جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ جیسے خواب والے کے ساتھ عالم خواب میں سب کچھ ہوتا ہے مگر ہمیں نظر نہیں آتا ہے تو قبر کی کارروائی کو نظر نہ آنے کی وجہ سے حیات برزخی یا برزخی زندگی بھی کہا جاتا ہے بہرحال مردہ انسان کے لئے قبر ہی برزخ ہے اس کے علاوہ کوئی مقام نہیں جس کو برزخ کہا جائے۔

قانون خداوندی کیا ہے؟ روح جسم میں نہیں آتی یا مردہ دنیا میں واپس نہیں آتا

برزخ کی تشریح میں بات لمبی ہوگئی۔ جو انشاء اللہ فائدہ سے خالی نہیں۔ خیر میں تو عرض کر رہا تھا کہ کیپٹن صاحب نے کھجور کی ٹہنی والی حدیث بخاری کے اصلی مطلب کو مسخ کرنے کی ناپاک جسارت کی ہے اور کہا ہے کہ اس حدیث سے یہ نکالا جاتا ہے کہ انہیں قبروں میں ان دونوں مردوں کو عذاب دیا جاتا رہا تھا۔ اللہ کا فیصلہ ہے کہ قیامت سے پہلے مردہ جسم میں روح واپس نہیں آسکتی اور ظاہر ہے کہ بغیر روح عذاب و راحت بے معنی ہیں۔

قارئین کرام! کیپٹن صاحب کی یہ دونوں باتیں غلط بلکہ جھوٹ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کہیں نہیں فرمایا کہ مردہ جسم میں روح واپس نہیں لوٹتی۔ اللہ تعالیٰ

کا تو فیصلہ یہ ہے کہ مردہ قیامت تک دنیا والی پہلی حالت پر واپس نہیں آ سکتا۔ جیسا کہ مرنے والا آدمی واپسی کی تمنا کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ ایسا ہرگز نہ ہوگا لیکن قبر میں حساب اور جزاوسزا کے لئے جو اعادہ روح ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ مردہ دنیا والی حالت پر واپس آ جائے ایسا تو یقیناً قیامت کے دن ہوگا۔ لیکن قبر میں جو اعادہ روح ہوتا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ مردہ دنیا والوں کی نظر میں مردہ رہتا ہے البتہ اس میں حیات کی خاص قسم پیدا ہوتی ہے جسے اہل دنیا محسوس نہیں کر سکتے۔ اور مردہ انسان اس کی وجہ سے دکھ سکھ اور جزاوسزا کو محسوس کرتا رہتا ہے اور نکیرین کے سوالوں کا جواب بھی دیتا ہے۔ بہرحال مردہ کا دنیا والی حالت پر واپس آ جانا اور بات ہے اور قبر میں رہتے ہوئے حساب وکتاب کے لئے اعادہ روح بالکل اور بات ہے لیکن کیپٹن صاحب اپنی کوتاہ فہمی کی وجہ سے دونوں کو ایک بنا رکھا ہے جس کی وجہ سے خلط ملط کا شکار ہے بہرحال جو اعادہ فیصلہ خداوندی کے خلاف ہے اس کے علماء اسلام قائل نہیں اور جس اعادہ کے قائل ہیں وہ قرآن وحدیث کے خلاف نہیں بلکہ مطابق اور ثابت ہے۔

کیا بغیر روح کے عذاب وراحت بے معنی ہیں؟

کیپٹن صاحب نے کھجور والی صحیح حدیث کے مطلب کو بگاڑتے ہوئے لکھا ہے کہ بغیر روح کے عذاب وراحت بے معنی ہیں "میرے نزدیک خود کیپٹن صاحب کی یہ بات بے معنی ہے کیونکہ قرآن مجید کی تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ بغیر روح کے عذاب، راحت، بولنا، ڈرنا وغیرہ سب ممکن بلکہ واقع ہے مثلاً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿وان منها لما يهبط من خشية الله﴾ یعنی اور انہی پتھروں میں بعضے ایسے ہیں جو خدا تعالیٰ کے خوف سے اوپر سے نیچے لڑھک آتے ہیں۔ ﴿یاجبال اوبی معه﴾ یعنی اے پہاڑو داؤد کے ساتھ بار بار تسبیح کرو۔ ﴿انا عرضنا الامانة على السموات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها﴾۔ یعنی ہم نے یہ امانت آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی تھی۔ سو انہوں نے اس کی ذمہ داری سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے۔ ﴿انطقنا الله الذى انطق كل شیء﴾ یعنی ہم کو اس نے گویائی دی، جس نے ہر چیز کو گویا دی۔ ﴿وان من شیء الا يسبح بحمده﴾۔ یعنی کوئی چیز ایسی نہیں جو تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان نہ کرتی ہو۔

اس قسم کی درجنوں آیات ہیں جن سے پتھر، پہاڑ، زمین آسمان بلکہ کائنات کے ذرہ ذرہ کا تسبیح پڑھنا، بولنا سننا اور ڈرنا وغیرہ ثابت ہے۔

کیا کیپٹن صاحب ان آیات قرآنیہ کو بھی بے معنی قرار دیں گے؟ ان کے مزاج ودماغ سے یہ چیز بھی کوئی بعید نہیں ہے لیکن بہرحال ان آیات کا اصلی معنی ومطلب چھوڑ کر ان کا حلیہ بگاڑنے کی کوشش سے تو ہرگز نہیں چھوٹیں گے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جس طرح پتھروں، پہاڑوں کا بولنا، سننا اور تسبیح پڑھنا باوجود غیر ذی روح ہونے کے ثابت اور واقع ہے اسی طرح مردہ کا قبر میں ملائکہ وغیرہ کی باتوں کو سننا۔ جواب دینا اور عذاب وراحت کا محسوس کرنا عین ممکن ہے۔ جس کو کیپٹن صاحب بے معنی کہہ رہے ہیں وہ بے معنی نہیں۔ کیپٹن قرآن وحدیث کی روشنی میں علماء اسلام فرماتے ہیں کہ مردہ جسد کے ساتھ روح کا تعلق ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ عذاب وراحت کو محسوس کرتا ہے اس کے دلائل بندہ عاجز نے اپنی کتاب الحیات بعد الوفات یعنی قبر کی زندگی میں جمع کر دیئے ہیں وہاں دیکھ لئے جائیں۔

مجرم کون؟ دنیاوی جسم یا برزخی

کیپٹن صاحب وضع الجریدۃ والی حدیث کا غلط مطلب بیان کر کے جو یہ کہتے ہیں کہ عذاب قبروں کے اندر مدفون اجساد دنیویہ کو نہیں بلکہ برزخ میں برزخی جسم کو عذاب ہو رہا تھا۔ تو بندہ عاجز سوال کرتا ہے کہ ہمیں کیپٹن صاحب بتائیں کہ مجرم کون ہے؟ دنیاوی جسم یا برزخی جسم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ ایک مدفون مردے کو چغلخوری کی وجہ سے اور دوسرے کو پیشاب سے پرہیز نہ کرنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے اور ظاہر ہے کہ چغلخوری اس دنیاوی جسم نے کی اور پیشاب بھی اس دنیاوی جسم پر پڑا۔ لہٰذا از روئے انصاف اس دنیاوی جسم کو سزا ملنی چاہئے، کہ چغلخوری اور پیشاب سے بدپرہیزی کا مجرم یہی ہے، برزخی جسم نے نہ تو چغلخوری کی اور نہ اس پر پیشاب کے چھینٹے پڑے۔ لہٰذا اس کو عذاب میں خواہ مخواہ شامل کرنا تو پرلے درجے کی ناانصافی اور زیادتی ہے۔ انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ جو مجرم ہے سزا اس کو بھگتنی چاہئے، لیکن کیپٹن صاحب کی سمجھ الٹی ہے کہ وہ مجرم کو بری سمجھتا ہے اور جو بری الذمہ ہے اس کو مجرم اور سزا کا حق دار کہتا ہے۔

کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلی قبروں پر کھجور کی ٹہنی لگانا ممکن نہ تھا؟

کیپٹن صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث بخاری کو جھٹلاتے ہوئے لکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برزخ میں اپنے ساتھیوں کو لے جا کر ان کی اصلی قبروں پر ٹہنی لگانا ممکن نہ تھا۔ جسارت دیکھئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہ نفس نفیس اصلی قبروں پر مع صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان پر ٹہنی گاڑھی مدفون مردے اصلی قبروں میں موجود تھے اور یہ زمینی قبر ان کے لئے برزخ تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ اجمعین عالم دنیا میں تھے۔ قرآن ان زمین والی قبروں کو قبر کہتا ہے، لہٰذا از روئے قرآن اصلی قبریں ہیں نامعلوم کیپٹن صاحب کس زبان سے کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلی قبروں پر ٹہنی لگانا ممکن نہ تھا۔

اب یہ کیپٹن صاحب بتائیں گے کہ ان قبروں کے علاوہ اصلی قبروں کا ثبوت کہاں سے ہے۔ کیپٹن صاحب کی خود ساختہ اصلی قبروں کا کہیں وجود بھی ہے یا نہ؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج میں آسمانوں میں تو تشریف لے گئے لیکن اصلی قبروں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا کیسے ناممکن تھا؟

اگر کیپٹن صاحب کی نظر من ورائھم برزخ پر ہے تو اس آیت کی تفسیر گزر چکی ہے کہ برزخ سے مراد آیت مذکورہ میں موت ہے جو اس دنیا میں واپس آنے سے آڑ ہے اور نیز علماء اسلام نے موت سے لے کر قیامت کے وقفہ کو عالم برزخ کہا ہے جو کہ زمانہ ہے نہ کہ کوئی مخصوص مقام لہٰذا کیپٹن صاحب بتائیں کہ کس نے کہا ہے کہ برزخ سے مراد کوئی مقام ہے؟ اللہ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر کس نے کہا ہے کہ برزخ کسی مخصوص مقام کا نام ہے۔ یقین جانیئے۔ سب کچھ اس ظالم کی اپنی خود ساختہ اور پرداختہ باتیں ہیں جن کو قرآن حدیث اور اسلام کا نام دے رکھا ہے۔

ہوسکتا ہے کہ کیپٹن صاحب کے کسی ماننے والے کو یہ اشکال ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو مع صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عالم دنیا میں تھے اور قبروں میں مدفون مردے عالم برزخ میں تھے یہ کیسے تو میں عرض کر دوں گا کہ یہ ایسے کہ ایک

آدمی چند بیدار آدمیوں کے سامنے سو جاتا ہے اور نیند میں خوشی یا غمی کا خواب دیکھتا ہے تو یہ سونے والا غمی اور خوشی کے حالات کا مشاہدہ کرنے والا۔ خواب میں چیخنے چلانے والا عالم خواب میں ہے اور اس عالم میں بہت کچھ دیکھ اور سن رہا ہے اور اس کے سر پر بیٹھنے والے لوگ عالم دنیا میں عالم خواب والے شخص کو دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے حالات کو نہیں دیکھتے۔ بعینہٖ قبر کے مردے عالم برزخ میں تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین عالم دنیا میں تھے۔ جیسے خواب کی کارروائی، بیدار آدمی نہیں دیکھ سکتا اگرچہ عالم خواب والا اس کے سامنے ہوتا ہے اسی طرح صحابہ کرام برزخ والوں کی کارروائی کو نہیں دیکھ رہے تھے اگرچہ قبریں ان کے سامنے تھیں، البتہ اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کارروائی دکھا دی۔ بہرحال مجرموں کو سزا اسی قبر میں ہو رہی تھی نہ کہ کسی اور مقام پر۔

جن مردوں کو یہ اصلی قبریں نصیب نہیں ہوئیں تو ان کے جسم دنیاوی یا اس کے اجزاء جہاں ہیں وہی ان کی قبر ہے بالآخر دیر یا سویر ہر مردے نے زمین ہی میں دفن ہونا ہے۔ مردہ چاہے ریزہ ریزہ ہو جائے خاک و راکھ ہو جائے۔ پرندوں، درندوں کے پیٹ میں چلا جائے اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت سے باہر نہیں ہوا ان کو بہرحال عذاب و راحت کا ادراک ہوتا رہتا ہے لیکن کیپٹن صاحب اپنی عقل سے قرآن و حدیث کو جھٹلا رہے ہیں حالانکہ عقل قرآن و حدیث کے تابع ہے نہ کہ قرآن و حدیث عقل کے تابع ہیں۔

معجزہ کیا ہے؟ عذاب کا ہونا یا عذاب کو دیکھنا

کیپٹن صاحب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو بگاڑنے کی

کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی جس سے دنیاوی جسموں کو عذاب ثابت ہوتا ہے۔ بالآخر یہ بھی کہہ دیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے اور ظاہر ہے کہ معجزات سے استدلال نہیں ہوتا لہٰذا اس حدیث سے بھی حجت پکڑنا درست نہیں ہے؟

تو جواباً عرض ہے کہ یہاں دو چیزیں الگ الگ ہیں ایک ہے عذاب کا ہونا دوسرا ہے قبروں میں ہونے والے عذاب کو دیکھنا۔ قبروں میں مردوں کو عذاب ہونا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ نہیں ہے۔ عذاب تو ان کو اپنی بد اعمالی کی وجہ سے ہو رہا تھا ایک چغلخوری کرتا تھا اور دوسرا پیشاب سے احتیاط نہ کرتا تھا جیسا کہ حدیث میں صاف موجود ہے۔ لہٰذا ان کو عذاب ہونا ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ نہیں ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کائنات بن کر آئے ہیں یہ کیسا معجزہ ہے کہ آپ کی وجہ سے بے قصوروں کو عذاب شروع ہو گیا نہیں نہیں ہرگز نہیں وہ مجرم تھے اور مجرم کی سزا قانون خداوندی کے تحت ہوتی ہے نہ کہ معجزہ کی وجہ سے۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ عذاب قبر و برزخ کو آپ نے دیکھا کیونکہ قبر و برزخ کی کارروای عموماً نظر نہیں آتی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں کو نظر نہ آنے والے عذاب کا مشاہدہ کیا اور آنکھوں سے دیکھا۔ آپ کیپٹن صاحب کی کوتاہ فہمی اور کم عقلی ملاحظہ فرمائیے کہ دو الگ الگ چیزوں کو ایک بنا کر لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حالانکہ ہمارا استدلال عذاب دیکھنے سے نہیں عذاب کے ہونے سے ہے۔ دیکھنا معجزہ ہے کیونکہ عذاب کا ہونا تو قانون خداوندی ہے۔ ان کو اپنے جرم کی وجہ سے عذاب پہلے بھی ہو رہا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس وقت بھی ہو رہا تھا اور بعد میں بھی ہوتا رہا کیونکہ وہ قصوروار تھے۔ البتہ ایک نہ نظر آنے والی چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا۔ یہ معجزہ ہے لیکن اس سے استدلال

نہیں ہے۔

مثال دوم: کیپٹن صاحب حدیث، کلام المیة علی الجنازة کے معنی مطلب کو مسخ کرتا ہے بخاری شریف کی حدیث جس سے قبر و برزخ کا عذاب وثواب ثابت ہوتا ہے اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ قبر و برزخ کی کارروائی دنیا والے جسموں پر طاری ہوتی ہے۔ چونکہ یہ حدیث بھی کیپٹن صاحب کے خودساختہ عقیدہ کے تحت خلاف تھی اس نے اس حدیث کے معنی ومطلب کو بگاڑنے کے لئے کئی پاپڑ بیلے ہیں۔ لیکن پہلے حدیث سنیئے پھر کیپٹن کی ہرزہ سرائی۔ حدیث:

> عن ابی سعید رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال علی اعناقهم فان کانت صالحةً قالت قدِّمُونی وان کانت غیر صالحةٍ قالت یاویلها این تذهبون بها، یسمع صوتها کل شیء اِلّا الانسان ولو سمع لصعق. (بخاری جلد: ۱ ص: ۱۷۵)

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میت کو (چارپائی) پر رکھا جاتا ہے اور لوگ اس کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے چلتے ہیں۔ تو اگر وہ نیک ہے تو کہتی ہے مجھے جلدی لے چلو اور اگر غیر صالح ہے تو کہتی ہے ہائے میری ہلاکت، مجھے کہاں لے جا رہے ہو اس کی یہ آواز سوائے انسان کے ہر چیز سنتی ہے اور اگر انسان سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں۔

یہ حدیث صاف لفظوں میں بتلا رہی ہے کہ عالم قبر و برزخ کی جزا وسزا میں

دنیاوی جسم شریک ہوتا ہے کیونکہ لوگ جس کو کندھوں پر اٹھا کر لے جا رہے ہیں وہ یقینا
دنیاوی جسم ہے اگر نیک ہے تو وہ جلدی کی کوشش کرتا ہے اور مجرم فریاد کرتا ہے۔ کیونک
نیک آدمی کو قبر کی راحت نظر آ رہی ہے اور مجرم کو عذاب۔ چونکہ موت کے فوراً بعد آدمی
عالم برزخ میں چلا جاتا ہے جب تک زندہ تھا عالم دنیا میں تھا اور اب عالم برزخ کی
چیز ہے اگرچہ چارپائی پر بھی پڑا ہے اور دفن سے پہلے والی کارروائی کو بھی تغلیباً عذاب
قبر ہی کہتے ہیں کیونکہ اس کاروائی کا اکثر حصہ قبر میں ہوتا ہے۔ چونکہ یہ صحیح اور صریح
حدیث کیپٹن صاحب کے خودساختہ نظریہ کے تحت مخالف ہے اس لئے اس کے معنی و
مطلب بگاڑنے کے لئے اور سادہ لوح انسانوں کو اس حدیث سے دور رکھنے کے لئے
کئی پینترے بدلے ہیں۔ چنانچہ لکھتا ہے ''بخاری کی اس حدیث کے بعد انہی کی
دوسری حدیث کو لا کر کہا جاتا ہے کہ دیکھو مردہ کندھے پر جب اٹھایا جاتا ہے تو بولنے
لگتا ہے نیک ہے تو کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو اور بُرا ہے تو چیختا ہے کہ ہائے ہائے
کہاں لئے جا رہے ہو۔ بھائی اس حدیث میں تو صاف آ گیا کہ یہ مردہ مردہ ہے زندہ
نہیں پھر اس سے زندگی کا اثبات کیسا رہا اس کا بولنا تو قرآن کی متشابہات کی طرح اس
حدیث کی اصلی تاویل کسی کے پاس نہیں کوئی کہتا ہے کہ روح بولتی ہے۔ کسی کا کہنا ہے
کہ یہ زبان حال کا قول ہے بہرحال یہ مردہ مردہ ہے زندہ نہیں بخاری نے بھی باب
باندھ کر بتلا دیا کہ وہ اس کو مردہ مانتے ہیں بولنے والا زندہ نہیں۔ (عذاب برزخ ص: ۱۷)

ناظرین! دیکھئے اس ظالم نے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزن
کو گرانے اور اردو خواندہ لوگوں کو اس سے متنفر کرنے کیلئے کیا کچھ ہانک دیا۔ اس کی قلم
سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی توہین سے
آلودہ ہے سب سے پہلی نیش زنی ملاحظہ فرمائیے'' اس حدیث میں تو صاف آ گیا کہ یہ

مردہ مردہ ہے زندہ نہیں پھر اس سے زندگی کا اثبات کیسا رہا" بندہ عرض گزار ہے کہ قبر و برزخ کا انسان باعتبار دنیا کے مردہ ہے کیونکہ اس پر موت واقع ہو چکی ہے دنیا والے اسے مردہ ہی کہیں گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب اس کو مردہ کہا تھا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما تھے لیکن وہ زندہ ہے باعتبار عالم برزخ کے اور عالم برزخ کی زندگی دنیا کی زندگی جیسی نہیں ہے بلکہ وہ ایک خاص قسم کی زندگی ہے جو ہماری فہم و شعور سے بالاتر ہے ہم اس زندگی کو محسوس نہیں کر سکتے۔ باقی اس زندگی پر ہم ایمان اس لئے رکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس زندگی کی اطلاع دی ہے۔ ہماری اس بات کو سمجھنے کے لئے آپ عالم خواب میں غور فرمائیں سونے والا انسان عالم خواب میں زندہ ہے۔ چلتا، پھرتا، دوڑتا ہے اور سنتا، بولتا چیختا ہے لیکن دنیا والوں کی نظر میں وہ مردہ ہے کیونکہ نیند بھی موت کے مشابہ ہے اسی لئے دنیا والے خواب والے کے کسی عمل کو نہیں دیکھ سکتے جبکہ وہ عالم خواب میں سب کچھ کر رہا ہے۔ تو برزخ والا اہل دنیا کے لئے مردہ اور اپنے عالم میں زندہ ہے اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ لیکن کیپٹن صاحب نے قبر و برزخ کی زندگی کو دنیا کی زندگی پر قیاس کر رکھا ہے جس کی وجہ سے قسم و قسم کے شبہات و وساوس میں خود بھی مبتلا ہے اور لوگوں کو مبتلا کر رکھا ہے وہ سمجھتا ہے کہ عالم برزخ میں رہنے والا زندہ ہے تو اس پر مردہ کا اطلاق درست نہیں اور اگر مردہ ہے تو اس پر زندہ کا اطلاق درست نہیں۔ لیکن یہ جاہل کیا جانے؟ یہ دونوں اطلاق درست ہیں وہ مردہ ہے باعتبار دنیا کے اور زندہ ہے باعتبار عالم برزخ کے اور دنیا کی زندگی اور ہے برزخ کی زندگی اور ہے ایک عالم کے حالات کو دوسرے عالم کے حالات پر قیاس کرنا خود غلط ہے اور گمراہی کی خشت اول ہے۔

سخن شناس نئی دلبر خطا ایں جا است

مردوں کی زندگی تو خود کیپٹن صاحب بھی مانتا ہے

کیپٹن صاحب جو تضاد کا شکار ہیں اور دوسروں کو بھی شکار بنا رہے ہیں کہ مردہ ہیں تو زندہ نہیں۔ اگر زندہ ہیں تو مردہ نہیں۔ اگر غور کیا تو خود کیپٹن صاحب کے عقیدہ میں یہی تضاد موجود ہے کیونکہ دنیا سے اب تک جو لوگ بھی رخصت ہو گئے ہیں کیپٹن صاحب ان کو مردہ ہی کہتا ہے۔ اس کی کتابوں اور رسائل میں سب مرنے والوں کو مردہ ہی لکھا ہے لیکن وہ ان سب مردوں کو برزخ میں زندہ بھی مانتا ہے۔ اور اپنے زعم کے مطابق وہ برزخ مقام کو کہتا ہے اور اسی خود ساختہ برزخی مقام میں تمام مردوں کو وہ زندہ مانتا ہے تو اگر یہ تضاد ہمارے عقیدہ میں ہے تو کیپٹن صاحب کے عقیدہ میں بھی ہے۔ لیکن

دیگراں را نصیحت خود را فضیحت

اور ہمارے علماء اہلسنت والجماعت بھی حیات برزخیہ کے قائل ہیں ہم بھی مردوں کو عالم برزخ میں زندہ مانتے ہیں لہٰذا حیات برزخیہ کے اندر کوئی اختلاف نہیں البتہ کیپٹن صاحب برزخ کسی مقام کو کہتے ہیں اور علماء اسلام برزخ زمانے اور وقت کو کہتے ہیں ہمارے علماء اسلام فرماتے ہیں ہر مردہ اور اس کا مستقر قبر وغیرہ برزخ میں شامل ہیں اور دوسرا فرق یہ بھی ہے کہ علماء اسلام قرآن و حدیث کے مطابق فرماتے ہیں کہ عالم قبر و برزخ کی جزا و سزا میں یہ دنیا والا جسم شریک ہوتا ہے کیونکہ نیکی اور بدی میں بھی یہی شریک تھا لیکن کیپٹن صاحب کا قرآن و حدیث کے خلاف یہ عقیدہ ہے کہ جزا و سزا میں دنیاوی جسم کے بجائے کوئی اور جسم

شامل کیا جاتا ہے جس نے نہ نیکی کی نہ برائی۔

بہر حال مردوں کی زندگی کے سب قائل ہیں اگر یہ جرم اور گناہ ہے تو اس کا ارتکاب خود کیپٹن صاحب بھی کر چکے ہیں بلکہ سب سے بڑھ اور چڑھ کر کیونکہ علماء اسلام تو عالم برزخ میں روح کا جسد دنیاوی کے ساتھ صرف تعلق مانتے ہیں جس کی وجہ سے مردہ دکھ و سکھ کا ادراک کرتا ہے لیکن کیپٹن صاحب تو روح کو برزخی جسم میں داخل سمجھ کر بالکل مکمل زندہ کہتے ہیں۔ ستم ظریفی دیکھئے۔ جو مردے میں نوع من الحیٰوۃ یعنی ایک خاص قسم کی زندگی مانے وہ تو قرآن کے خلاف ہے اور جو مردے کو بالکل زندہ مانے اور ہر لحاظ سے زندہ مانے وہ مدعی قرآن ہے۔

کیپٹن صاحب کی قران وحدیث پر اجارہ داری

کیپٹن صاحب مذکورہ بالا حدیث کلام المیة علی الجنازة سے عوام الناس کو دور اور نفور کرنے کے لئے لکھتا ہے۔ ”رہا اس کا بولنا تو قرآن کی متشابہات کی طرح اس حدیث کی اصلی تاویل کسی کے پاس نہیں“ دیکھئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اور سچی حدیث چونکہ ان کے خود ساختہ نظریہ کے خلاف ہے اس لئے یہ سب کچھ ہانکے جا رہا ہے تاکہ لوگ اس حدیث کا انکار کر دیں کبھی کہتا ہے کہ یہ متشابہات سے ہے اور کبھی کہتا ہے کہ اس کی اصلی تاویل کسی کے پاس نہیں۔ یقین جانئے کیپٹن صاحب کی یہ دونوں باتیں غلط ہیں اور قرآن وحدیث کے بالکل خلاف ہیں۔ کس نے کہا کہ میت کا بولنا متشابہات ہے؟ کیا قرآن وحدیث میں لکھا ہے کہ یہ حدیث متشابہات سے ہے؟ کس نے کہا ہے کہ اس کی اصلی تاویل کسی کے پاس نہیں ہے؟ یہ سب ان کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس زندیق نے قرآن وحدیث پر اجارہ داری قائم کر رکھی ہے جو چاہے کرے جو معنی و مطلب کرے۔ جس کو مانے جس کو ٹھکرائے یعنی قرآن وحدیث اس کے گھر کی چیز ہیں جس طرح چاہے ان کی شکل و صورت کو بگاڑے۔ ماشاء اللہ ماننے والے اندھے مقلد ہر اس کی بات کو قرآن وحدیث کا نام دینے کے لئے بالکل تیار بیٹھے ہیں حقیقت یہ ہے کہ بخاری کی یہ حدیث صاف صاف بتلا رہی ہے کہ عالم برزخ و قبر کی جزا و سزا میں دنیا والا جسم شریک ہوتا ہے لیکن یہ ظالم ان بے ڈھنگی چالوں سے حدیث کی حیثیت کو ڈھانے کی سعی مذموم کر رہا ہے۔

میت کا کلام کرنا کوئی بعید بات نہیں

جب اللہ تعالیٰ کے قرآن سے پہاڑوں، پتھروں بلکہ ذرے ذرے کا بولنا سننا اور تسبیح پڑھنا ثابت ہے تو میت کا کلام کرنا کونسی بعید بات ہے لیکن یہ ملحد نہ حدیث کے مسخ کرنے سے چوکتا ہے نہ قرآن کی شکل بگاڑنے سے باز آتا ہے۔ قرآن وحدیث کے نام پر سب کچھ کئے جا رہا ہے اور ماننے والے ہر بے تکی کو مانے جا رہے ہیں۔

الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے

پھر طرفہ تماشہ یہ ہے کہ علماء اسلام کو کوسے جا رہا ہے اور الزام لگا رہا ہے کہ وہ قرآن وحدیث کا غلط مطلب بیان کرتے اور فلاں فلاں کام کرتے ہیں حالانکہ وہ سب کچھ خود کئے جا رہا ہے اور علماء اسلام پر الزام بھی لگاتے جا رہا ہے اس کو کہتے ہیں۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔

نہ قرآن نہ حدیث بلکہ لوگوں کی باتیں

کیپٹن صاحب عذاب قبر کی اس وزنی حدیث کو بے وزن اور بے معنی

بنانے کے لئے لکھتا ہے "کوئی کہتا ہے کہ روح بولتی ہے۔ کسی کا کہنا ہے کہ یہ زبان حال کا قول ہے۔ بہرحال یہ مردہ، مردہ ہے زندہ نہیں۔" کیپٹن صاحب کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں نے اس حدیث کے کئی مطلب بیان کئے مثلاً کسی نے کہا ہے کہ روح بولتی ہے۔ لیکن بندہ عاجز سوال کرتا ہے کہ کیپٹن صاحب جو یہاں لوگوں کے اقوال نقل کر رہے۔ کیا لوگوں کی باتیں اور علماء کے اقوال ان کے نزدیک حجت ہیں؟ جب لوگوں کی باتیں ان کے نزدیک حجت ہی نہیں تو ان کو نقل کرنے کا کیا فائدہ۔ صرف یہی مقصد ہے نا۔ کہ ایسی باتوں کے ذریعہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے جائیں اور یہی کام ہی کیپٹن صاحب کا ہے ورنہ حدیث رسول اللہ کے مقابلہ میں لوگوں کی باتوں کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے۔ اور پھر جو قول نقل کیا وہ درست بھی نہیں کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ جس کو لوگوں نے اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا ہے وہ بولتا ہے ظاہر ہے کہ لوگوں نے تو کندھوں پر دنیا والے جسد کو اٹھا رکھا ہے نہ کہ روح کو اور اگر کیپٹن صاحب سمجھتا ہے کہ روح پھر واپس آ جاتی ہے تو یہ خود ان کے عقیدہ کے خلاف ہے کیونکہ وہ تو روح کی واپسی کا قائل ہی نہیں۔ بہرحال خواہ مخواہ غلط تاویل نقل کر کے حدیث کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے کیونکہ حدیث صحیح تو فرمائی ہے کہ جس کو لوگ کندھوں پر اٹھاتے جا رہے وہ بولتا ہے اور وہ دنیا والا جسم ہے اور یہ کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔

کیپٹن صاحب نے دوسرا قول یہ نقل کیا ہے کہ "کسی کا کہنا ہے کہ یہ زبان حال کا قول ہے میں پوچھتا ہوں یہ کس کا قول ہے اللہ تعالیٰ کا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ یقیناً یہ بات نہ اللہ کی اور نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ کسی کا قول ہے کیا اقوال کیپٹن صاحب کے نزدیک حجت ہیں؟ لوگوں کو کہتا ہے کہ صرف اللہ اور

اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو اور کسی کی نہ مانو لیکن خود قرآن وحدیث کو چھوڑ کر اقوال کا سہارا لے رہا ہے آخر کیا وجہ ہے لوگوں کی باتوں کو خود ٹھکرانا اور پھر خود ہی پیش کرنا سوائے شیطانی وساوس کے کچھ بھی نہیں۔

میت زبان حال سے بولتی ہے یا زبان قال سے

کیپٹن صاحب نے حدیث " كلام الميت على الجنازة " کی تاویل میں جو یہ قول نقل کیا ہے کہ میت زبان حال سے بولتی ہے یعنی نیک میت کی حالت اچھی اور خوشی والی ہوتی ہے اور مجرم کی حالت بری اور غمی والی ہوتی ہے۔ لیکن حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اس تاویل کو رد کرتے ہیں۔ کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ يسمع صوتها كل شيء ۔ یعنی گنہگار میت، جب فریاد کرتی ہے تو اس کی آواز بجز انسان کے ہر شئے سنتی ہے۔ ظاہر ہے کہ میت کی فریاد کی آواز ہوتی ہے اور وہ آواز بجز انسان کے ہر چیز کو سنائی دیتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ میت زبان قال سے بولتی ہے نہ کہ زبان حال سے اور یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوائے انسان کے ہر چیز اس کی آواز کو سنتی ہے اگر میت کا چارپائی پر بولنا زبان حال سے ہوتا تو اس کو بہ نسبت دوسری چیزوں کے انسان زیادہ سمجھتا کیونکہ وہ سب چیزوں سے زیادہ باشعور ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے سوا ہر چیز اس کی فریاد کو سنتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ میت کی فریاد زبان قال ہی سے ہوتی ہے البتہ انسان کو یہ آواز نہیں سنائی جاتی ورنہ بیہوش ہو جاتا ہے تو ثابت ہوا کہ یہ تاویل بھی درست نہیں ہے۔ لیکن اگر بالفرض یہ تاویل تسلیم بھی کر لی جائے کہ میت زبان حال سے فریاد کرتی تو پھر بھی اس کی رو سے کیپٹن

صاحب کے نظریہ کی بیخ کنی ہو جاتی ہے کیونکہ فریاد تو ہر حال میں دنیا والا جسم کرتا ہے خواہ زبان حال سے کرے یا زبان قال سے کرے کرتا تو یہی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم قبر و برزخ کی کاروائی میں دنیا والا جسم شریک ہوتا ہے نہ کہ کوئی اور جیسا کہ کیپٹن صاب نے خود ساختہ جسم برزخی بنا رکھا ہے اور یہ بات کئی بار گزر چکی ہے کہ موت سے عالم برزخ کی کارروائی شروع ہو جاتی ہے اور قبل از دفن والی برزخی کارروائی کو بھی تغلیباً عذاب قبر کہا جاتا ہے۔

کیپٹن صاحب نے امام بخاری رحمہ اللہ پر بہتان اور جھوٹ باندھا

کیپٹن صاحب: المیۃ علی الجنازۃ والی حدیث کی حیثیت کو گھٹاتے ہوئے لکھتا ہے" امام بخاریؒ نے بھی یہ باب باندھ کر بتلادیا کہ وہ اس کو مردہ مانتے ہیں بولنے والا زندہ نہیں ، اور دیکھئے یہ ظالم کتنی بڑی جسارت کر کے امام بخاری رحمہ اللہ پر بہتان باندھ رہا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے کہ امام بخاریؒ اس کو بولنے والا زندہ نہیں مانتے ، حالانکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث پر یوں باب قائم کیا ہے"باب قول المیت وھو علی الجنازۃ قَدِّمُونی " . یعنی میت کا چارپائی پر یہ کہنا کہ مجھے آگے لے چلو ، یعنی جلدی دفناؤ۔ ظاہر ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ یہ باب باندھ کر اس حدیث کے مطابق اپنا عقیدہ واضح فرمارہے ہیں کہ میت چارپائی پر بولتی ہے۔ کلام کرتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میت کے اندر دکھ سکھ اور عذاب وراحت محسوس کرنے کے لئے ایک خاص قسم کی حیات رکھی جاتی ہے تو اس عالم کے اعتبار سے وہ زندہ ہے اور عالم دنیا کے اعتبار سے وہ مردہ ہے اسی لئے تو امام بخاری رحمہ اللہ نے

فرمایا کہ میت چارپائی پر کلام کرتی ہے۔ دنیا کی زندگی اور ہے اور عالم برزخ کی زندگ
اس سے مختلف ہے تو معلوم ہوا کہ کیپٹن صاحب نے امام بخاری رحمہ اللہ پر جھوٹ بول
ہے اور بہتان تراشی کی ہے۔

مثال سوئم ، حدیث قلیب بدر کو ٹھکرانے کی ناپاک جسارت

بخاری شریف میں حدیث قلیب بدر موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قب
و برزخ کی کارروائی میں دنیا والا جسم شریک ہوتا ہے چونکہ یہ حدیث کیپٹن صاحب ک
جعلی عقیدے پر ضرب کاری لگانے والی ہے ، اس لئے تاویلات فاسدہ کے ذریع
اس حدیث کو ناقابل قبول بنانے کی کوشش کی لیکن پہلے حدیث سنئے پھر اس کے بع
کیپٹن صاحب کی ہرزہ سرائی اور پھر اس پر تبصرہ۔

حدیث:

انَّ ابن عمر رضی اللہ عنہما اخبرہ قال اطلع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اھل قلیب ، فقال: وجدتم ماوعد ربکم حقاً فقیل لہ ، تدعوا امواتاً قال: ماانتم باسمع منھم فلکنْ لایحیبون و فی روایۃ عائشۃ رضی اللہ عنھاقالت انماقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انُّھم لیعلمون الآن ان ماکنت اقول لھم حق وقدقال اللہ تعالیٰ:" انک لا تسمع الموتی".

(بخاری ج ۱ ص: ۱۸۳)

ترجمہ: "حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قلیب بدر (جس میں

> مشرکین کے مقتولین کی مردہ نعشوں کو پھینکا گیا تھا) والوں کو جھانک کر فرمایا کہ میرے رب نے تمہارے ساتھ جو ذلت و شکست اور عذاب کا وعدہ فرمایا تھا۔ کیا تم نے وہ سچ کر پایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو آواز دے رہے ہیں جن میں روح نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے لیکن وہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اب جان رہے ہیں کہ میں ان کو جو کچھ کہتا ہوں وہ حق و سچ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیغمبر! آپ موتیٰ کو نہیں سنا سکتے یعنی وہ کافر جن کے دل مردہ ہو چکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں سنوا سکتے، یعنی نہیں منوا سکتے۔"

ناظرین باتمکین! یہ حدیث واضح طور پر بتلا رہی ہے کہ مشرکین مکہ کے جن مقتولین بدر کو بدر کے گڑھے میں ڈالا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا کہ ان کو عذاب اور سزا محسوس و معلوم ہو رہی ہے اور ظاہر ہے کہ بدر کے گڑھے میں ان کے دنیا والے جسم ہی تھے تو معلوم ہو گیا کہ عالم قبر و برزخ کی کاروائی میں دنیا والا جسم شامل ہوتا ہے چونکہ یہ صحیح حدیث کیپٹن صاحب کے نظریہ کو باطل ٹھہراتی ہے اس لئے وہ اس رکاوٹ کو دور کرنے اور اپنے غلط نظریہ کو تحفظ دینے کے لئے یوں ہرزہ سرائی کرتے ہیں" ہر ایک خاص واقعہ ہے اور اس واقعہ کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں دو رائیں ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا سننے سے علم مراد لیتی ہیں

اور عبداللہ بن عمرؓ اس کو معجزہ سمجھتے ہیں۔ ہر مردہ کو زندہ کر کے سننے والا بنا دیا جاتا ہے یہ کسی صحابی کا عقیدہ نہیں تھا مگر لوگوں نے کس خوبصورتی کے ساتھ خاص کو عام بنا کر اپنی من مانی بات ثابت کرنے کی راہ نکال لی اگر قلیب بدر کے کفار زندہ ہو گئے سننے لگے تو پھر ان کو موت کب آئے گی اور کیا ان کو تین زندگیوں اور تین موتوں سے سابقہ پیش آئے گا۔ (عذاب برزخ ص:۱۶)

ملاحظہ فرمائیے:۔ کیپٹن صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے لوگوں کو منحرف کرنے کے لئے کیا کیا جتن کر رہا ہے اس لئے کہ یہ حدیث ان کے عقیدہ کو باطل ٹھہراتی ہے اور عذاب قبر کو ثابت کرتی ہے۔ سب سے پہلے حدیث قلیب بدر پر یہ حملہ کیا کہ یہ ایک خاص واقعہ ہے مگر لوگوں نے خاص کو عام بنا دیا ہے۔" اس جاہل کو معلوم نہیں کہ قرآن و حدیث کے سینکڑوں احکام ہیں جو ایک خاص واقعہ کے متعلق نازل ہوئے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اور علماء اسلام نے اس واقعہ سے عام حکم سمجھا۔ مثلاً چوری کی حد، تہمت کی سزا، زنا کی حد وغیرہ احکامات ایک خاص واقعہ پر اترے ہیں لیکن اس کے حکم کو عام سمجھا گیا۔ یہ کس نے کہا کہ جو حکم خاص واقعہ کے لئے نازل ہو اس میں عموم نہیں ہوتا؟ یہ بات اللہ نے فرمائی ہے یا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ظاہر ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی ایسی بات نہیں فرمائی اور اگر کسی امام، بزرگ یا کسی عالم دین کا قول ہے تو وہ کیپٹن صاحب کے نزدیک حجت نہیں ہے اور حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف کیپٹن صاحب کا اپنا ذہنی اختراع ہے اور ان کی یہ عادت ہے کہ وہ اپنے ہر ذہنی اختراع کو قرآن اور اسلام کا نام دیتے ہیں۔ ورنہ بہت سے احکامات ہیں جو کسی خاص واقعہ پر نازل ہوئے ہیں لیکن ان کے اندر عموم ہوتا ہے۔ لہٰذا حدیث قلیب بدر کو خاص کہنا گلو

خلاصی کی ایک ناپاک سازش ہے جس کا کیپٹن صاحب نے ارتکاب کیا ہے۔

کیپٹن صاحب نے علم میت تسلیم کرلیا

کیپٹن صاحب اٹھا تھا حیات قبر کو منانے کے لئے کہ قبر میں مردہ انسان کے اندر کسی قسم کی حیات نہیں ہوتی اور نہ ہی اس مردہ کو دکھ سکھ کا ادراک و شعور ہوتا ہے۔ بلکہ ایسے عقیدہ کو کفر بھی کہہ دیا لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ دیکھئے کہ حدیث قلیب بدر کی حیثیت کو گراتے ہوئے لکھ دیا ہے کہ" عائشہ رضی اللہ عنہا سننے سے علم مراد لیتی" یعنی قلیب بدر کے مردہ کافروں کو علم ہو گیا ہے کہ جو کچھ میں ان کو کہتا تھا وہ حق اور سچ ہے اور ظاہر ہے کہ ان مردہ کافروں نے پوری زندگی پیغمبر اسلام کے لائے ہوئے حق کو قبول نہیں کیا بلکہ اس کا مقابلہ اور مخالفت کی تو اس انکار اور مخالفت کی ان کو جو سزا مل رہی ہوگی اس کا بھی ان کو علم ہوگا تو جزاو سزا کا علم اور پیغمبر اسلام کی حقانیت کا علم حیات کو مستلزم ہے۔ علم میت کے تسلیم کرنے سے حیات میت خود بخود تسلیم ہو جاتی ہے اور ماشاء اللہ کیپٹن صاحب نے علم میت کو تسلیم کر کے حیات میت کو بھی تسلیم کر لیا کہ مردہ کافروں کے اندر جزاو سزا کا ادراک اور علم موجود رہتا ہے اور یہی اہلسنت والجماعت کا عقیدہ ہے جس کی تردید میں کیپٹن صاحب نے درجنوں صفحات سیاہ کئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی قلم اور اس کے ہاتھ سے یہ بات لکھوادی کہ مردہ کے اندر علم ہوتا ہے پس علم ہے تو حیات لازماً ہے۔ ورنہ بغیر حیات کے علم کیسا؟ کسی نے خوب کہا ہے

دروغ گو را حافظہ نباشد

کیپٹن صاحب نے جھوٹ بولا

کیپٹن صاحب نے حدیث قلیب بدر کو بے اثر بنانے کے لئے بڑے ہاتھ پیر مارے ہیں کہ کسی طرح مسلمان اس حدیث سے دور رہیں اور حیات قبر اس سے ثابت نہ کریں حتیٰ کہ جھوٹ بولنے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ چنانچہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سفید جھوٹ بول دیا کہ وہ حدیث قلیب بدر کو معجزہ سمجھتے ہیں حالانکہ یہ بات حدیث کی کسی کتاب میں موجود نہیں ہے اور نہ ہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی ہے لیکن ظالم نے کس صفائی سے جھوٹ بول کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بے وزن بنانے کی ناپاک جسارت کی اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو جھوٹ سے آلودہ کرنے کی مذموم کوشش کی اور" لعنة الله على الكاذبين " کا مصداق ٹھہرا۔

معجزہ کیا ہے؟ قبر کی زندگی یا اس کا دیکھنا

حدیث قلیب بدر کو معجزہ کہہ کر کیپٹن صاحب اپنی گلوخلاصی چاہتے ہیں کہ معجزۃً مردہ کافروں کو زندہ کیا گیا اور ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنوائی گئی ورنہ قبروں میں کسی قسم کی حیات نہیں ہوتی اور معجزات سے استدلال بھی درست نہیں ہے۔ حالانکہ یہ دھوکہ اور تلبیس ہے کیونکہ قبر کی زندگی تو نصوص قطعیہ سے ثابت ہے جس کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا حتیٰ کہ قبر کی زندگی کو تو خود کیپٹن صاحب بھی تسلیم کرتا ہے البتہ قبر کے مفہوم میں تحریف کر کے کوئی اور قبر بتاتا ہے بہر حال قبر کی زندگی تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کیونکہ قبر میں مردہ انسان سے حساب لیا جاتا ہے اس سے تین سوال کئے جاتے ہیں اگر قبر میں حیات نہیں ہے تو سوالات پوچھنے کا کیا مطلب؟ اور عذاب قبر کیسا تو معلوم ہوا کہ قبر کی زندگی قانون خداوندی کے تحت مردہ کو حاصل ہوتی ہے۔ اس کو معجزہ کہنا جہالت ہے البتہ معجزہ یہ ہے کہ قبر کی زندگی اور قبر کی کارروائی عام لوگوں کو

نظر نہیں آتی لیکن بطور معجزہ کے اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کارروائی دکھاتے تھے تو نہ نظر آنے والی چیز کا نظر آ جانا معجزہ ہے نہ کہ حیات قبر اور عذاب قبر معجزہ ہے۔ لیکن کیپٹن صاحب ایسے نابلد ہیں نہ خود یہ فرق سمجھ سکتے ہیں اور نہ کسی کو سمجھنے کا موقع دیتے ہیں بلکہ مغالطہ دے کر دو الگ الگ چیزوں کو ایک بنا کر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے یہ حدیث قلیب بدر حیات قبر اور عذاب قبر کی ایک وزنی اور جاندار دلیل ہے جس کو کیپٹن صاحب بے جان بنانے کے لئے زور لگا رہے ہیں۔

حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اور حملہ

کیپٹن صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اور سچی حدیث قلیب بدر جس سے حیات قبر یعنی عذاب ثابت ہوتا ہے۔ پر حملہ کرتے ہوئے لکھتا ہے ''اگر قلیب بدر کے کفار زندہ ہو گئے۔ سنے لگے تو پھر ان کو موت کب آئے گی اور کیا ان کو تین زندگیوں اور تین موتوں سے سابقہ پیش آئے گا'' جواباً گزارش ہے کہ کیپٹن صاحب علماء اسلام کو طعنہ دے رہے ہیں کہ اگر قلیب بدر کے مردہ کافروں کو زندہ سمجھا جائے تو ان کو دو کی بجائے تین موتوں اور تین زندگیوں سے سابقہ پیش آئے گا حالانکہ یہ نابلد جس چیز کا دوسروں کو الزام دے رہا ہے اس میں خود مبتلا ہو چکا ہے اور یہ شخص خود تین زندگیوں کا اور تین موتوں کا قائل ہو چکا ہے دیکھئے ایک دنیا والی زندگی دوسری برزخ والی زندگی اور تیسری قیامت والی زندگی اسی طرح تین موتوں کا قائل ہو چکا ہے ایک حالت نطفہ والی موت جس کو ''وکنتم امواتا'' میں بیان کیا گیا ہے دوسری دنیا والی موت ہے اور تیسری وہ موت جب برزخی جسم سے روح نکال کر بروز قیامت دنیاوی جسم میں روح ڈالی جائے گی جب برزخی جسم سے روح نکلے گی یہی اس کی موت ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ کیپٹن صاحب تین زندگیوں اور تین موتوں کا قائل ہو چکا ہے لیکن الزام علماء اسلام کو دیتا ہے۔

علماء اسلام تو فرماتے ہیں **كل نفس ذائقة الموت.** کے تحت ہر انسان نے موت کا مزہ چکھنا ہے اور موت واقع ہونے کے بعد آدمی کا زمانہ تبدیل ہو جاتا ہے بندہ عالم دنیا سے رخصت ہو کر عالم برزخ و قبر میں منتقل ہو جاتا ہے اور عالم قبر و برزخ کے حساب اور کارروائی کے لئے مردہ انسان میں ایک قسم کی حیات رکھی جاتی ہے جسکی وجہ سے وہ منکر نکیر کے سوالات کو سنتا ہے۔ جواب دیتا ہے اور قبر کے دکھ سکھ کو محسوس کرتا ہے۔ اور قبر کی یہ حیات ہمارے شعور سے بالاتر ہے البتہ اس حیات کی خبر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے جس پر ہمارا ایمان بالغیب ہے۔ نیز علماء اسلام فرماتے ہیں قبر کی یہ زندگی چونکہ مستقل زندگی نہیں ہے بلکہ نوع من الحیواۃ ہے اسی لئے اس کو دنیا کی زندگی کا تتمہ بھی کہا جا سکتا ہے اور آخرت کی زندگی کا مقدمہ بھی کہا جا سکتا ہے لہٰذا علماء اسلام پر تین زندگیوں والا الزام لازم نہیں آتا لیکن کیپٹن صاحب چونکہ تین مستقل زندگیوں کے اور تین مستقل موتوں کے قائل ہو چکے ہیں لہٰذا یہ الزام ان پر لاگو ہوتا ہے۔ لیکن قصوروار دوسروں کو بناتا ہے۔ ع

چہ دلاور است دزدے کہ چراغ بکف دارد

مثال چہارم: کیپٹن صاحب حدیث قرع نعال کی تحریف کرتا ہے

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب لوگ مردہ انسان کو قبر میں دفن کر کے واپس لوٹتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی چاپ سن رہا ہوتا ہے کہ اس کے

پاس حساب لینے والے دو فرشتے آجاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں اگر مردہ صحیح جواب دے دے تو اس کو جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اور اگر صحیح جواب نہ دے تو اس کو سزا دی جاتی ہے۔ چونکہ یہ حدیث عذاب قبر اور حیات قبر کی واضح دلیل ہے اور کیپٹن صاحب کے خود ساختہ عقیدہ پر ضرب کاری ہے اس لئے اس نے اس حدیث سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لئے اس حدیث کی ناروا تاویلیں شروع کر دیں۔ لیکن پہلے حدیث سنیے پھر کیپٹن کی تحریف اور پھر اس کا ابطال:

حدیث:

﴿عن انس رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا وضع العبد فی قبره وتولی عنهٗ اصحابه انهٗ یسمع قرع نعالهم، اتاهٗ ملکان فیقعدانه فیقولان: ماکنت تقولُ فی حق هذا الرجل لمحمدٍ صلی الله علیه وسلم. امّا المؤمن فیقول اشهد انّهٗ عبدالله ورسوله فیقال له انظر الی مقعدک من النّار قد ابدلک الله به مقعدا من الجنة. فیراهما جمیعا واما المنافق والکافر فیقال له ماتقول فی حق هذا الرجل: فیقول لا ادری اقول مایقول الناس. فیقال له لا دریت ولا تلیت ویضرب بمطارق من حدید ضربة فیصیح صیحة یسمعها من یلیه غیر الثقلین﴾. (متفق علیه ولفظه للبخاری، مشکوة، ص: ۲۵، بخاری ج ۱ ص: ۱۸۴، مسلم ج، ص: ، نسائی ج ۱ ص: ۲۲۳)

ترجمہ: ''حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں حضور

اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کو قبر میں رکھا جاتا اور اس کے دفن کرنے والے ساتھی واپس لوٹتے ہیں یقیناً وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس دو فرشتے آجاتے ہیں اس کو بٹھلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے تو مومن کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں تو اسے کہا جاتا ہے کہ تو اپنا آگ کا ٹھکانہ دیکھ لے تحقیق اللہ تعالیٰ نے تجھے اس کے بدلے جنت کا ٹھکانہ عطا فرمایا ہے پس وہ دونوں مقاموں کو دیکھتا ہے لیکن منافق اور کافر تو اسے کہا جاتا ہے تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے تو وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا جس طرح لوگ کہتے تھے میں بھی اسی طرح کہتا تھا تو اسے کہا جاتا ہے نہ تو نے جانا نہ تو نے پڑھا اور لوہے کے ہتھوڑوں سے اسے ایسا مارا جاتا ہے کہ وہ چیخیں مارتا ہے اور اس کی چیخ و پکار جن اور انسان کے علاوہ ارد گرد کے جانور سنتے ہیں۔''

اس صحیح اور صریح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جس جسد عنصری کو لوگ قبر میں دفن کر کے واپس ہوتے ہیں ابھی وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے اس کے پاس دو فرشتے نکیرین آجاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں اور اس کے ایمان و عمل کے مطابق اس کو جزا یا سزا دیتے ہیں تو معلوم ہوا کہ جسد عنصری قبر کی جزاء و سزا میں شریک و سہیم ہوتا ہے۔

چونکہ یہ حدیث کیپٹن صاحب کے باطل نظریہ کے خلاف ہے تو اس حدیث کے اصلی معنی ومقصد سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لئے اس کے تاویلیں شروع کر دی چنانچہ لکھتا ہے "دفن کئے جانے والے مردہ کا حساب وکتاب اتنی جلدی شروع ہو جاتا ہے کہ اگر وہ زندہ ہوتا تو دفن کر جانے والے لوگوں کی جوتوں کی آواز سن سکتا تھا یعنی وہ ابھی پلٹ کر اتنی دور بھی نہیں گئے ہوتے ہیں کہ برزخ میں اس کا حساب وکتاب شروع ہو جاتا ہے"۔ (عذاب برزخ صفحہ ۱۱)

دروغ گورا حافظہ نباشد

مذکورہ بالا حدیث سے جس طرح مردہ انسان کی ارضی قبر میں جزا وسزا ثابت ہوتی ہے اسی طرح سماع موتی کا مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مردہ اپنے دفنانے والوں کی جوتیوں کی آہٹ کو سنتا ہے اور اس حدیث سے ثابت شدہ دونوں عقیدے کیپٹن صاحب کے نظریات کے سخت خلاف تھے۔ اس لئے کیپٹن صاحب نے اولاً سماع موتی کی تردید میں یہ تاویل کی اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مدفون مردہ اپنے ساتھیوں کی جوتوں کی چاپ سنتا ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ حساب و کتاب والے فرشتے مردہ کے پاس اتنی جلدی آ جاتے ہیں کہ اگر وہ زندہ ہوتا تو دفن کر واپس جانے والوں کی جوتیوں کی آواز سن رہا ہوتا یعنی فرشتے فوراً اور جلدی آ جاتے ہیں یعنی یہ ان کے جلدی آنے سے کنایہ ہے۔ بندہ عاجز عرض کرتا ہے کہ کیپٹن صاحب نے تاویل کے ذریعے سماع موتی کی تو نفی کر دی لیکن یہ تو تسلیم کر لیا کہ حساب وکتاب والے فرشتے اسی مردہ کے پاس آتے ہیں جس کو لوگوں نے اسی ارضی قبر میں دفن کیا۔ حساب کتاب بھی اسی سے لیا جاتا ہے اور جزا وسزا بھی اسی کو دی جاتی ہے۔ دیکھئے کیپٹن صاحب سماع موتی کی تردید میں اتنا اندھا ہو گیا کہ خود اپنے نظریہ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ مردہ انسان جو قبر میں دفن کیا گیا یہ قبر اس کے لئے برزخ ہے اسی میں فوراً حساب کتاب والے فرشتے آ جاتے ہیں۔ جس کا انکار کرتے کرتے بالآخر خود ہی تسلیم کر لیا۔

عذاب قبر مردہ کو ہوتا ہے یا زندہ کو؟

کیپٹن صاحب نے اپنے رسائل میں بڑا شور مچایا ہے کہ قبر میں پڑا ہوا جسد عنصری تو مردہ ہے اس کو عذاب اور جزا وسزا کیسے دی جا سکتی ہے۔ اس لئے کیپٹن صاحب نے اپنا قبلہ درست کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ روح کو ایک دوسرا برزخی جسم عطا کرتا ہے جس سے آدمی بالکل زندہ ہو جاتا ہے تب اس کو عذاب اور جزا وسزا دی جاتی ہے اور یہاں خود تسلیم کر رہا ہے کہ مردہ انسان کے پاس حساب و کتاب والے فرشتے اتنی جلدی آتے ہیں کہ اگر وہ زندہ ہوتا تو ان کے قدموں کی چاپ سنتا ہے تو مان لیا کہ حساب وکتاب مدفون مردہ سے ہوتا ہے نہ کہ زندہ سے ہاں علماء اسلام فرماتے ہیں کہ یہی مردہ انسان عالم قبر و برزخ میں زندہ ہے اور اہل دنیا کی نظروں میں مردہ ہے۔ بہر حال حساب وکتاب اور جزا وسزا اسی جسد عنصری کو دی جاتی ہے جس کو دفن کیا گیا۔ کیپٹن صاحب تردید کرتے کرتے مان گیا کہ علماء اسلام کا نظریہ حق اور سچ ہے۔ قرآن وحدیث کے مطابق ہے۔

کیپٹن صاحب کی دوسری تاویل

حدیث قرع نعال کی دوسری تاویل کرتے ہوئے کیپٹن صاحب لکھتے ہیں "دوسری شرح بخاری کے شارح المزین بن المنیر کی شرح ہے، جس کو ابن حجر عسقلانی اپنی بخاری کی شرح فتح الباری میں اس حدیث کی تشریح میں سب سے پہلے

لائے ہیں۔ یہ ہے کہ حدیث۔ العبد اذا وضع فی قبرہ وتولی و ذھب اصحابہ حتیٰ انہ یسمع قرع نعالھم اتاہ ملکان (بندہ جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کا معاملہ پورا ہو جاتا اور اس کے ساتھی چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ البتہ سنتا ہے ان کے جوتوں کی چاپ کہ دو فرشتے اس کے پاس آجاتے ہیں) سے ان دو فرشتوں کی چاپ سننا مراد ہے جو (برزخ) میں اس کے پاس سوال و جواب کے لئے آتے ہیں۔ (عذاب برزخ ص:۱۳)

جس کی تردید اس کی تائید

یہ ہے کیپٹن صاب کی دوسری تاویل جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مردہ انسان جس کو اس ارضی قبر میں دفن کیا جاتا ہے وہ اپنے دفن کرنے والوں کی چاپ نہیں بلکہ حساب وکتاب والے فرشتوں کی چاپ سنتا ہے۔ اگر کیپٹن صاب کی منطق کو مان لیا جائے کہ مردہ فرشتوں کی چاپ سنتا ہے جو اس کے پاس حساب لینے کے لئے آتے ہیں تو کیپٹن صاحب نے صاف لفظوں میں تسلیم کر لیا ہے کہ جس مردہ کو اس زمین والی قبر میں دفن کیا گیا اور دفنانے والے اپنے گھروں کو واپس لوٹے تو اسی مردے کے پاس دو فرشتے حساب وکتاب کے لئے آجاتے ہیں تو مردہ ان کے قدموں کی چاپ سنتا ہے ماشاء اللہ۔ یہ بھی تسلیم ہے کہ فرشتے حساب وکتاب کے لئے اسی مدفون مردہ کے پاس آتے ہیں اور یہ بھی تسلیم کہ مدفون مردہ۔ فرشتوں کی چاپ سنتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں جسد عنصری کا حساب وکتاب بھی مسلم اور اس کا سماع بھی مسلم۔ نامعلوم سب کچھ تسلیم کر لینے کے باوجود کیوں ورق سیاہ کر دیئے ہیں۔

کیپٹن صاحب کے پاس قرآن وحدیث نہیں بلکہ تاویل ہی تاویل ہے

آپ کو معلوم ہو گیا کہ کیپٹن صاحب صرف زبان سے قران وحدیث کا دعویٰ کرتا ہے درحقیقت نہ اس کے پاس قرآن ہے نہ حدیث بلکہ قرآن وحدیث کی ناروا تاویلیں کرتا ہے اور اپنی تاویلوں کو قرآن وحدیث کا نام دیتا ہے۔

مسلم غیر مسلموں کی تاویلات کا سہارا کیوں لیتا ہے

کیپٹن صاحب نے حدیث قرع نعال کی دونوں تاویلیں تقریر گنگوہی اور فتح الباری کے مؤلفین سے نقل کی ہیں حالانکہ حضرت گنگوہی اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ وغیرہ دیگر حضرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات قبر تعلق روح اور سماع الصلوۃ والسلام عندالقبر الشریف کے قائل ہیں اسی طرح قبر میں اعادہ روح اور تعلق روح کے بھی قائل ہیں جبکہ ایسے نظریات کے حاملین کو کیپٹن صاحب کافر اور غیر مسلم کہہ چکے ہیں تو سوال یہ ہے کہ بزعم خویش ایک مسلم شخص کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ غیر مسلموں سے احادیث صحیح کی تاویلات نقل کرتا ہے کیا غیر مسلموں کی تاویلات قابل قبول ہیں؟ کیا غیر مسلموں کی کتابوں کے حوالات دینا صحیح ہیں آخر وہ کیا ہے کہ ایک مسلم غیر مسلموں کی تاویلات کا سہارا ڈھونڈ رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے، دال میں کچھ کالا کالا ہے۔

خلاصہ: یہ نکلا کہ حدیث قرع نعال حیات قبر بہ تعلق روح اور سماع موتی کی دلیل ہے کہ مردوں کو قبر و برزخ میں بہ تعلق روح ایک خاص قسم کی حیات حاصل ہوتی ہے

جس کی وجہ سے وہ عذاب وراحت کو محسوس کرتے ہیں اسی طرح مردے دفنا کر واپس جانے والوں کی جوتیوں کی چاپ بھی سنتے ہیں۔ کیپٹن صاحب کا تاویلات سے سہارا لینا اور کام چلانا خود غلط ہے اور خود اپنی تاویلات میں ایسا پھنس چکا ہے کہ مدفون مردہ کا حساب وکتاب تسلیم کرلیا اور سماع قرع نعال بھی مان لیا۔

مثال پنجم: مسلم غیر مسلموں کی تاویلات کا سہارا کیوں لیتا ہے

کیپٹن صاحب خواب میں زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو مسخ کرتا ہے بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

> انَّ اباهريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأني فى المنام فيرأني فى اليقظة ولايتمثل الشيطان بى.
>
> (بخاری، ج ۲ ص: ۱۰۳۵)
>
> ترجمہ: ''حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے جو کوئی خواب میں مجھ کو دیکھے وہ عنقریب مجھ کو بیداری میں بھی دیکھے گا اور شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا۔''

اور بخاری شریف کی ایک اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں "مَنْ رأني في المنام فقد رأني" جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے یقیناً مجھے دیکھا۔ اور بخاری شریف کی ایک اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں "مَنْ رَأنِیْ فَقَدْ رَایَ الحق" جس نے (خواب میں مجھ کو دیکھا اس نے سچ (مجھی) کو دیکھا۔

مذکورہ بالا احادیث صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص خواب میں حضور اکرم

صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے اس نے یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی کیونکہ شیطان لعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل نہیں بنا سکتا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر دھوکہ دے سکتا ہے لہٰذا ایسا خواب سچا ہے خواہ خواب دیکھنے والا صحابی ہو یا بعد کا کوئی اُمتی باقی رہا یہ اشکال کہ جن لوگوں نے عالم دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی تو ان کو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ جواباً عرض ہے کہ عالم دنیا میں جو لوگ مشہور ومعروف اور نامور ہوتے ہیں مثلاً ملک کا صدر، وزیر اعظم اور گورنر وغیرہ یا کوئی مشہور دینی شخصیت یا فن کا امام وغیرہ جس کے نام سے لوگ خوب متعارف ہوتے ہیں اگر ایسے شخص کا کسی ایسے علاقہ میں آنا ہو جس علاقے کے لوگوں نے اس کی شکل وصورت نہ دیکھی تو اس کی آمد کی وجہ سے ماحول کچھ ایسا بن جاتا ہے کہ نہ دیکھنے والے لوگوں کو اس شخصیت کی پہچان میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی بلکہ ہر شخص بآسانی معلوم کر لیتا ہے کہ یہ وہی شخصیت ہے جس کے نام سے ہم متعارف تھے اسی طرح جو خوش قسمت انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت باسعادت سے مشرف ہوتا ہے اس کو وہاں کا ماحول خود تعارف کرا دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی۔ لہٰذا یہ سوال فضول ہے کہ جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانے گا؟ بلکہ یہ شیطانی وسوسہ ہے کیونکہ جو اللہ خواب میں اپنے پیغمبر کی زیارت کرا سکتا ہے وہ تعارف بھی کرا سکتا ہے۔

وَمَاذٰلِکَ عَلَی اللّٰہِ بِعَزِیْزٍ.

اور انہیں مذکورہ بالا احادیث کے پیش نظر علماء اسلام کا عقیدہ ہے کہ جس شخص نے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اس نے یقیناً آپ کی زیارت

کی کیونکہ شیطان نہ آپ کی شکل بنا سکتا ہے نہ آپ کے نام پر دھوکہ دے سکتا ہے لیکن ان احادیث صحیحہ کے برعکس کیپٹن صاحب کا فاسد نظریہ ہے کہ جس شخص نے دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا وہ خواب میں آپ کی زیارت نہیں کر سکتا۔ چونکہ مذکورہ بالا حدیثیں کیپٹن کے نظریہ کو باطل گردانتی تھیں اس لئے ظالم نے اُن حدیثوں کے غلط معنی بیان کر کے ان کو مسخ کرنے کی ناپاک جسارت کی چنانچہ لکھتا ہے۔

''حدیث کے الفاظ میں ''مَن رَّانی ''یعنی جس نے مجھے دیکھا صاف بتلا رہے ہیں کہ یہاں وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا تھا۔ (یہ مزار یہ میلے، ص: ۱۳)

یہ ہے حدیث نبوی کی تحریف اور غلط معنی و مطلب جو کیپٹن صاحب نے بیان کیا یقین جانیئے جس شخص کو عربی زبان سے ذرا بھر بھی مناسبت ہوگی وہ بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ عربی گرامر کی رو سے یہ حدیث نبوی کا غلط معنی اور غلط مطلب ہے یہ مطلب تب درست ہوتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ ''من رأنی فی الحیوۃ الدنیا'' حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رانی جس نے بھی مجھے خواب میں دیکھا یقیناً اس نے مجھے دیکھا لہٰذا حدیث کا یہ معنی کرنا کہ جس نے دنیا میں مجھے دیکھا حدیث کی تحریف ہے اور حدیث کو مسخ کرنے کی ایک سازش ہے۔

مثال ششم: کیپٹن صاحب نے حدیث میں موجود لفظ تمائم کا غلط معنی کیا

ابوداؤد شریف کی ایک حدیث ہے:

﴿عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: انّ الرُّقی

والتمائم والتولہ شرکٌ﴾. (ابو داؤد جلد ۲ ص ۱۸۶)

ترجمہ: ''حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بے شک منتر، منکے اور ٹوٹکے شرک ہیں۔''

حدیث مذکورہ بالا میں تین چیزوں کو شرک کہا گیا ہے ان میں ایک تمائم بھی ہیں۔ یہ لفظ تمیمہ کی جمع ہے اس کے اصل معنی منکے کوڈامہ پتھر کے ہیں جن کو زمانہ جاہلیت کے لوگ موثر بالذات سمجھ کر گلے میں لٹکایا کرتے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تردید فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ منکے، پتھر وغیرہ گلے میں لٹکانا اور ان کو موثر سمجھنا شرک ہے۔ ہاں علماء اسلام نے فرمایا کہ اگر تعویذات معروفہ میں بھی شرکیہ کلمات لکھے ہوئے ہوں تو وہ بھی اس حدیث کی رُو سے ممنوع ہیں۔ لیکن وہ تعویذات جن میں قرآن وحدیث کی ادعیہ ماثورہ لکھی ہوئی ہوں ان کو آج تک کسی نے نہیں کہا کہ وہ اس حدیث کی رو سے شرک اور ممنوع ہیں۔ کیپٹن صاحب پہلا آدمی ہے جس نے اس حدیث کا معنی و مطلب تبدیل کر دیا ہے اور کہا ہے کہ تمائم کا معنی ہر قسم کا تعویذ ہے خواہ وہ قرآن وحدیث کا کیوں نہ ہو یعنی کیپٹن صاحب خود قرآن وحدیث کے تعویذات کو بھی شرک کہتا ہے۔ (دیکھئے تعویذات اور شرک، ص: ۴)

بہرحال تمائم کا معنی تعویذات کرنا صحیح نہیں ہے اور قرآن وحدیث کے تعویذات کو اس میں شامل کرنا بہت بڑی زیادتی بلکہ گمراہی ہے۔

قارئین کرام! یہ مثالیں بندہ عاجز نے بطور نمونہ کے آپ کی خدمت میں پیش کیں ورنہ اس کی درجنوں مثالیں میرے پاس موجود ہیں کہ کیپٹن صاحب نے

احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بگاڑ ا ان کے معنی و مطلب کو مسخ کیا۔ اور غلط مطلب بیان کر کے اردو خواندہ حضرات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے منحرف بنایا اور اس لئے کہ جب تک وہ قرآن و حدیث کا معنی تبدیل نہ کرے اس کا من مانا مطلب حاصل نہیں ہوتا۔

کیپٹن صاحب اللہ تعالیٰ کے نبی اور اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے

کیپٹن نے درجنوں آیات کی تحریف کر کے اللہ تعالیٰ اور اس کے کلام کی گستاخی کی ہے۔ بہت سی احادیث صحیحہ کو ضعیف کہہ کر اور ان کے اصلی معنی و مطلب کو تبدیل کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی حدیث کی گستاخی کی ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جنہوں نے اعادہ روح اور سماع موتی کی حدیثیں روایت کی ہیں ان پر شرک اور کفر کے فتوے لگا کر ان کی گستاخی کی ہے۔ تابعین کرام سے لے کر آج تک کہ تمام علماء اسلام کو دین اتحادی کا علمبردار کہہ کر منافقت کی تہمت لگائی ہے کیونکہ دین اتحادی عبداللہ بن سبا کے دین کو کہا جاتا ہے۔ لیکن بندہ عاجز ان سب کے علاوہ اس کی چند گستاخیاں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ چنانچہ یہ ظالم حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی آخری وصیت جس میں حیات میت ثابت ہے کا جواب دیتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا مرتکب ہوا۔ پہلے حضرت عمرو بن عاص کی حدیث سنیئے پھر اس ظالم کی نیش زبانی ملاحظہ فرمایئے۔

حدیث:

عن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ قال لابنہ و ھو فی سیاق الموت اذا انا مت فلا تصحبنی نائحۃ و لا نارٌ فاذا دفنتمونی فَشُنّوا علیّ التُّرابَ شنًّا. ثم اقیموا حول قبری قدر ماینحر جزور و یقسم لحمھا حتیٰ استانِسُ بکم و اَعْلَمْ مَاذَا اُرَاجِعُ بہ رُسُلَ ربی۔

(مشکوۃ ص: ۱۴۹، مسلم ج ا ص: ۷۶)

ترجمہ: ’’حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ جب موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا تھے تو اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرمانے لگے۔ جب میں مر جاؤں میرے جنازہ کے ساتھ بین کرنے والی عورت بھی نہ ہو اور آگ بھی نہ ہو اور جب مجھے دفن کر چکو اور میرے اوپر آہستہ آہستہ مٹی ڈالو، تو میری قبر کے ارد گرد اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر میں اونٹ ذبح کیا جاتا ہے اور اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے تا کہ میں تمہارے ساتھ مانوس ہو کر اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتوں کے سوال کا جواب معلوم کر سکوں۔‘‘

محترم قارئین! حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی روایت سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ انہیں قبروں میں جہاں اجساد عنصریہ مدفون ہیں نکیرین آتے ہیں اور میت سے سوال و جواب کرتے ہیں اور یہیں میت کو جزا و سزا دی جاتی ہے اور قبر کے ارد گرد کھڑے ہو کر میت کے حق میں دعا کرنے والوں کی دعا سے میت مانوس ہوتی ہے۔ میت کے اُنس کو صحابی رسول صلی الہ علیہ و

سلم نے واضح لفظوں میں ثابت کیا ہی اور یہ اُنس میت حیات قبر کی بہت بڑی وزنی دلیل ہے بہرحال یہ ایک صحابی کا نظریہ وعقیدہ ہے جب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وصیت فرمائی ہوگی لازما اس وقت کچھ لوگ وہاں موجود ہوں گے اور وہ صحابہ یا پھر تابعین ہوں گے کیونکہ انہیں کا دور تھا ان سب حضرات نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ونظریہ کو سنا لیکن کسی نے اس پر نکیر نہیں فرمائی۔ اعتراض نہیں کیا کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھول گیا کیونکہ اس زمین والی قبر میں حساب وکتاب نہیں ہوتا۔ حساب وکتاب تو کسی دوسری قبر میں ہوتا ہے اس دنیا والے جسم سے تو حساب نہیں لیا جاتا ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔ یقین جانیئے کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ کے عقیدہ پر کسی ایک نے وصیت سننے والوں میں سے نکیر نہیں فرمائی حالانکہ صحابہ کرامؓ اور بعد والے لوگوں میں نکیر کا عام رواج تھا جو ان کے مسلک کے خلاف ہوتی فورا نکیر فرماتے، دیکھئے جب حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قلیب بدر والی حدیث بیان فرمائی جس میں سماع موتی کا ثبوت ہے چونکہ یہ بات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اس وقت کے نظریہ کے خلاف تھی تو فورا نکیر فرمائی کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھولتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ قلیب بدر کے مردہ کافر اب جان رہے ہیں اور ان کو میری بات کی حقانیت معلوم ہو رہی ہے اس قسم کی کئی مثالیں حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں الغرض اس دور میں نکیر کا رواج عام تھا لیکن حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظریہ پر وصیت سننے والوں نے نکیر نہیں فرمائی تو معلوم ہوا کہ وصیت سننے والے سب کے سب اسی عقیدہ ونظریہ کے قائل تھے اسی لئے تو سکوت فرمایا اور نکیر نہیں فرمائی پھر وصیت کے مطابق ان کی قبر پر دعا کرائی گئی تو دفن کے وقت صحابہ وتابعین کا

جتنا مجمع موجود تھا تو ان سب نے وصیت کو سنا اور اس پر عمل ہوتا دیکھا لیکن انہوں نے بھی نکیر نہ فرمائی بلکہ سکوت کر کے تصدیق فرما دی تو معلوم ہوا کہ بوقت دفن جتنے صحابہ وتابعین موجود تھے۔ سب کا یہی عقیدہ ونظریہ تھا اگر کسی کا نظریہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہوتا تو وہ ضرور نکیر فرماتا۔ پھر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ وصیت اور ان کا یہ عقیدہ خیر القرون میں روایت ہوتا رہا اس کی نقل چلتی رہی لیکن خیر القرون کے دور میں کسی ایک صحابی یا تابعی یا تبع تابعی نے حیات قبر کا عقیدہ سن کر نکیر نہیں فرمائی۔ معلوم ہوا کہ خیر القرون کے تمام لوگ یہی عقیدہ رکھتے تھے کہ قبر میں میت کو خاص قسم کی حیات حاصل ہوتی ہے جس کی وجہ سے سوال وجواب بھی ہوتا ہے اور ثواب وعقاب بھی اگر کوئی شخص اس عقیدہ کا قائل نہ ہوتا تو وہ اس پر ضرور نکیر کرتا۔

پھر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی روایت وصیت اور حیات قبر کا عقیدہ محدثین، مفسرین اور فقہاء ومتکلمین تک پہنچا لیکن کسی نے ان کے عقیدہ حیات قبر پر نکیر نہیں فرمائی بلکہ سب حضرات نے اس قسم کی بیسیوں آیات واحادیث کو سامنے رکھ کر حیات قبر کا عقیدہ تسلیم کیا اور قبول کیا۔ چنانچہ محدثین کرام نے انہیں آیات اور احادیث کے پیش نظر اثبات عذاب قبر کے ابواب قائم کئے ہیں۔ اور مفسرین کرام نے “یثبت اللہ الذین آمنوا” وغیرہ آیات کے تحت عقیدہ عذاب قبر وحیات قبر کی حدیثیں جمع کیں اور متکلمین اسلام نے عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اعادۃ الروح فی القبر حق. عذاب القبر حق، سوال المنکر والنکیر حق اور فقہاء اسلام نے فقہ کی کتابوں میں یہ عقیدہ تسلیم کیا ہے۔ کہ وَمَنْ یعذب فی القبر فیوضع فیہ نوع من الحیوۃ” تو معلوم ہوا کہ اسلام کی پوری چودہ سوسالہ تاریخ میں کوئی ایسا

اہل علم نہیں گزرا جس نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اور وصیت پر اور ان کے عقیدہ حیات قبر پر نکیر فرمائی ہو۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ خیر القرون سے لے کر آج تک تمام مسلمانوں کا عقیدہ حیات قبر پر اتفاق اور اجماع چلا آ رہا ہے اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت اس عقیدہ پر بُرہان قاطع ہے۔

صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیپٹن صاحب کی گستاخانہ چڑھائی

آپ نے معلوم کر لیا کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی وصیت کو پوری امت نے تسلیم کیا۔ قبول کیا۔ اس پر عمل کیا اور اس کو قرآن وحدیث کے مطابق سمجھا۔ حتیٰ کہ ان کی حدیث کے شارحین مثلاً امام نووی وغیرہ نے اس حدیث کو پیش نظر رکھ کر ہر مردہ کو دفن کرنے کے بعد اس کی قبر کے اردگرد کھڑے ہونے اور اس کے لئے دعا مغفرت کرنے کو مستحب قرار دیا اور انس میت کو ثابت شدہ حقیقت تسلیم کیا کسی ایک فرد بشر نے ان کی وصیت کو قرآن وحدیث کے خلاف نہیں کہا لیکن چودھویں صدی کے ایک ملحد اور زندیق نے اس حدیث کو اپنے الحاد و زندقہ کے خلاف سمجھ کر اس پر گستاخانہ چڑھائی کر دی اور اس مسلمہ حقیقت کو قرآن و حدیث کے خلاف کہا حتیٰ کہ یہاں تک نوبت پہنچا دی کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی اس آخری وصیت کی حیثیت وہی ہے جو ایک عام مریض کو پیش آتی ہے کہ شدت مرض کی وجہ سے اس کا دماغ فیل ہو جاتا ہے اور عقل خراب ہو جاتی اور وہ اس ہیجانی کی حالت واہی تباہی بکتا ہے اور ادھر ادھر کی ہانکتا ہے جیسے ہم سرائیکی زبان میں بڑدول کہتے ہیں کیونکہ مریض ایسی حالت میں معذور سمجھا جاتا اسلئے اس کی ہانکی ہوئی باتوں کا اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ کیپٹن زندیق

صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہی سوءِ ظن رکھتا ہے اور ان کی وصیت کو یہی حیثیت دیتا ہے۔ اب اس ظالم کی گوہر افشانی سینہ پر ہاتھ رکھ کر سنیئے۔ لکھتا ہے۔

‘‘مسلم کی اس حدیث سے جس میں یہ ہے کہ عمرو بن العاص پر جب سکرات موت کا عالم طاری تھا (وھو فی سیاق الموت) توانہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمرو (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کو وصیت کی کہ مجھ پر مٹی ڈالنے اور دفنانے کے بعد کچھ دیر میری قبر کے پاس ٹھہرے رہنا تا کہ میں تمہاری موجودگی کی وجہ سے مانوس رہوں اور مجھے معلوم رہے کہ اپنے رب کے رسولوں (فرشتوں) کو کیا جواب دوں الفاظ ہیں: **ثم قوموا حول قبری قدر ماینحر جزور و یقسم لحمھا حتیٰ استانس بکم واعلم ماذا اراجع به رُسُلَ ربی.**

یہ سکرات الموت کے وقت کی بات ہے جیسا کہ اسی حدیث کے الفاظ ہیں ھو فی سیاق الموت ایسے وقت کی بات جب آدمی اپنے آپ سے نہ ہو قرآن وحدیث کے نصوص کو کیسے جھٹلا سکتی ہے۔ (عذاب برزخ ص:۱۹)

دیکھئے یہ ظالم اپنے غلط نظریہ کو تحفظ دینے کے لئے ایک جلیل القدر صحابی پر کیسی تہمت لگا رہا ہے اور کتنا شرمناک الزام تراش رہا ہے کہ شدت مرض کی وجہ سے وہ آپے سے باہر ہو گئے تھے یعنی ان کا دماغ خراب ہو گیا تھا اور ان کے منہ سے قرآن وحدیث کو جھٹلانے والی باتیں نکل گئیں۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ دوسرے لفظوں میں جو کچھ ایک جلیل القدر صحابی نے فرمایا وہ ایک پاگل کی بڑبڑاہٹ، واہی تباہی بات اور بڑدول تھا جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ تھا، معاذ اللہ۔

صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کونسی بات قرآن وحدیث کے خلاف ہے

حقیقت یہ ہے کہ کیپٹن صاحب اپنے غلط عقیدہ کی حمایت وحفاظت میں مکمل پاگل ہو چکے ہیں اور آپے سے بھی بالکل باہر ہو چکے ہیں اس کی یہ تمام باتیں واہی تباہی اور پاگل کی بڑبڑاہٹ سے بھی زیادہ ہیں اور جو کچھ اس نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لکھا وہ بڑدول ہی بڑدول ہیں حدیث میں آرہا ہے کہ مؤمن مؤمن کا آئینہ ہے تو دراصل اس ظالم کو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم والے آئینہ میں اپنی مکروہ شکل نظر آئی تو اس نے بڑبڑانا شروع کر دیا اور یہ نہ سمجھا کہ یہ تو میری اپنی شکل اور میری اپنی بڑبڑاہٹ ہے اور میں آپے سے باہر ہو چکا ہوں تو اس غلط فہمی میں ظالم نے حضرت عمرو بن عاصؓ پر گستاخانہ چڑھائی کر دی ورنہ حضرت عمرو بن عاصؓ نے جو کچھ فرمایا وہ قرآن وحدیث کے عین مطابق ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے جنازے کے ساتھ آگ اور بین کرنے والی عورت نہ ہو۔ کون ظالم ہے جو کہے کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات آپے سے باہر ہو کر کہی یا ان کی یہ بات خلاف شریعت ہے۔ خود کیپٹن صاحب بھی تسلیم کرے گا۔ یہ باتیں شریعت کے عین مطابق ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ بندہ عاجز نے یہ حدیث مشکوٰۃ شریف سے نقل کی ہے جو مختصر ہے ورنہ دراصل یہ حدیث مسلم شریف کی ہے اور وہاں یہ حدیث بڑی طویل ہے اور اس طویل حدیث میں جو کچھ بھی حضرت عمرو بن عاصؓ نے اپنی مرض وفات میں اگرچہ قریب المرگ تھے لیکن ان کے ہوش وحواس درست تھے ان کی عقل ٹھکانے تھی وہ آپے سے باہر نہیں تھے اور جو کچھ اس وقت فرمایا وہ سب

کچھ شریعت کے مطابق تھا اور قرآن وحدیث کے موافق تھا۔ اسی طرح ان کا یہ فرمانا کہ میری قبر کے اردگرد کھڑے ہو کر میرے لئے دعا واستغفار کرنا اور میری ثابت قدمی کی دعا کرنا تاکہ میں تم سے مانوس رہوں اور فرشتوں کے سوالوں کا جواب معلوم کر سکوں بھی قرآن وحدیث کے نصوص کے مطابق ہے کیونکہ یہ بات باحوالہ گزر چکی ہے کہ کیپٹن صاحب نے مدفون مردوں کے پاس فرشتوں کا آنا اور علم میت تسلیم کر لیا ہے تو معلوم ہوا کہ حضرت عمرو بن عاصؓ کی ہر بات قرآن وحدیث کے مطابق ہے اور اتنی مطابق کہ خود کیپٹن صاحب بھی اسے تسلیم کر چکے ہیں اور اس کے باوجود بھی کہنا کہ حضرت عمرو بن عاصؓ آپے سے باہر ہو گئے تھے اور قرآن وحدیث کو جھٹلانے والی باتیں کرتے تھے زندقہ والحاد سے کمتر نہیں ہے بلکہ اس سے بھی بدتر ہے کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دفن کے بعد قبر پر دعا واستغفار نہیں فرمایا کرتے تھے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو میت کی ثابت قدمی کی دعا کا حکم نہیں فرمایا کرتے تھے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ مردہ دفنانے والوں کی جوتیوں کی چاپ سن رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس حساب وکتاب والے فرشتے آجاتے ہیں؟

اگر یہ سب کچھ حقیقت ہے تو ہمیں بتایا جائے کہ حضرت عمرو بن عاصؓ کی کونسی بات قرآن وحدیث کے نصوص کے خلاف ہے جس کو یہ ملحد اور زندیق بڑبڑاہٹ کہہ کر ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے اور کفر بکتا ہے۔

رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر کیپٹن کا گستاخانہ حملہ

خاکم بدہن۔ ’’نقل کفر کفر نباشد‘‘ اس ملحد زندیق نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے متعلق جو کچھ کہا ہے کہ وہ شدت مرض کی وجہ سے آپے سے باہر ہو گئے

تھے یعنی ان کے ہوش وحواس ٹھکانے نہ تھے جس کی وجہ سے ان کے منہ سے قرآن و حدیث کو جھٹلانے والی باتیں نکل گئیں یہ ظالم جاہل خود رحمت کائنات فخر موجودات سید السادات کی ذات اقدس کے متعلق بھی یہی تصور رکھتا ہے کہ جو کچھ حضرت عمرو بن عاص ؓ کے منہ سے نکلا وہی کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے بھی نکلا ہے اور مرض وفات میں جو حالت حضرت عمرو بن عاص ؓ کی بیان کی وہی حالت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سمجھتا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ چنانچہ لکھتا ہے۔

”خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ قرطاس کو نگاہ میں رکھنا مناسب ہے۔ بخاری روایت کرتے ہیں کہ وفات سے چار دن پہلے یعنی جمعرات کے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کی شدت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کتاب لاؤ میں تمہارے لئے وہ لکھ دوں کہ تم کبھی گمراہ نہ ہو تو بعض صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جن میں عمر بن خطاب ؓ بھی شامل تھے کہا کہ آپ پر مرض کی شدت کی وجہ سے الجھن اور پریشانی کی کیفیت طاری ہے اسی کے زیر اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں اس لئے لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے الفاظ یہ ہیں: **اھجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (نسخۃ البخاری جلد) عربی اور حاشیہ ۴ و فی بعضھا اھجر من باب الافعال یعنی اَھْجَرَ)** عذاب برزخ ص: ۱۹ کیپٹن صاحب مزید لکھتا ہے۔

> ○ ”وفات سے چار دن پہلے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کی وجہ سے بحرانی کیفیت طاری ہو سکتی ہے تو کیا عمرو بن العاص ؓ پر اس وقت جب کہ وہ عین سکرات کی حالت میں ہوں۔ طاری نہیں ہو سکتی اور وہ ایسی بات نہیں کہہ سکتے اگر پورے ہوش و

> حواس میں ہوتے تو کبھی نہ کہتے۔ (عذاب برزخ، ص: ۲۰)

قارئین کرام! اس ظالم کی ناپاک جسارت کو دیکھئے کہ کس بے حیائی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقل وشعور پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک و معصوم پیغمبر کے متعلق یہ نظریہ رکھنا کہ تو بہ نعوذ باللہ آپ آخری وقت آپے سے باہر ہو گئے اور آپ کے منہ مبارک سے ایسی بات نکل گئی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے ہوش وحواس میں ہوتے تو وہ بات منہ سے نہ نکلتی۔ اس سے بڑھ کر کون سی گستاخی ہو گی جس کا کیپٹن صاحب نے ارتکاب کیا اور اس سے بڑھ کر کون سا کفر ہو گا جو اس کے منہ سے نکلا۔ کیا یہی اسلام ہے کہ پیغمبر اسلام مرض وفات میں آپے سے باہر ہو گئے تھے؟ کیا یہی توحید ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے قرآن وحدیث کے خلاف بات سرزد ہوئی؟ خدارا یہ کونسا اسلام ہے اور کونسی توحید ہے جس سے پیغمبر اسلام کی گستاخی کی جسارت ہوتی ہے۔

اھجر استفھموہ کا معنی ومطلب

کیپٹن صاحب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو یہ تصور قائم کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدت مرض کی وجہ سے آپے سے باہر ہو گئے تھے اور آپ کی زبان مبارک سے وہ بات نکل گئی جو قرآن وحدیث کے خلاف تھی اگر آپ بدرستی ہوش وحواس ہوتے تو یہ بات نہ فرماتے۔ اس کے اس غلط تصور کی عمارت اس پر قائم ہے کہ انہوں نے حدیث بخاری کے لفظ۔ اھجر کا غلط معنی سمجھا اور غلط مطلب بیان کیا۔ اس زندیق نے اس لفظ کا معنی بہکی بہکی باتیں سمجھا حالانکہ یہ معنی ومطلب مراد نہیں ہے کیونکہ یہ معنی شان نبوت کے خلاف ہے اور قرآن وحدیث کی دیگر نصوص کے بھی خلاف ہے۔ بلکہ علماء اسلام نے اس حدیث کے کئی معانی بیان فرمائے ہیں جو

ایک پیغمبر کی شان کے مطابق ہیں چنانچہ اس لفظ کا معنی دنیا کو خیر باد کہنے اور چھوڑنے کا ہے چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض وفات میں کاغذ طلب کیا اور فرمایا کہ میں ایک ایسی چیز لکھ دوں تا کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔

تو اس وقت جو حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے ان میں اختلاف ہوا حضرت عمرؓ اور بعض دیگر حضرات کی رائے تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں ہیں لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تکلیف نہ دی جائے۔ ان حضرات کے سامنے قرآن مجید کی وہ آیات تھیں جن میں پایا گیا ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ ظاہر ہے جب دین مکمل ہے تو کوئی ایسی نئی اور اہم بات نہ ہوگی جو پیغمبر اسلام لکھنا چاہتے ہیں وہ ہوگی تو تاکید ہی ہوگی کہ دین اسلام پر مضبوطی سے قائم رہنا۔ عمل کرنا وغیرہ وغیرہ اور یہی تاکید خود قرآن مجید میں پہلے سے بھی موجود ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کئی دن تک زندہ رہنے کے باوجود کاغذ کا مطالبہ نہ کرنا بھی ان حضرات کے موقف کی تائید کرتا ہے ورنہ اگر کوئی نیا حکم ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے روکنے سے نہ رُکتے بلکہ ضرور کاغذ طلب فرما کر لکھتے کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا۔ **یاایھا الرسول بلغ ماانزل الیک.** تو جن حضرات کا موقف یہ تھا کہ کاغذ لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دی جائے جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے تو انہوں نے فرمایا **حسبنا اللہ کتاب** یعنی ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے اور جو تاکید آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا چاہتے ہیں وہ اللہ کی کتاب میں موجود ہے گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کو پسند فرمایا اسی لئے خاموشی اختیار کی اسی وجہ سے علماء اسلام نے یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقات میں سے شمار کی ہے۔ اور بعض دوسرے حضرات کاغذ لانے کی رائے رکھتے تھے۔ البتہ دونوں جانب سے چونکہ آواز اٹھی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہ فرمایا کیونکہ مریض کی طبیعت ایسے شور و آواز کی متحمل نہیں ہوتی تو فرمایا کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاغذ لاؤ میں وصیت لکھ دوں تو بعض حضرات نے یہ سن کر کہا. **اھجر استفھموہُ** یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے خیر باد کرنے والے تو نہیں؟ حدیث کے لفظ کا یہ معنی بخاری شریف کے حاشیہ پر لکھا ہوا ہے جہاں سے کیپٹن صاحب نے یہ حدیث نقل کی ہے۔ اور اس حدیث کے علماء اسلام نے کئی اور معانی بھی بیان کئے ہیں وہ معانی بھی بخاری شریف کے حاشیہ پر لکھے ہوئے ہیں لیکن وہ سب معانی وہ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شایان شان ہیں. **اھجر.** کا جو معنی کیپٹن صاحب نے لیا ہے وہ اس لئے بھی غلط ہے کہ اس سے آگے۔ **استفھموہُ۔** لفظ موجود ہے جس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو۔ اور ظاہر ہے کہ جس شخص کے متعلق یہ فرض کر لیا جائے کہ وہ مغلوب العقل ہو کر آپے سے باہر ہو چکا ہے اور بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے تو اس سے پوچھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ وہ تو آپے سے باہر ہو کر بڑبڑا رہا ہے، اس سے خاک پوچھا جائے گا تو یہاں صحابہ کرام کا یہ کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو دلیل ہے اس بات کی کہ یہاں ھجر کا وہ معنی بن نہیں سکتا جو کیپٹن صاحب نے مراد لیا ہے۔

کیپٹن کی دورنگی چال صحابہ کرام پر ایک طرف الزام، دوسری طرف دفاع

کیپٹن صاحب کی دورنگی چال ملاحظہ فرمائے کہ ایک طرف تو. **اَھَجَرَ.** کا

غلط معنی یعنی بہکی بہکی باتیں کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین پر الزام لگایا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہی تصور رکھتے تھے حالانکہ یہ بات ان نفوس قدسیہ کے خواب وخیال میں نہ تھی اور دوسری طرف ان حضرات کی طرف سے دفاع شروع کر دیا کہ وہ منکر حدیث یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بلاوجہ چھوڑنے والے نہ تھے بلکہ ایک خاص علت (شدت مرض کے زیر اثر بحرانی کیفیت) کی وجہ سے آپ کی بات کو نہیں مانا۔ چنانچہ لکھتے ہیں۔

''اللہ کا شکر ہے کہ بخاری نے یہ بات لا کر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے دشمن ان سارے لوگوں کا منہ بند کر دیا جو کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے منکر حدیث ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ان کی بات ماننے کے بجائے اپنی چلاتے تھے۔ بخاری نے دکھا دیا کہ اس موقع پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا ایک علت کی وجہ سے تھا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کہ مشرکوں کا اصرار ہے کہ محمد بن عبداللہ لکھا جائے اور حدیبیہ کے اس صلح نامے میں محمد رسول اللہ نہ لکھا جائے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح نامہ میں لکھے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ مٹانے سے انکار کر دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے ان کے اور بہت سے موافقات میں سے ایک موافقہ شمار کی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اکثر علماء کا فیصلہ ہے کہ جس معاملہ میں وحی نازل نہ ہوئی ہو اس میں ایسی بات ہو سکتی ہے۔ (عذاب برزخ ص:۱۹ حاشیہ:۱)

دیکھئے ایک طرف تو صحابہ کرام کا دفاع کر رہا ہے کہ وہ حدیث کو ماننے والے تھے منکر حدیث نہ تھے ان حضرات کا کاغذ نہ لانا ایسا تھا جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح نامہ حدیبیہ میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مٹانے سے انکار کر دیا تھا اور دوسری طرف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین پر الزام لگا دیا کہ وہ

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ تصور رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت مرض کے زیر اثر ایسی باتیں کیں کہ اگر ہوش وحواس درست ہوتے تو نہ کرتے یعنی بہکی بہکی باتیں۔ حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے متعلق ایسا کوئی تصور نہ تھا کیپٹن نے حضرات صحابہ کرامؓ پر جھوٹا الزام لگایا اگر اس ملحد کے الزام کو درست مان لیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالات سے متاثر ہو کر ایسی ویسی باتیں کرتے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات اور ہر حدیث سے اعتماد اٹھ جاتا ہے کہ شاید یہ بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرانی حالت میں فرمائی ہو اور وہ بات بھی بحرانی کیفیت میں فرمائی ہو۔ لہٰذا کیپٹن صاحب کا نظریہ پیغمبر اسلام کی ہر بات سے اعتماد کو ختم کرنے والا ہے لہٰذا مردود ہے کتاب وسنت اور اجماع امت سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالات کے زیر کبھی بھی ایسی ویسی باتیں نہیں فرمایا کرتے تھے آپ کی زبان فیض ترجمان سے کبھی غلط بات نہیں نکلی اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایسی ایسی باتوں سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرماتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے:

> "عن عبدالله بن عمروؓ قال كنت اكتب كل شئي اسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم اريد حفظه فنهتني قريش" و قالوا أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا و امسكتُ عن الكتاب فذكرت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاوماباصبعه الى فيه فقال: أكتبْ فوالذي نفسي بيده مايخرج منه الاحق. (ابوداؤد ج۲ ص: ۱۵۸)

ترجمہ: ''حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں جو کچھ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا، اسے لکھ لیا کرتا تھا۔ میرا مقصد ان کو یاد کرنا تھا۔ تو قریش نے مجھے روک دیا اور انہوں نے کہا تو جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا ہے اسے لکھ لیتا ہے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں رضا اور ناراضگی کی حالت میں بھی باتیں فرماتے ہیں۔ (شاید بعض باتیں ایسی ہوں جو لکھنے کے قابل نہ ہوں) تو میں لکھنے سے رک گیا پھر میں نے اسی چیز کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا مجھے اس ذات پاک کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس سے بجز حق کے کوئی بات نہیں نکلتی۔''

قارئین کرام! حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے واضح لفظوں میں قسم اٹھا کر فرماتے ہیں کہ میرے منہ سے سوائے کلمہ حق کے کوئی اور بات نہیں نکلتی لیکن کیپٹن زندیق یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ پیغمبر اسلام حالت بحرانی میں چلے جاتے تھے اور بہکی بہکی باتیں کرتے تھے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتوں سے پاک اور منزہ ہے اور ان کے متعلق اس قسم کا تصور رکھنا سنگین ترین گستاخی ہے۔ اعاذنا اللہ منہ۔

کاغذ نہ دینے کی علت کیا تھی؟ بحرانی حالت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام پہنچانا

گزشتہ اوراق میں یہ بات کیپٹن مسعود کے حوالہ سے گزر چکی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند دیگر حضرات کا کاغذ نہ دینے کا مشورہ ایک عات کی وجہ سے تھا لیکن سوال ہوتا ہے کہ وہ علت کیا تھی کیپٹن تو کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بحرانی کیفیت طاری تھی نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپے میں نہ تھے ایسی باتیں کر رہے تھے تو اگر آپ پورے ہوش وحواش میں ہوتے تو نہ کرتے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جن حضرات نے کاغذ نہ دینے کا مشورہ دیا ان حضرات کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آرام وسکون تھا تا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف مزید نہ دی جائے۔

کیپٹن نے سیاق الموت کا ترجمہ سکرات الموت کیوں کیا؟

یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ حضرت عمرو بن عاص نے مذکورہ بالا وصیت اس وقت فرمائی تھی جب آپ قریب المرگ تھے یا یوں کہئے کہ موت وحیات کی کشمکش میں تھے لیکن کیپٹن صاحب نے سیاق الموت کا ترجمہ سکرات الموت کیوں کیا؟ حالانکہ سیاق الموت بھی عربی کا لفظ ہے اور سکرات الموت بھی عربی کا لفظ ہے ان کو چاہئے تھا کہ اس کا معنی اردو زبان میں کرتے کیونکہ وہ اردو میں ترجمہ کر رہے تھے لیکن اردو کی بجائے عربی کا لفظ کیوں استعمال کیا؟

وجہ یہ ہے کہ وہ ظالم اردو خواندہ حضرات کو دھوکہ دینا چاہتا ہے کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وصیت فرمائی اس وقت ان کو سکرات لگی

ہوئی تھی وہ سکرات کی موت مر رہے تھے اور سکرات کی وجہ سے وہ آپے سے باہر تھے ان کے ہوش وحواس ٹھکانے نہ تھے اسی لئے انہوں نے جو وصیت کی وہ قرآن و حدیث کی نصوص کے خلاف ہے اور ناقابل قبول ہے کیونکہ ہمارے عرف میں سکرات کی موت کو خطرناک اور زبردست تکلیف دہ سمجھا جاتا ہے حتیٰ کہ دعا مانگی جاتی ہے کہ اے اللہ ہمیں سکرات کی موت سے بچانا جبکہ عربی زبان میں سکرات مطلق موت کی تکلیف کو کہا جاتا ہے نہ کہ کسی مخصوص قسم کی موت کو تو اس زندیق نے سیاق الموت کا معنی سکرات الموت کر کے اردو خواندہ لوگوں کو تاثر دیا کہ حضرت عمرو بن عاص کو کوئی خاص قسم کی موت آئی جو خطرناک تھی جس کی وجہ سے وہ آپے میں نہ رہے اور ایسی ویسی باتیں کیں جن کا کوئی اعتماد نہیں ہے۔ اسی دھوکہ کی خاطر عربی کا ترجمہ عربی میں کیا اردو میں نہ کیا اور ساتھ ساتھ ایک جلیل القدر صحابی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور گستاخی بھی کر دی۔

خلاصہ یہ کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موت کی تکلیف کی وجہ سے آپے سے باہر نہیں ہوئے تھے اور نہ ہی ان کے منہ سے کوئی ایسی ویسی بات نکلی تھی جو قرآن وحدیث کی نصوص کے خلاف ہو یا کوئی ایسی بات سرزد ہوئی ہو کہ بحالت درستی ہوش وحواس سرزد نہ ہوتی۔ یہ سارا تصور کیپٹن مسعود کا خود ساختہ وخود پرداختہ ہے. أولئک مُبرّءُوْنَ ممایقولون .

ایک اور گستاخی:

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا یقیناً اس نے مجھے دیکھا کیونکہ شیطان میری شکل وصورت نہیں بنا سکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ

شیطان لعین کسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر دھوکہ نہیں دے سکتا یعنی نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بنا سکتا ہے اور نہ ہی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نبی محمد رسول اللہ ہوں۔ لیکن کیپٹن صاحب کا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرمایا ہے کہ شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا اور یہ تو نہیں فرمایا کہ وہ خواب میں آ کر دھوکہ نہیں دے سکتا کہ میں تمہارا نبی محمد رسول اللہ ہوں۔ یعنی ایسا وہ کر سکتا ہے۔ چنانچہ کیپٹن لکھتا ہے۔

”دوسری بات اس حدیث میں یہ ہے کہ شیطان میری شکل وصورت اختیار نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ مجھے زندگی میں نہ دیکھنے والوں کو وہ خواب کے ذریعہ دھوکہ میں نہیں ڈال سکتا اور کسی دوسری صورت کے ذریعہ نہیں کہلوا سکتا کہ میں تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں تا کہ وہ شخص جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہے اس کے فریب میں آ جائے۔“ (یہ مزار یہ میلے ص:۱۳)

قارئین کرام! آپ مذکورہ عبارت میں غور فرمائیں کیپٹن عثمانی اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہے کہ شیطان بعد میں آنے والے لوگوں کے پاس کسی اور صورت میں آ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں تا کہ ان کو دھوکہ میں مبتلا کر دے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔

حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا صاف مطلب یہ ہے کہ شیطان نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بنا سکتا ہے اور نہ آپ کے نام پر دھوکہ دے سکتا ہے اور کیپٹن صاحب کا یہ نظریہ درحقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلم کھلا گستاخی اور توہین ہے۔

کیپٹن عثمانی احادیث نبویہ پر اعتراض بازی کرتا ہے

احادیث صحیحہ میں وارد ہے کہ میت کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے لیکن کیپٹن صاحب کا اس پر ایمان نہیں ہے اس حدیث پر اعتراض بازی کرتے ہوئے لکھتا ہے:

> "ہر ایک جانتا ہے کہ کتنوں کو جلا کر راکھ کر دیا جاتا ہے۔ کسی کو درندہ ہڑپ کر جاتا ہے اور کوئی مچھلیوں کے منہ کا نوالہ بن جاتا ہے آخر ان مرنے والوں کو کیسے اٹھا کر بٹھایا جائے گا۔ کیسے سوال وجواب ہوگا اور کس طرح ان پر عذاب وراحت کا دور قیامت تک گزرے گا۔" (عذاب برزخ، ص:۴)

اور ایک دوسرے مقام پر لکھتا ہے:

"اگر کہا جائے کہ مردہ کا جسم ریزہ ریزہ ہو جائے یا آگ اسے جلا کر خاکستر کر دے تو جلا دیا جانے والا کافر تو عذاب سے بچ گیا۔ اس کے دونوں کانوں کے درمیان گرز کیسے مارا جائے گا اور عذاب کا دور اس پر کیسے گزرے گا تو اللہ کی قدرت اور انَّ اللّٰہ علی کل شئی قدیر کا سہارا لیا جاتا ہے۔" (عذاب برزخ ص:۱۰)

مزید لکھتا ہے:

> "اب جس کافر کو جلا کر راکھ کر دیا جائے یا صرف اس کے جسم کے بعض ٹکڑوں ہی کو دفن کیا گیا ہو اس کو کیسے اٹھا کر بٹھایا جائے گا وہ کیسے چاپ سنے گا اور کیسے اس کے کانوں کے درمیان گرز کی چوٹ لگائی جائے گی اور کیا ایک کافر جس کو جلا دیا گیا ہے قیامت تک اس عذاب سے بچا رہے گا۔" (عذاب برزخ ص:۱۰)

مزید لکھتا ہے:

> "قرآن وحدیث کی اس کھلی شہادت کے بعد قیامت تک اس قبر دنیا کے مردہ پر عذاب وراحت کا دور کیسے گزرے گا کافر گرز کی مار کے بعد کیسے چیختا رہے گا۔ کان کہاں ہوں گے جو زیارت کرنے والے مومن کا سلام سنیں اور زبان کہاں ہوگی کہ جواب دے۔ آنکھیں کس طرح دیکھیں گی اور گھر والوں کے اعمال کس کے اوپر پیش کیے جائیں گے۔" (عذاب برزخ: ص۱۶)

قارئین کرام! یہ ہے کیپٹن صاحب کی احادیث نبویہ پر اعتراض بازی اور یہ ہیں ان کے دلائل جن کی بنیاد پر وہ قرآن وحدیث کے نصوص کو رد کرتا ہے۔ انکار کرتا ہے اور اعتراض کرتا ہے۔ کون بتائے اس جاہل کو کہ اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان، پہاڑ اور دوزخ سے باتیں کی ان بے جان چیزوں نے اللہ تعالیٰ کی کلام کو سنا اور جواب دیا۔ حالانکہ زمین وآسمان اور پتھر وپہاڑ اور دوزخ وغیرہ کے نہ کان ہیں نہ زبان۔ اسی طرح بروز قیامت انسان کے اعضا بولیں گے۔ گواہی دیں گے حالانکہ نہ ان کے کان ہیں نہ زبان، یہ جاہل قرآن کا مدعی ہے لیکن قرآن کو نہ جانتا ہے نہ مانتا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کو کدھر کرے گا۔ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء آپ خود انصاف فرمائیں کہ جو شخص احادیث پر اتنی اعتراض بازی کر رہا ہے وہ کہاں کا مسلم ہے اور کیسا مومن؟ سوائے زبانی جمع خرچ کے کچھ بھی نہیں بخاری وغیرہ میں قبر کی وسعت کا ذکر ہے حتی کہ بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ نیک آدمی کی قبر حد نگاہ تک فراخ کر دی جاتی ہے تو اس حدیث پر اعتراض بازی کرتے ہوئے لکھتا ہے:

> "اس زمین کے حدود اربعہ میں اس تغیر کی گنجائش کہاں۔"

(عذاب برزخ، ص: ۱۸)

مسلم شریف کی ایک حدیث پر اعتراض بازی کرتے ہوئے لکھتا ہے:

''نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند مشرکوں کی قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر بھاگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ قبریں کن لوگوں کی ہیں؟ بتایا گیا کہ مشرکوں کی۔ اس حدیث سے یہ نکالا جاتا ہے ان مشرکوں پر ان کی انہی دنیاوی قبروں میں عذاب ہو رہا تھا اور وہ چیخ و پکار کر رہے تھے اسی شور کی وجہ سے خچر بدکا تھا کتنے خچر گھوڑے اور گدھے آج بھی قبرستانوں میں چرتے پھرتے رہتے ہیں۔ ایک نہیں بھاگتا۔'' (عذاب برزخ، ص: ۱۸)

دیکھئے کس دریدہ وہنی سے یہ ظالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جھٹلا رہا ہے اس کو معلوم ہونا چاہئے کہ بعض اوقات آدمی کسی خیال میں ایسا محو ہوتا ہے کہ کسی واقعہ کے قریب سے گزر جاتا ہے لیکن اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی اور پوچھنے پر لاعلمی کا اظہار کرتا ہے اسی طرح جانور بھی اپنے چرنے پھرنے میں ایسے مصروف ہوتے ہیں کہ عذاب قبر کی طرف ان کا دھیان نہیں ہوتا اور بعض اوقات دھیان ہو بھی جاتا ہے چنانچہ امام ابن تیمیہ کے دور میں جس گھوڑے کا پیشاب بند ہو جاتا تو لوگ اس کو ایک مخصوص قبر پر لے جاتے تو گھوڑے کا پیشاب جاری ہو جاتا تھا اور گھوڑا ٹھیک ہو جاتا تھا تو لوگوں کی اس قبر والے کے ساتھ عقیدت ہو گئی اور اس کو بڑی شخصیت سمجھنے لگے کہ اس کی قبر کے پاس بیمار گھوڑے ٹھیک ہو جاتے ہیں تو امام ابن تیمیہ نے تحقیق فرمائی تو معلوم ہوا کہ وہ ایک رافضی کی ہے اور سب صحابہ کرام کی وجہ سے اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے اور بیمار گھوڑے کو جب اس قبر کے پاس لایا جاتا تو گھوڑا عذاب کی وجہ سے اتنا ڈرتا ہے کہ اس کا پیشاب نکل جاتا اور پیشاب کی بندش کی تکلیف دور ہو جاتی تھی

اور لوگوں نے سمجھ رکھا تھا کہ کسی نیک آدمی کی قبر ہے اور یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہے کہ فسق و فجور اور شرک و کفر کا دور دورہ ہے جن کو قبروں میں اکثر عذاب ہوتا رہتا ہے تو ہر روز عذاب دیکھتے دیکھتے جانور سہم چکے ہیں اس لئے بھاگتے نہیں۔ دیکھئے جن لوگوں کے گھر گاڑی کی لائن کے قریب ہیں ان کے کان گاڑی چلنے کی آواز سہہ چکے ہیں چنانچہ ان کی نیند خراب نہیں ہوتی لیکن اگر کوئی اور ان کا مہمان بن جائے تو اس کو پریشانی ہوتی ہے اور نیند بھی خراب ہو جاتی ہے۔ نیز پیغمبر اسلام کی سچی باتوں کو اس قسم کے وساوس کے ذریعہ رد کرنا پرلے درجے کی دین دشمنی اور ایمان سوزی ہے۔

ترمذی شریف کی ایک حدیث پر اعتراض بازی کرتے ہوئے کیپٹن لکھتا ہے:

> ''روایت کے آخری حصہ میں ہے کہ فجار اور کفار پر ستر اژدھے مسلط کر دیئے جاتے ہیں جو اس کو ڈستے اور جھنجھوڑتے رہتے ہیں اور ایسے زہریلے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک زمین میں پھونک مار دے تو قیامت تک زمین پر کچھ بھی نہ اُگے گا۔ اب دیکھئے کہ اس زمین میں کتنے فاجروں اور کافروں کی قبریں موجود ہیں اور ان کے کتنے اژدھے ہوں گے جو مردہ کو برابر ڈستے اور جھنجھوڑتے رہتے ہوں گے پھنکار مارنا تو معمولی بات ہے پھر بھی زمین پر سبزہ اگتا ہے اور درخت بھی۔ معلوم ہوا کہ اس روایت کی رو سے تو اس زمین میں یہ معاملہ نہیں ہو سکتا کہیں اور ہو گا۔'' (عذاب برزخ، ص ۲۲)

دیکھئے کس بے حیائی اور بے شرمی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر اعتراض بازی کر کے اس کو کمزور بنایا جا رہا ہے اور عام لوگوں کو اس سے بیزار بلکہ متنفر

بنا رہا ہے اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں کہ مردہ انسان پر جو اژدھے مسلط ہیں اور اسکو ڈستے ہیں اگر بالفرض کوئی اژدھا زمین پر پھونک مار دے تو زمین سبزہ اگانے کے قابل نہ رہے گی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زہریلے اژدھے صرف اور صرف مردے پر مسلط ہوتے ہیں اور اسی کو ڈستے ہیں وہ زمین پر پھونک نہیں مارتے اور نہ ان کو زمین پر پھنکارنے کا حکم ہے ہاں وہ اتنے زہریلے ہیں کہ اگر وہ زمین پر پھونک مار دیں تو زمین کھیتی اگانے کے قابل نہ رہے گی۔

چونکہ کیپٹن صاحب نے یہ بات از خود طے کر لی ہے کہ وہ زمین پر پھونک مارتے ہیں اور سبزہ بھی اگ رہا ہے تو اعتراض بازی شروع کر دی۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں فرمایا کہ وہ زمین پر پھونک مارتے ہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تو یہ ہے کہ وہ سخت زہریلے ہیں اور ان کی زہر کا اثر صرف اور صرف مردے تک رہتا ہے اگر ان کی زہر کا اثر زمین پر پڑ جائے تو وہ کھیتی کے قابل نہ رہے گی لیکن ان کی زہر کا اثر مردے تک رہتا ہے زمین پر نہیں ہوتا۔

کیپٹن صاحب سے ایک سوال

کیپٹن صاحب کے اقتباس کے آخری ٹکڑے پر ذرا توجہ فرمائیے لکھتا ہے:

"معلوم ہوا کہ اس روایت کی رو سے تو اس زمین میں یہ معاملہ نہیں ہو سکتا کہیں اور ہوگا" بندہ عاجز کیپٹن صاحب اور اس کے ماننے والوں سے سوال کرتا ہے ذرا مجھے بتا دیجئے کہ وہ برزخی زمین کہاں ہے جس میں پہلے غلہ، سبزہ اگتا تھا لیکن جب سے کافروں فاجروں پر مسلط ہونے والے اژدھوں نے اس زمین پر پھنکارنا شروع کیا اب وہ غلہ، سبزہ اگانے کے قابل نہیں رہی۔ یعنی پہلے وہ غلہ دیتی تھی اور اب نہیں

دیتی۔ مجھے اس کا ثبوت درکار ہے۔ امید ہے کہ تلاش شروع کر دیں گے۔ کیپٹن صاحب تو اپنے کفریہ عقائد کی وجہ سے یقیناً ایسی زمین میں پہنچ چکے ہیں لیکن بتا نہیں سکے البتہ اس کے ماننے والوں پر لازم ہے کہ وہ قرآن وحدیث سے ایسی زمین ثابت کر دیں کہ اس زمین کے علاوہ کوئی اور زمین ہے جو پہلے غلہ دیتی تھی اور اب غلہ نہیں دیتی۔ دیدہ باید

کیپٹن صاحب پوری امت مسلمہ کو کافر کہتا ہے

گزشتہ صفحات میں یہ بات باحوالہ گزر چکی ہے کہ کیپٹن صاحب کے نزدیک اصل دین اسلام پہلی صدی تک محدود رہا اس کے بعد عبداللہ بن سبا یہودی کا دین دین اتحادی، دنیا میں رائج ہوا چنانچہ دوسری صدی سے لے کر آج تک جو دین موجود ہے وہ بندوں کا ایجاد کردہ ہے۔ قرآن وحدیث کے دین سے بالکل الگ، یکسر ممتاز دین بندگی کے بجائے دین فدائی۔ (دیکھئے، ایمان، توحید خالص ص: ۸۵"
(نوٹ اس رسالہ پہلا نام توحید خالص دوسرا نام ایمان خالص ہے)

اس کے علاوہ بھی کیپٹن صاحب اپنے رسالوں میں بکثرت فتویٰ بازی کر کے امت مسلمہ کو اور جمہور علماء اسلام کو کافر اور مشرک کہتا ہے۔ مثلاً صحابہ تابعین، تبع تابعین اور تمام اہلسنت والجماعت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جب آدمی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور عالم قبر میں جا پہنچتا ہے تو قبر میں اس کے مردہ جسم کی طرف روح کا اعادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ نکیرین کے سوالات کو سنتا سمجھتا ہے اور جواب دیتا ہے۔ پھر قبر کی کارروائی کے لئے روح کا جسد کے ساتھ تعلق رہتا ہے اور وہ دکھ سکھ کو محسوس کرتا ہے چونکہ یہ ساری کارروائی پس پردہ ہوتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی اسی لئے قبر کو برزخ

بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ لیکن کیپٹن صاحب۔ اعادہ روح، تعلق روح اور دنیاوی جسد کی جزا وسزا میں شرکت کو شرک وکفر کہتا ہے چنانچہ لکھتا ہے:

''جس طرح عذاب قبر کا انکاری بہر حال ایماندار نہیں ہے اسی طرح جو یہ عقیدہ رکھے کہ اسی دنیاوی قبر کے مردہ میں روح واپس آ جاتی ہے۔ اس کو اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے سوال وجواب ہوتا ہے اور اب اسی پر قیامت تک دنیاوی قبر کے اندر عذاب یا راحت کا دور گزرتا رہے گا وہ بھی ایمان سے خالی ہے''۔ (عذاب برزخ ص:۲۵)

مزید لکھتا ہے:

''امام احمد بن حنبل، ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن کثیر ایک جم غفیر ہے۔ جو مردہ جسم میں قیامت سے پہلے روح کے واپس آ جانے کا قائل اور اسی دنیاوی قبر میں قیامت تک مردہ پر عذاب یا راحت کے سارے حالات کے گزرنے کا اقراری ہے یہ دونوں عقیدے جو قرآن اور حدیث کی تصدیق یا تکذیب کرتے ہیں ایک نہیں ان میں زمین وآسمان کی دوری اور ایمان وکفر کا فرق ہے ایک کا ماننے والا بہر حال دوسرے کا کافر ہے۔'' (عذاب برزخ، ص:۲۶)

دیکھیے: کیپٹن صاحب عذاب قبر بصورت اعادہ، تعلق روح کے قائلین کو کافر بنا رہا ہے اسی طرح جو مسلمان دنیا والے جسد کو قبر کی جزا وسزا میں شریک سمجھتے ہیں اور اسی زمین والی قبر میں حساب وکتاب کے قائل ہیں ان کو بھی کافر بناتا ہے حالانکہ قرآن وحدیث کی روشنی میں تمام صحابہ کرام اور خیر القرون اور پوری امت مسلمہ اس عقیدہ صحیحہ پر قائم ودائم چلی آ رہی ہے لیکن یہ ملحد ان عقائد کے عاملین پر شرک وکفر کی فتویٰ بازی کرتا ہے۔

اسی طرح پوری امت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات قبر اور سماع صلوٰۃ وسلام ''عند القبر الشریف'' کی قائل چلی آ رہی ہے اور اسی پر اجماع امت ہے لیکن یہ زندیق ان کو بھی کافر اور مشرک بناتا ہے۔ پوری امت مسلمہ فی الجملہ سماع موتی کی قائل چلی آ رہی ہے اگرچہ تفصیلات وجزئیات میں اختلاف ہے لیکن فی الجملہ سب مسلمان سماع موتی کے قائل چلے آ رہے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سماع میں تو کوئی اختلاف بھی نہیں ہے لیکن یہ ظالم قائلین سماع موتی پر فتویٰ بازی کر کے ان کو کافر اور مشرک بتاتا ہے۔

جمہور امت مسلمہ قرآنی تعویذات کو جائز قرار دیتی ہے اسی طرح جمہور علماء توسل بالانبیاء الصالحین کے قائل ہیں لیکن کیپٹن اس کو بھی شرک وکفر بتاتا ہے جمہور علماء امت کے نزدیک معلمین، مدرسین اور ائمہ مساجد کی تنخواہ جائز ہے۔ لیکن کیپٹن صاحب اس کو دین فروشی کہتے ہیں۔ الغرض عہد اول سے لے کر آج تک کوئی ایسا مسلمان نہیں گزرا جس کو یہ زندیق کسی نہ کسی وجہ سے کافر، مشرک اور دین فروش نہ کہتا ہو۔

کیپٹن صاحب سے ایک سوال

جب کیپٹن صاحب کے نزدیک کوئی مسلمان اس زمینی قبر میں عذاب بصورت اعادہ وتعلق روح کے قائل ہونے کی وجہ سے کافر ہے۔ کوئی دنیاوی جسد کے عذاب قبر میں شریک ہونے کی وجہ سے کافر ہے۔ کوئی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سماع النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قائل ہونے کی وجہ سے کافر ہے۔ کوئی توسل کی وجہ سے کافر ہے کوئی تعویذات قرآنیہ کے قائل ہونے کی وجہ سے کافر ہے۔ کوئی سماع موتی کی وجہ سے کافر ہے، تو ہمیں بتایا جائے کہ کون شخص ہے جو اس کی تکفیری

زبان سے محفوظ رہا ہو اور کون ہے جو اس کی فتویٰ بازی سے بچ گیا ہو۔ اسلام کی چودہ سو سالہ تاریخ میں کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہے جو ان تمام عقائد کا یا بعض کا قائل نہ ہو۔ تو معلوم ہوا ہے کہ کیپٹن صاحب پوری امت کو کافر بناتا ہے اور کسی ایک شخص کی بھی نشاندہی نہیں کر سکتا جس کو وہ بزعم خویش مسلمان سمجھتا ہو۔

کیپٹن صاحب اپنے اسلام اور قرآن کی سند بیان کرے

جب کیپٹن صاحب کے نزدیک کوئی مسلمان دنیا میں نہیں عہد اول سے لے کر آج تک کے سب لوگ عقائد فاسدہ کی وجہ سے کافر و مشرک چلے آرہے ہیں تو کیپٹن صاحب کے پاس اسلام اور قرآن کن ذرائع سے پہنچا۔ اگر کیپٹن صاحب کے پاس قرآن و حدیث اور دین اسلام انہیں لوگوں کے ہاتھوں پہنچا جن کو وہ خود کافر کہتا ہے تو اس قرآن اور اسلام پر کیا اعتماد ہے جو کفار کے ذریعہ ان تک پہنچا کیپٹن صاحب اپنے اسلام اور قرآن کی سند بیان کرے اور اپنی سند کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے، سند صحیح اور متصل ہو درمیان میں کوئی راوی جھوٹا نہ ہو، کیونکہ کیپٹن صاحب چودھویں صدی کا آدمی ہے، اس نے حضور ﷺ کا زمانہ نہیں پایا۔ نہ ہی اس نے خیر القرون کا زمانہ پایا نہ ہی ائمہ اربعہ کا دور دیکھا نہ ہی صحاح ستہ وغیرہ کتب حدیث کے مؤلفین کا زمانہ پایا نہ ہی اسماء رجال مثلاً علامہ ذہبی رحمہ اللہ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ وغیرہ سے اس کی ملاقات ثابت ہے۔ اس نے تو شاہ ولی اللہ کے خاندان کا زمانہ بھی نہیں پایا اس نے دیوبندی، بریلوی اور غیر مقلدین کے بڑے علماء سے بھی ملاقات نہیں کی اور باتیں ان سب کی کرتا ہے۔ کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی خیر القرآن کے صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کی کبھی بخاری مسلم وغیرہ محدثین کی کبھی۔

ابن حجر اور علامہ ذہبی وغیرہ کی کبھی شاہ ولی اللہ کے خاندان کی۔ اب یہ بتائے ان لوگوں کی باتیں آپ تک کیسی پہنچیں اور کن ذرائع سے پہنچیں۔ آخر کسی نے اس کو بتایا ہوگا کہ یہ فلاں کی بات ہے اور یہ فلاں کی بات ہے لہٰذا ہمیں بتائے کہ کس نے اس کو کہا کہ یہ فلاں فلاں کی باتیں ہیں کیپٹن صاحب اپنے علم کی سند بیان کرے انشاء اللہ بندہ عاجز آپ کو بتا دے گا کہ کیپٹن صاحب کے پاس معلومات پہنچانے والا خود کافر اور مشرک ہے۔ کیونکہ اس کے پاس معلومات پہنچانے والا یقیناً اعادہ روح، تعلق روح، حیات النبی، سماع النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قائل ہوگا یا سماع موتی، یا توسل بالصالحین کا قائل ہوگا یا تعویذات قرآنیہ کا قائل ہوگا یا تنخواہ لیتا دیتا ہوگا بہر حال ایسا ہوگا کہ کیپٹن صاحب کے نزدیک کافر ہوگا۔

شاید کیپٹن صاحب یہ کہے کہ میرے اسلام و قرآن کی کوئی سند نہیں ہے میں نے براہ راست کتابوں کو دیکھ کر علم حاصل کیا ہے تو سوال یہ ہے کہ وہ کتابیں کن ذرائع سے کیپٹن صاحب کی پاس پہنچی ہیں۔ کیپٹن صاحب کو کس نے بتایا ہے کہ یہ بخاری ہے یا مسلم ہے یہ ترمذی ہے یہ فلاں کی لکھی ہوئی کتاب ہے اور یہ فلاں کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ جو لوگ مصنفین کتب کے دور سے آج تک ہمیں یہ کہتے چلے آرہے وہ بھی تو کیپٹن صاحب کے نزدیک کافر ہیں۔ شاید کیپٹن صاحب یہ کہے کہ خود ان کتابوں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ فلاں کی کتاب ہے اور یہ فلاں کی ہے تو سوال یہ ہے کیپٹن صاحب کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ لکھا ہوا واقعی صحیح اور درست ہے کیونکہ کتابوں کو چھاپنے والے ان پر نام لکھنے والے بھی تو یہی لوگ ہیں جو کیپٹن کے نزدیک کافر ہیں یا پھر مجہول ہیں اور مجہول لوگوں کی روایت تو حجت ہی نہیں لکھنے والوں نے تو تورات، انجیل اور زبور پر بھی لکھ دیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں تو کیا صرف لکھا ہوا دیکھ

کیپٹن صاحب تصدیق کردیں گے کہ موجودہ تورات، انجیل، زبور اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں؟ لہٰذا کیپٹن صاحب اپنی علم کی سند بیان کرے کہ ان کو کن ذرائع سے قرآن و اسلام پہنچا تا کہ معلوم ہو کہ اس تک قرآن و اسلام پہنچانے والے کافر و مشرک تو نہیں مجہول راوی تو نہیں۔

یقین جانیئے اپنے علم اور کتابوں کی سند نہ تو کیپٹن بیان کرسکتا ہے اور نہ کوئی اس کا ماننے والا۔ اگر یہ لوگ اپنے علم اور کتابوں کے متعلق نہیں بتا سکتے کہ وہ ان تک کن ذرائع سے پہنچی ہیں تو ظاہر ہے کہ مجہول ذرائع سے ان تک علم اور کتابیں پہنچیں اور جب راوی مجہول ہوں تو روایت نا قابل قبول ہوتی ہے لہٰذا کیپٹن صاحب اور ان کے ماننے والوں کے پاس جو کچھ عقائد و مسائل ہیں ان کے راوی مجہول ہیں اور ان کی سب نظریات مردود ہیں۔

اور اگر اپنی کتابوں اور علم کی سند بیان کریں تو بجا طور پر راوی تو معلوم ہو جائیں گے لیکن وہ کیپٹن صاحب کے نزدیک کافر و مشرک ہوں گے کیونکہ وہ جو بھی ہوں گے اسی زمین والی قبر کی جزا و سزا کے قائل ہوں گے۔ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سماع النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قائل ہوں گے یا پھر توسل اور تعویذات کے قائل ہوں گے تنخواہ لینے یا دینے والے ہوں گے جن کو خود کیپٹن صاحب کافر و مشرک کہتا ہے لہٰذا کافروں اور مشرکوں کے ذریعہ سے جو علم اور کتابیں کیپٹن صاحب کے پاس پہنچیں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

ایک قدم مزید آگے:

یہ فیصلہ تو اس وقت ہوگا جب کیپٹن کو ماننے والے بتائیں گے کہ ان تک جو اسلام، قرآن، کتابیں پہنچیں ہیں وہ معلوم ذرائع سے آئی ہیں یا مجہول سے اگر معلوم

ذرائع سے آئی ہیں تو وہ ذرائع مسلم ہیں یا غیر مسلم، لیکن بندہ عاجز کیپٹن صاحب اور ان کے ماننے والوں سے ایک اور سوال کرتا ہے کہ حدیث کی جتنی کتابیں موجود ہیں ان میں زمین والی قبر کی جزا و سزا ثابت کی گئی ہے۔ انہیں کتابوں میں قبر میں اعادہ روح، تعلق روح اور دنیا والے جسد کی جزا و سزا۔ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سماع النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں موجود ہیں۔ انہیں حدیث کی کتابوں میں توسل کا مسئلہ بھی لکھا ہوا ہے اور دینی کاموں پر معاوضہ لینے دینے کا ذکر بھی موجود ہے اور سماع موتیٰ کی حدیثیں بھی موجود ہیں۔

جب کہ کیپٹن صاحب کے نزدیک یہ عقائد شرکیہ و کفریہ تو جن کتابوں میں کفریہ اور شرکیہ نظریات کو شامل بلکہ ثابت کیا گیا ہو ان کتابوں پر کیا اعتماد کیا جا سکتا ہے اور ایسی کتابوں سے دلائل پیش کرنا کہاں کی دیانت اور کہاں کی امانت ہے اور پھر ان کتابوں کے مولفین بھی انہیں نظریات کے حامل تھے کیونکہ ان حضرات نے انہیں نظریات کو حدیثوں سے ثابت کیا ہے اور عذاب قبر، حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سماع موتیٰ کے عنوان اور ابواب قائم کئے ہیں تو سوال یہ ہے کہ جو لوگ انہیں عقائد و نظریات کے حامل ہیں وہ کیپٹن صاحب کے نزدیک کافر اور مشرک ہیں۔ لہٰذا ایسے لوگوں کی کتابوں سے حوالے دینا۔ ثبوت پیش کرنا اور ان کی جمع کی ہوئی حدیثوں کو پیش کرنا جن کو کافر و مشرک بنایا ہے سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں ہے بلکہ کمال درجہ کی بددیانتی ہے اور پرلے درجہ کی ناانصافی۔

پھر ایک قدم مزید آگے

یہ تو آپ نے معلوم کرلیا کہ کیپٹن صاحب تک کتب حدیث پہنچانے والے یا مجہول ہیں یا پھر کافر و مشرک ہیں اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ کتب حدیث کے

مؤلفین سب کے سب اہلسنت والجماعت کے امام اور مقتدا ہے ان کے تمام عقائد و نظریات اہلسنت والجماعت والے ہیں لہٰذا بخاری و مسلم سمیت تمام محدثین بھی کیپٹن صاحب کے فتوے کی زد میں ہیں کیونکہ وہ اس زمین والی قبر میں دنیاوی جسد کی جزا و سزا کے قائل ہیں نیز اعادہ روح اور تعلق روح حتی کہ سماع موتی کے بھی قائل ہیں اسی لئے تو کیپٹن صاحب اپنے فتوے کی زد سے ان کو بچانے کے لئے ان کی بیان کردہ حدیثوں کی تاویلیں کرتا ہے کبھی حدیث قرع نعال کی تاویل کرتا ہے کبھی حدیث قلیب بدر کی تاویل کرتا ہے کبھی حدیث کلام المیت علی الجنازة کی تاویل کرتا ہے اور کبھی مسلم کی حدیث عمرو بن عاص کی تاویل کرتا ہے تا کہ یہ لوگ میرے فتوے کی زد سے بچ جائیں کیپٹن صاحب کو معلوم ہونا چاہئے کہ جس طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ پر تو نے فتویٰ بازی کی ہے اسی طرح تیرا فتویٰ بخاری و مسلم سمیت تمام محدثین پر چسپاں ہوتا ہے کیونکہ حیات قبر اور سماع موتی کی تمام حدیثیں انہیں محدثین کرام نے تو بیان کی ہیں لہٰذا کیپٹن صاحب کے فتویٰ کی گواہی سے کوئی بھی محدث نہیں ہے بلکہ وہ سب کے سب اسی ظالم زندیق کے فتوے کی رو سے مشرک ہیں۔

لیکن میں تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیپٹن صاحب کے فتویٰ کی پرواز اس سے بھی بلند ہے۔ رکھئے بخاری و مسلم وغیرہ نے جن راویان حدیث سے حدیث حاصل کی ہے ان کے نام، نسب، عدالت، ثقاہت اور مسلک و مشرب سب کتابوں میں محفوظ ہے یقین جانیئے ان راویان حدیث کی تعداد لاکھوں تک پہنچتی ہے لیکن ان لاکھوں بلکہ کروڑوں انسانوں میں سے کوئی ایک راوی ایسا نہیں ہے جو کیپٹن صاحب کا ہم عقیدہ، ہم مذہب اور ہم خیال ہو کیونکہ یہ راویان حدیث کی اکثریت الحمدللہ اہلسنت والجماعت کی ہے حتی کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے تو اپنی کتاب صحیح مسلم کے مقدمہ لکھ دیا ہے کہ حدیث ان راویوں کی لکھی جائے جو اہلسنت والجماعت کے ہیں۔

تو یہ سارے راویان حدیث حیات قبر، عذاب قبر، سماع موتی، حیات الانبیاء وغیرہ عقائد و نظریات کے قائل ہیں۔ جو عقائد اہلسنت والجماعت کے ہیں وہی ان رواۃ حدیث کے ہیں جن پر کیپٹن صاحب شرک و کفر کا فتویٰ لگا چکے ہیں لہٰذا جن کو کافر و مشرک بنایا جاتا ہے ان کی روایت کردہ حدیثوں پر کیا اعتماد رہا؟ کیا کیپٹن صاحب کے نزدیک حدیث کا راوی اگر کافر و مشرک ہو تو وہ روایت قابل قبول ہو سکتی ہے۔

کیپٹن صاحب تو بعض حدیثوں کو اس لئے بھی رد کر دیتا ہے کہ اس کا راوی زاذان ہے اور وہ شیعہ ہے۔ کیوں جناب شیعہ کی روایت کردہ حدیث تو صحیح نہیں لیکن کافروں کی روایت کردہ حدیث کیسے صحیح اور قابل قبول بن جاتی ہے جب یہ ایک حقیقت ہے تو کیپٹن صاحب کو کسی کتاب اور کسی حدیث سے دلیل پکڑنے کا حق نہیں ہے کیونکہ وہ کتابیں ان محدثین کی لکھی ہوئی ہیں جو اسی قبر میں دنیاوی جسد کی جزا و سزا کے قائل ہیں، اعادہ و تعلق روح کے قائل ہیں اور سماع موتی کے قائل ہیں۔ تعجب ہے جو شخص علماء اسلام کو طعنہ دیتا ہے کہ تم شیعہ کی روایت کی ہوئی حدیثوں سے استدلال کرتے ہو وہ خود کافروں اور مشرکوں کی حدیثوں سے استدلال کرتا ہے۔ ع

مگر شرم ان کو نہیں آتی

چند قدم اور آگے:

کیپٹن صاحب کا فتویٰ صرف راویان حدیث تک محدود نہیں ہے بلکہ اس ظالم کے ظالمانہ فتوے سے تو صحابہ کرام بھی محفوظ نہیں ہیں کیونکہ قلیب بدر کی حدیث کے ابتدائی راوی تو صحابہ کرام ہیں مثلاً حضرت عمر اور ابن عمر رضی اللہ عنہما وہ تو سب کے سب سماع موتی کے قائل ہیں اسی طرح حدیث قرع نعال کے راوی حضرت ابوسعید

خدری رضی اللہ عنہ سماع موتی کے قائل اور حضرت عمرو بن عاص انس میت کے قائل ہیں اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور دیگر تمام صحابہ کرام المیتُ یعذب فی قبرہ کو روایت کرنے والے مردہ جسد کے عذاب اور علم کے قائل ہیں تو ظاہر ہے کہ کیپٹن صاحب کے اس فتوے سے تو حضرات صحابہ کرام بھی محفوظ نہیں ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ اعادہ روح کی حدیثیں، عذاب قبر یعنی حیات قبر کی حدیثیں اس زمین والی قبر میں عذاب میت کی حدیثیں، قرع نعال اور قلیب بدر کی حدیثیں دراصل بیان تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں تو اس ظالم کی فتویٰ بازی سے اللہ تعالیٰ کے معصوم پیغمبر کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ العیاذ باللہ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اس زندیق کے زندیقانہ فتوے بازی سے کسی صدی کا کوئی مسلمان محفوظ نہیں ہے خواہ وہ محدث ہو یا مفسر۔ مجتہد ہو یا فقیہ متکلم ہو یا اصولی، مقلد ہو یا غیر مقلد، حنفی ہو یا حنبلی۔ شافعی یا مالکی۔ چشتی یا قادری، نقشبندی یا سہروردی۔ صوفی ہو یا محقق صحابی ہو تابعی و تبع تابعین، عربی ہو یا عجمی۔ الغرض نبی و رسول کیوں نہ ہوں یہ ظالم تو بہ نعوذ باللہ سب کو کافر و مشرک کہتا ہے اور پھر ایسے عقائد و نظریات کی وجہ سے فتویٰ بازی کرتا ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت شدہ اور جملہ اہل اسلام کے مسلمہ، مصدقہ ہیں جن پر امت محمدیہ علماء صاحبین الصلوٰۃ والسلام کا اجماع و اتفاق ہے۔

تو اب ظاہر ہے کہ اس قسم کے عقائد و نظریات کی وجہ سے تمام مسلمانوں کو خارج از اسلام کہنا ایک یہودی سازش ہے اور انگریزوں کی ایک چال ہے کہ اسلام اور قرآن کے نام پر مسلمانوں کے عقائد کو خراب کیا جائے اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کو مسخ کیا جائے اور دین کے نام پر بے دینی اور توحید کے نام پر الحاد و زندقہ کو عام کیا جائے اور دشمنان اسلام نے اپنے اس ناپاک عزائم کی تکمیل کے لئے کیپٹن

مسعود الدین عثمانی اور اس کے ہم خیال لوگوں کو خوب استعمال کیا ہے۔ لیکن ؎

نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن
پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا

تعجب ہے کہ پوری امت مسلمہ پر فتویٰ بازی کرنے والا اور قرآن و حدیث کو بے اعتماد بنانے والا ملحد اپنے آپ کو اسلام کا ٹھیکہ دار توحید کا علمبردار اور قرآن کا عامل کہتا ہے۔

کار شیطان میکند نامش ولی　　اگر ولی اینست لعنت بر ولی

اگر ایسے لوگ اسلام کے ٹھیکہ دار ہیں اور توحید کے علمبردار ہیں تو اسلام قرآن اور توحید کا اللہ وارث ہے۔

گربہ میر و سگ وزیر و موش را دیوان کنند
اینچنیں ارکان دولت ملک را ویران کنند

کیپٹن صاحب کافروں کے حوالجات دے کر رواۃ حدیث پر جرح کرتا ہے۔

قرآن کریم کی آیات کثیرہ اور احادیث متواترہ سے عذاب قبر یعنی حیات قبر ثابت ہے اور زمینی قبروں میں دنیا والے جسد کی جزا و سزا ثابت ہے۔ اسی طرح حیات الانبیاء۔ سماع الانبیاء، وغیرہ عقائد کتاب و سنت سے ثابت شدہ حقائق ہیں جن کا کیپٹن صاحب منکر ہے چنانچہ ایسی آیات و احادیث کی کبھی تو نارواتاویلیں کرتا ہے اور کبھی ان کے راویوں پر محدثین کی جرح نقل کر کے ان کو ضعیف اور موضوع بنانے کی سعی ناتمام کرتا ہے۔ مثلاً کیپٹن صاحب اپنے ایک رسالہ "تعویذات اور شرک ص: ۶)

پر لکھتا ہے:

''امام احمد کہتے ہیں کہ عمرو بن شعیب کی روایت حجت نہیں ہے''

اب اس جاہل سے کون پوچھے ارے ظالم تو نے تو اپنے رسائل میں جا بجا امام احمد بن حنبل کو کافر، مشرک اور شیطان کے وار کی تاب نہ لانے والا کہا ہے اور جب ضرورت پڑتی ہے تو ایسے شخص کا حوالہ دے دیتا ہے کہ امام احمدؒ کہتے ہیں کہ عمرو بن شعیب کی حدیث حجت نہیں ہے۔ ارے بتا!۔ تیرے نزدیک امام احمد بن حنبل کی جرح حجت ہے؟ کیا تو اس کو مسلمان سمجھتا ہے؟ تو جب اس کو کافر کہتا ہے تو تجھے اس کی بات اپنی تائید میں لانے کا کیا حق ہے؟ کیا تو کافروں کی جرح کو معتبر جانتا ہے شاید تو مجبور ہو جاتا ہے اور بوقت مجبوری خنزیر وغیرہ حرام کھانے کی تجھے گنجائش مل جاتی ہے۔

دوسری مثال: حافظ بن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی ہے کہ یہ امام ابن حجر اہلسنت والجمات کے بہت بڑے عالم، محدث اور بخاری شریف کے شارح ہیں اور اسماء الرجال کی اکثر کتابیں انہیں کی تالیف شدہ ہیں۔ جن کے اکثر حوالے کیپٹن صاحب اپنے مسائل میں دیتا ہے۔ ان کے تمام عقائد ونظریات اہلسنت والجماعت والے ہیں۔ علامہ ابن عسقلانی رحمہ اللہ صاحب حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قائل ہیں کہ انہوں نے اپنی ایک کتاب ''المطالب العالیہ'' میں ایک باب اس نام سے قائم کیا ہے ''باب حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قبرہ'' اور اس کے تحت حیات الانبیا کی حدیثیں جمع فرمائی ہیں اور انہیں ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ''فتح الباری فی شرح البخاری'' میں حدیث۔ من صلی علی عند قبری سمعتہ الحدیث کو حدیث جید یعنی کھری حدیث فرمایا

ہے، اور یہی ابن حجر رحمہ اللہ قبر میں اعادہ روح اور تعلق روح کے قائل ہیں اور وہ اس زمینی قبر میں عذاب وراحت میت کے قائل ہیں ان کی فتح الباری اور دیگر کتابوں کا مطالعہ فرمایئے۔ جبکہ کیپٹن صاحب ایسے نظریات کے قائلین کو مشرک اور کافر کہتا ہے اب ایک شخص کو نظریاتی وجہ سے کافر ومشرک بنانا پھر اس کی کتابوں کے حوالجات نقل کرنا کہاں کی توحید اور کہاں کی ایمانداری ہے؟ یہ تو سراسر دھوکہ اور خیانت ہے لیکن کیپٹن صاحب مجبوری کے تحت ایسے کر گزرتے ہیں ایک شخص پر فتوے بھی لگاتے رہتے ہیں اور اس کی کتابوں اور باتوں سے استدلال بھی کرتے رہتے ہیں۔

قارئین کرام! بندہ عاجز نے صرف یہ دو شخصیات بطور نمونہ کے پیش کی ہیں ورنہ اسماء رجال کی جتنی کتابیں ہیں ان سب کے مؤلفین اہلسنت والجماعت کے علماء ہیں ان کے عقائد ونظریات وہی ہیں جو علماء اہلسنت والجماعت کے ہیں اسمائے رجال کے ماہرین اسی زمینی قبر میں دنیاوی جسد کے عذاب وثواب کے قائل ہیں۔ حضرات انبیاء کرام کی حیات وسماع کے قائل ہیں اسماء رجال کا کوئی ایک عالم ایسا نہیں جو کیپٹن صاحب کا ہم عقیدہ اور ہم خیال ہو۔ لیکن کیپٹن صاحب کی دیانتداری ملاحظہ فرمایئے کہ ان کو کافر بھی بناتا ہے اور ان کی کتابوں سے حوالجات نقل کر کے لوگوں کو دھوکہ بھی دیتا ہے کہ فلاں عالم نے فلاں راوی کے بارے میں یہودی کہا ہے اور فلاں کے بارے میں یہ کہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ارے بتا! جب وہ تیرے نزدیک قرآن وحدیث کے خلاف عقائد رکھنے والے ہیں اور کافر ہیں تو ان کی جرح کا کیا اعتبار؟ اور ان کی بات پر کیسا اعتماد؟ لیکن کیپٹن صاحب سادہ لوح اردو خواندہ لوگوں کو پاگل بناتے جا رہے ہیں۔

کیپٹن مسعودالدین عثمانی جھوٹ بولتا ہے

جھوٹ نمبر۱:

حدیث قلیب بدر کی حیثیت کو کم کرتے ہوئے کیپٹن صاحب لکھتا ہے۔ ''اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو معجزہ سمجھتے ہیں'' (عذاب برزخ ،ص:۱۶)

یہ بات کیپٹن صاحب کا سفید جھوٹ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہیں نہیں فرمایا کہ یہ معجزہ ہے۔

جھوٹ نمبر۲:

کیپٹن صاحب حدیث کلام المیت علی الجنازۃ کے وزن کو گراتے ہوئے لکھتا ہے: ''بخاری نے باب باندھ کر بتلا دیا کہ وہ اس کو مردہ مانتے ہیں بولنے والا زندہ نہیں۔'' (عذاب برزخ ،ص:۱۷)

کیپٹن صاحب نے یہ بھی جھوٹ بولا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب باندھ کر بتادیا ہے کہ میت چارپائی پر بولتی ہے۔ امام بخاری کا باب یہ ہے۔ المیت سمیع خفق النعال.

جھوٹ نمبر۳:

کیپٹن صاحب نے قرآن مجید کی ایک آیت کے ترجمہ میں جھوٹ بولا ہے آیت یہ ہے۔ ''اموات غیر احیاء'' کیپٹن صاحب اس پوری آیت کا ترجمہ یوں کرتا ہے۔ ''اور اللہ کے علاوہ وہ دوسری ہستیاں جن کو لوگ (حاجت روائی) کے لئے پکارتے ہیں وہ کسی چیز کی بھی خالق نہیں ہیں بلکہ خود مخلوق ہیں۔ موت کے بعد وہ بالکل مردہ ہیں ان میں جان کی رمق تک باقی نہیں ہے انہیں اپنے متعلق کبھی یہ تک معلوم نہیں کہ وہ کب (دوبارہ زندہ کرکے) اٹھائے جائیں گے۔ (سورۃ النحل آیت ۲۰۔۲۱ عذاب برزخ ص:۲)

کیپٹن نے ترجمہ میں جو یہ لکھا کہ موت کے بعد وہ بالکل مردہ ہیں۔ یقین جانیے قرآن مجید کی اس پوری آیت میں کوئی ایسا لفظ موجود نہیں ہے جس کا معنی ہو کہ موت کے بعد یہ کیپٹن صاحب کا جھوٹ ہے اور اپنی طرف سے ترجمہ میں ملاوٹ ہے۔ اور آیت مذکورہ بالا میں جو ماسوی اللہ کو۔ اموات غیر احیاء کہا گیا ہے اس کا معنی یہ نہیں کہ موت کے بعد وہ مردہ ہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جتنی بھی مخلوق ہے وہ بایں معنی اموات ہیں کہ وہ ساری مخلوق موت کا محل وقوع ہے اگر زندہ ہیں تو بھی موت کا محل وقوع ہونے کی وجہ سے اموات ہیں، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرکے فرمایا گیا ''انک میت'' حالانکہ آیت کے نزول کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میت کہا گیا جس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موت کا محل وقوع ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت نے آنا ہے اور جس مخلوق پر موت آچکی ہے وہ اموات اس معنی میں ہیں کہ وہ موت کا محل وقوع بن چکے لہٰذا کیپٹن صاحب نے آیت کے ترجمہ میں اپنی طرف سے ملاوٹ کرکے جھوٹ بولا ہے۔

جھوٹ نمبر۴:

اسی طرح کیپٹن صاحب نے غیر احیاء کا جو ترجمہ کیا ہے وہ غلط اور جھوٹ ہے۔ کیپٹن نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ان میں جان کی رمق تک باقی نہیں ہے۔ حالانکہ غیر احیاء کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی

طرح۔ الحی لا یموت نہیں ہے یعنی مخلوق نے آخر مرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرح ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والی نہیں ہے۔ یعنی مخلوقات نے مرنا ہے ہمیشہ زندہ نہیں رہنا۔ لہٰذا کیپٹن صاحب کا ترجمہ میں یہ کہنا کہ ان میں جان کی رمق باقی نہیں جھوٹ ہے۔ کیونکہ جو مخلوقات مر چکی ہے ان کو تو خود کیپٹن صاحب بھی زندہ جاندار سمجھتا ہے جس کو وہ حیات برزخی کہتا ہے۔ اگر مردہ مخلوقات میں جان کی رمق باقی نہیں تو حیات برزخی کا کیا مطلب؟

جھوٹ نمبر ۵:

کیپٹن صاحب کے ایک رسالہ کا نام ہے ''نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور شہداء اللہ کے پاس جنت میں زندہ ہیں قبروں میں نہیں''

یہ بھی کیپٹن صاحب کا جھوٹ ہے۔ کیونکہ قبروں میں زندہ ہونے کی نفی نہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے اور نہ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو جو چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی وہ لازما جھوٹ ہی ہے۔ اگر کیپٹن صاحب قرآن مجید کی آیت بل احیاء عند ربھم سے یہی مطلب سمجھے ہیں تو غلط سمجھے ہیں اس آیت سے حیات قبر کی نفی ہرگز نہیں ہوتی کون احمق ہے جو ان الدین عند اللہ الاسلام ۔ سے یہ سمجھے کہ اسلام اللہ کے پاس ہے اور یہاں ہمارے پاس نہیں ہے۔ کیا برزخ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور قبریں اللہ کے پاس نہیں ہے بلکہ دور ہیں؟ نہیں نہیں ہرگز نہیں قبریں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں۔ برزخ کو اللہ تعالیٰ کے قریب سمجھنا اور قبروں کو اللہ تعالیٰ سے دور سمجھنا حماقت ہے لہٰذا احیاء عند ربھم سے حیات قبر کی نفی کرنا نری جہالت اور خالص حماقت ہے۔

اور اگر کیپٹن صاحب کے سامنے حدیث طیور خضر ہے اور اس حدیث سے

اس نے یہی سمجھا ہے کہ شہداء کرام جنت میں ہیں لہٰذا قبر میں زندہ نہیں ہیں تو بھی غلط سمجھا ہے کیونکہ جنت میں ہونے سے حیات قبر کی نفی نہیں ہوتی اولاً تو اس لئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے القبر روضۃ من ریاض الجنۃ فرما کر قبر کو جنت کا باغ قرار دیا ہے ثانیاً قبر میں موجود ہوتے ہوئے بھی جنت کی سیر و سیاحت ممکن ہے جیسے سویا ہوا شخص عالم خواب میں جب جاتا ہے وہ چارپائی پر موجود ہوتے ہوئے وہ مختلف مقامات کی سیر و سیاحت کرتا ہے اسی طرح حضرات انبیاء کرام اور شہداء کرام اپنی اپنی قبروں میں ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی جنت کی سیر و سیاحت کرتے ہیں لہٰذا جنت کی سیر و سیاحت سے قبر کی زندگی کی نفی نہیں ہوتی کیپٹن نے قبر کی حیات کی جو نفی کی ہے وہ سراسر جھوٹ اور خیانت ہے بلکہ اس کے سوئے فہم کا نتیجہ ہے۔

جھوٹ نمبر ۶:

کیپٹن صاحب لکھتا ہے ''روحوں کو جسم (برزخی) ملتا ہے'' عذاب برزخ ص:۶) کیپٹن جھوٹ بولتا ہے قرآن و حدیث میں روحوں کے لئے جسم برزخی کا کہیں ثبوت نہیں ہے بندہ عاجز کیپٹن صاحب کی تمام روحانی ذریت کو چیلنج کرتا ہے کہ وہ قرآن و حدیث سے جسم برزخی کا لفظ دکھا دیں اور منہ مانگا انعام حاصل کریں ؎

نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے

یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں

یقین جانئے: برزخی جسم، کیپٹن صاحب کی اپنی گھڑی ہوئی اصطلاح ہے۔ اس سے پہلے یہ لفظ کسی نے استعمال نہیں کیا۔ ظالم کو دیکھئے چودہ سو سال بعد اپنے خود ساختہ لفظ کو کس صفائی سے قرآن و حدیث کا نام دے رہا ہے صرف یہی نہیں بلکہ اس کا سارا دین اس کا اپنا ساختہ و پرداختہ ہے جس کو یہ ظالم قرآن و اسلام کا نام دے رہا ہے اسی کو علماء

اسلام الحاد اور زندقہ کہتے ہیں۔ اسی لئے کیپٹن صاب کو ملحد اور زندیق کہا جاتا ہے۔

جھوٹ نمبر ۷:

کیپٹن صاحب لکھتا ہے "حدیث کے الفاظ ہیں "من رانی" یعنی جس نے مجھے دیکھا صاف بتلا رہے ہیں کہ یہاں وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا تھا" (یہ مزار پہ میلے ص: ۱۲)

کیپٹن صاحب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت با سعادت کو صرف ان لوگوں کے لئے مخصوص کر دیا ہے جنہوں نے دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ حالانکہ یہ جھوٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عام ہے اور الفاظ حدیث بھی عام ہیں اور حدیث میں کوئی ایسا لفظ موجود نہیں ہے جس سے یہ تخصیص معلوم ہوتی ہو لیکن کیپٹن صاحب نے جھوٹ بول کر حدیث کی تخصیص کر دی ہے۔

جھوٹ نمبر ۸:

کیپٹن صاحب لکھتا ہے "قرآن و حدیث کا متفقہ مسئلہ ہے کہ اس جسد عنصری سے روح نکلنے کے بعد صرف قیامت کے دن ہی واپس لوٹائی جائے گی۔ (یہ مزار پہ میلے ص: ۲۰)

کیپٹن صاحب نے یہ بات کئی بار اپنے رسائل میں لکھی ہے حالانکہ یہ بھی جھوٹ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات قرآن و حدیث میں نہیں فرمائی۔ دراصل جو بات قرآن و حدیث میں بطور قانون کے بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص پر ایک دفعہ موت واقع ہو جائے تو ایسا بندہ دوبارہ دنیا میں نہیں

آ سکتا۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کا نظارہ دکھا دیں تو وہ علیحدہ بات ہے ورنہ مردہ دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتا۔ لہٰذا مردہ جسم کی طرف روح کا ایسا اعادہ کہ مردہ زندہ ہو کر دنیا میں واپس آ جائے یعنی پہلی حالت پر واپس آ جائے۔ ممنوع ہے کیونکہ دنیا والی پہلی حالت پر واپس آنا تو قیامت کے دن ہوگا جس کو والبعث بعد الموت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لیکن قبر میں جو روح کا اعادہ ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ مردہ پہلی حالت پر واپس آ جائے بلکہ وہ اعادہ اس اعادہ سے مختلف ہے اس کو دنیا والے محسوس نہیں کر سکتے اس اعادہ سے جو حیات مردہ جسد میں پیدا ہوتی ہے وہ ہمارے شعور سے بالاتر ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ "ولکن لا تشعرون"

اعادہ روح کے باوجود اہل دنیا کی نظر میں وہ مردہ رہتا ہے وہ اعادہ جزا و سزا اور حساب و کتاب کے لئے ہوتا ہے تو معلوم ہوا جس اعادہ روح کی نفی کی گئی ہے وہ اور قسم کا اعادہ ہے اور جو اعادہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے وہ اور قسم کا ہے لیکن کیپٹن صاحب نے اپنی کج فہمی سے دونوں کو ایک بنا دیا ہے اور کہے جا رہا ہے کہ جو روح ایک دفعہ بدن سے نکل گئی وہ قیامت سے پہلے بدن میں واپس نہیں آ سکتی۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ مردہ دوبارہ ایسا زندہ نہیں ہو سکتا کہ پہلی حالت میں واپس آ جائے اور سب دیکھنے والے اس کو زندہ محسوس کرنے لگیں۔ باقی قبر میں موجود رہتے ہوئے خاص قسم کا اعادہ روح تو یہ قرآن و حدیث سے ثابت شدہ حقیقت ہے اور اس کا انکار گمراہی لیکن کیپٹن صاحب کا ہر قسم کے اعادہ کا انکار کرنا سفید جھوٹ ہے۔

جھوٹ نمبر ۹:

کیپٹن صاحب لکھتا ہے "حیات النبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کا عقیدہ شرک کی جڑ ہے۔" (یہ مزار پہ میلے ص: ۲۲)

کیپٹن صاحب جھوٹ بولتے ہیں۔ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ قطعاً شرک کی جز نہیں ہے بلکہ یہ عقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور اس پر اجماع امت ہے حتی کہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو خود کیپٹن صاحب بھی قرار کرتا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ علماء اسلام فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں اور آپ کی قبر جنت کا باغ ہے اور یہی قبر آپ کے لئے برزخ ہے اور کیپٹن اپنے زعم کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برزخ میں زندہ سمجھتا ہے اور برزخ قبر کے علاوہ کسی اور مقام کو سمجھتا ہے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں بہ تعلق روح زندہ ماننا شرک ہے تو برزخ میں بہ دخول روح زندہ ماننا شرک کیوں نہیں ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں زندہ ماننا شرک ہے تو برزخ میں زندہ ماننا اس سے بڑا شرک ہے کیونکہ قبر والے تو تعلق روح کے قائل ہیں اور برزخ والا تو دخول روح کا قائل ہے لہٰذا برزخ والا قبر والوں سے بڑا مشرک ہے اور یقیناً مشرک ہے۔ لہٰذا حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک کی جز کہنا۔ سفید جھوٹ ہے۔

جھوٹ نمبر ۱۰:

کیپٹن صاحب لکھتا ہے ”تقریباً سات سو سال تک قبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی عمارت نہیں تھی۔“ (یہ مزار یہ میلے ص: ۶)

حالانکہ مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارک میں دفن کیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر عمارت تو پہلے دن سے ہے۔ اور تمام صحابہ کرام نے بالاتفاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمارت میں دفن کیا اس پر کسی نے اعتراض اور نکیر نہیں کی۔ لیکن یہ احمق کہتا ہے کہ سات سو سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر عمارت نہیں تھی۔ حالانکہ

یہ خالص جھوٹ ہے اور آج تک آپ کی اس عمارت پر کسی نے اعتراض نہیں کیا کیپٹن صاحب پہلا آدمی ہے جو مسلمانوں کے چودہ سو سالہ اجماع کے خلاف بد زبانی کر رہا ہے اور پوری امت مسلمہ پر بدگمانی کر رہا ہے اور یہ تو ان کا خالص جھوٹ ہے کہ سات سو سال تک آپ کی قبر مبارک پر کوئی عمارت نہ تھی۔ کیونکہ بہ اجماع صحابہ آپ کو عمارت ہی میں دفن کیا گیا۔ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین یعنی خیر القرون کے مسلمانوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمارت میں کیوں دفن کیا گیا۔ مسلمانوں کو اعتراض نہیں ہے۔ لیکن کیپٹن صاحب کو اعتراض ہے کہ قبر نبوی پر عمارت کیوں ہے۔

جھوٹ نمبر ۱۱:

کیپٹن صاحب ترمذی شریف کی ایک حدیث کے راوی عطیہ بن سعد بن جنادہ پر امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے جرح نقل کرتے ہوئے لکھتا ہے ”امام مسلم کہتے ہیں کہ احمد نے عطیہ کا ذکر کیا اور کہا کہ وہ ضعیف ہے (اور مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ عطیہ، الکلبی کے پاس آیا کرتا تھا اور اس سے تفسیر کی باتیں پوچھا کرتا تھا اور الکلبی کی کنیت اس نے اپنی طرف سے ابو سعید مقرر کر لی تھی اور اس سے سنی ہوئی بات کے متعلق کہتا تھا کہ مجھے ابو سعید نے حدیث بیان کی“۔ (عذاب برزخ ص: ۲۴)

کیپٹن صاحب نے یہ بات تہذیب التہذیب کے حوالہ سے لکھی ہے چنانچہ بندہ نے اس کتاب کو کھولا وہاں عطیہ بن سعید بن جنادہ کے حالات پڑھے وہاں امام مسلم بحوالہ احمد اتنا لکھا تھا کہ وہ (عطیہ بن سعد) ضعیف ہے۔ اس کے آگے بریکٹ میں جتنی بات درج ہے امام مسلم کے حوالہ سے وہاں بالکل نہیں ہے۔ بریکیٹ میں دی ہوئی ساری بات کیپٹن صاحب کی ملاوٹ ہے اور جھوٹ ہے۔

جھوٹ نمبر۱۲:

کیپٹن صاحب جو بار بار کہتا ہے کہ مرنے کے بعد آدمی کو برزخی مقام دیا جاتا ہے اور وہ برزخی مقام قبر کے علاوہ کوئی اور مقام ہے تو یہ بھی جھوٹ ہے کیونکہ برزخ کسی مقام کا نام نہیں ہے برزخ زمانے اور وقت کا نام ہے جو موت سے لے کر قیامت تک رہتا ہے۔ اگر کسی نے برزخی مقام کہا ہے تو وہ یہی قبر ہے اس کے علاوہ کوئی برزخی مقام نہیں ہے۔ لہٰذا کیپٹن صاحب نے قبر کے علاوہ کسی اور مقام کو برزخی مقام کا نام دے رکھا ہے تو یہ جھوٹ ہے۔

جھوٹ نمبر۱۳:

کیپٹن صاحب لکھتا ہے ''نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد مدینہ منورہ والی قبر میں زندہ نہیں بلکہ شہداء کی جنت الفردوس سے بھی اچھی جگہ (الوسیلہ) کے اس مقام پر زندہ ہیں جو جنت الفردوس سے اوپر اور عرش الٰہی سے نیچے سب سے بلند و بالا مقام ہے۔'' (عذاب برزخ ص:۸)

کیپٹن صاحب نے جھوٹ بولا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ والی قبر مبارک میں زندہ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جنت کا اعلیٰ ترین باغ ہے بلکہ رشک جنت ہے اسی قبر مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رفیق اعلیٰ حاصل ہے اور اسی قبر میں ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور جنت کے اعلیٰ مقام اَلوسیلہ کی بھی سیر کرتے ہیں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم دنیا میں معراج اور خواب میں سیر کی تھی باقی مستقل طور پر آپ ﷺ کو جنت کا داخلہ اور الوسیلہ کا مقام اس وقت ملے گا جب آپ کی روح اقدس دنیا والے جسد میں مستقل طور پر

واپس آئے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی حالت پر واپس آئیں گے۔ اب تک تو امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے آت محمداً الوسیلہ کہہ کر دعا مانگتی چلی جا رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ مجھے امید ہی کہ وسیلہ کا مقام اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائیں گے اور اگر یہ مقام مستقل طور پر آپ کو مل گیا ہوتا تو صحابہ کرام اور خیر القرون کے مسلمان یہ دعا مانگنا چھوڑ دیتے حالانکہ توارث وتواتر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ اللہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ عطا فرما۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔'' (مشکوٰۃ ص:۵۱۱ بحوالہ مسلم)

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مومنین کو جنت کا مستقل اور دائمی داخلہ قیامت کے فیصلے کے بعد ہوگا۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر عام جنت سے برتر ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام اور تشریف فرما ہیں۔ اور اسی قبر کو برزخی جنت سے تعبیر بھی کیا جا سکتا ہے۔ برزخی جنت قبر کے علاوہ کوئی مقام نہیں ہے جیسا کہ کیپٹن صاحب نے سمجھ رکھا ہے۔

جھوٹ نمبر۱۵:

کیپٹن صاحب لکھتا ہے ''بخاری اس کے رد میں یہ کہتے ہیں کہ لوگ مردہ کو دنیاوی قبر میں ہر وقت ہوشیار اور جاگتا ہوا مانتے ہیں حالانکہ وہ برزخ میں بھی اکثر اوقات سو رہا ہوتا ہے۔ (ایمان خالص دوسری قسط ص:۲۸)

کیپٹن صاحب نے سفید جھوٹ بولا بخاری میں کہیں نہیں لکھا کہ مردہ اکثر اوقات سو رہا ہوتا ہے۔ حدیث بخاری کے الفاظ میں ''نم صالحاً'' یعنی مزے سے سو جا۔ اس میں کوئی ایسا لفظ موجود نہیں جس کا معنی اکثر اوقات ہوتا ہو۔ یہ کیپٹن

صاحب کی حدیث میں ملاوٹ اور جھوٹ ہے۔ باقی حدیث بخاری کا مذکورہ بالا ٹکڑا علماء اسلام کے عقیدہ کی تائید کرتا ہے قبر کی زندگی عالم خواب کی زندگی کی مانند ہے جیسے خواب دیکھنے والا اپنی چارپائی پر سوتے ہوئے مختلف اور عجیب وغریب مقامات کی سیر وسیاحت کرتا ہے اسی طرح قبر میں سویا ہوا مردہ بھی مختلف مقامات حتیٰ کہ دوزخ یا بہشت کی سیر وسیاحت کرتا ہے۔

جھوٹ نمبر ۱۶:

کیپٹن صاحب لکھتا ہے ''ایک طرف قرآن واحادیث اجماع صحابہؓ امام ابوحنیفہ اور امام بخاری ہیں جن کا فیصلہ یہ ہے کہ روح بدن سے نکلنے کے بعد مردہ جسم میں قیامت سے پہلے واپس نہیں آسکتی اور نہ دنیاوی جسم سے اس کا کسی قسم کا تعلق ہی باقی رہتا ہے۔'' (عذاب برزخ) یہ بات خالص جھوٹ ہے قرآن وحدیث اور صحابہ کرام کی بات گزشتہ اوراق میں گزر چکی ہے۔ باقی امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ تو وہ اپنی کتاب فقہ اکبر میں تصریح فرما چکے ہیں کہ۔ **اعادة الروح الی العبد فی القبر حق**. یعنی قبر میں مردے کی طرف روح کا اعادہ حق ہے اور فقہ حنفیہ میں لکھا ہے. **ومن یعذب فی القبر فیوضع فیہ نوع من الحیات**. یعنی جس کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے اس میں ایک خاص قسم کی حیات رکھی جاتی ہے اور امام بخاری بھی اسی قبر میں عذاب کا قائل ہیں خود بخاری میں عذاب قبر کا باب ہے اور امام بخاری سماع موتی کا بھی قائل ہیں، چنانچہ لکھتے ہیں :**باب ان المیت یسمع خفق النعال** یعنی مردہ جوتیوں کی چاپ سنتا ہے۔

قارئین! بطور نمونہ کے چند جھوٹ آپ کی خدمت میں پیش کئے گئے ورنہ کیپٹن صاحب کے جھوٹوں کی فہرست طویل ہے۔

کیپٹن صاحب کی ابوالعجبیاں

کیپٹن صاحب کی ساری باتیں اور تمام نظریات عجیب وغریب ہیں لیکن بطور نمونہ کے صرف چند عجائبات آپ کی خدمت میں پیش کئے جارہے ہیں۔

عجیب وغریب نمبر ۱:

گزشتہ اوراق میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ کیپٹن صاحب نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری وصیت کو ناقابل قبول بناتے ہوئے کہا تھا کہ وہ سکرات الموت میں مبتلا تھے۔ آپے سے باہر تھے۔ ان پر ہیجانی اور بحرانی حالت طاری تھی اگر پورے ہوش وحواس میں ہوتے تو ایسی باتیں نہ کرتے جو قرآن وحدیث کے نصوص کے خلاف تھیں۔

پھر کیپٹن ظالم نے جسارت کرتے ہوئے یہ بھی لکھ دیا کہ یہی بحرانی کیفیت آخری وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی طاری ہوئی تھی۔ معاذ اللہ لیکن اتنی عجیب بات ہے یہ سب کچھ کہنے کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری کلمہ **اللھم الرفیق الاعلیٰ** سے استدلال کرتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں نہیں رفیق اعلیٰ میں ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دعا یہی فرمائی تھی کہ اللہ مجھے رفیق اعلیٰ عطا فرما۔

ارے ظالم! ایک طرف تو تو ایسے وقت کی باتوں کو ناقابل اعتماد بتاتا ہے اور دوسری طرف ان باتوں سے استدلال کرتا ہے۔ ایں چہ ابوالعجبی است

عجیب وغریب نمبر ۲:

جب کیپٹن صاحب کے سامنے ایسی حدیث آتی ہے جس میں بتایا گیا کہ

وفات کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جنت ہے یا وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفیق اعلیٰ کا سوال کیا یا وہ حدیثیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی مرد یا عورت کے متعلق جنت کی خوشخبری سنائی یا وہ حدیثیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کافر کے متعلق جہنمی ہونے کی وعید سنائی تو کیپٹن ان حدیثوں سے فوراً قبر کی زندگی کی نفی کر دیتا ہے کہ دیکھو جی جنت میں ہیں قبر میں نہیں یا جہنم میں ہے قبر میں نہیں۔ حالانکہ جنت یا جہنم فرمانے سے قبر کی زندگی کی نفی نہیں کیونکہ عالم قبر و برزخ کو اقرب الاذہان کرنے کے لئے عالم خواب کو پیش نظر رکھنا چاہئے۔ جس طرح عالم خواب میں جانے والا اپنی چارپائی پر موجود ہوتے ہوئے مختلف مقامات پر ہوتا ہے اسی طرح عالم قبر و برزخ کو سمجھئے کہ مردہ انسان اپنی قبر میں موجود ہوتے ہوئے مختلف مقامات مثلاً دوزخ یا بہشت میں ہوتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ کیپٹن صاحب عالم قبر و برزخ کو عالم دنیا پر قیاس کر کے ایک مقام کا نام سن کر دوسرے کی نفی کر دیتا ہے حالانکہ قبر کی زندگی اور جزا و سزا قرآن وحدیث کے بے شمار نصوص قطعیہ سے ثابت ہے صرف جنت وجہنم کے لفظ کو سن کر حیات قبر کی ہزاروں نصوص کو جھٹلا دینا۔ ابوالعجبی سے کم نہیں ہے۔

عجیب وغریب نمبر ۳:

کیپٹن صاحب کو جب کوئی لفظ نظر آتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے حضرات انبیاء کرام یا شہداء کرام اپنے رب کے پاس زندہ ہیں تو فوراً اس سے قبر کی زندگی کی نفی کر دیتا ہے چنانچہ کہتا ہے کہ یہ سب حضرات اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سب سے اعلیٰ اور اونچے مقام میں ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر میں اللہ تعالیٰ سے دور ہیں اور ان حضرات کو قبروں میں زندہ مانا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائیں گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو اپنی صفت علم کے لحاظ سے ہر جگہ موجود اور حاضر و ناظر ہیں اور ہر چیز کے قریب ہیں لیکن کیپٹن صاحب عرش کے نیچے لٹکنے والی قندیلوں کو اللہ تعالیٰ کے قریب سمجھتا ہے اور قبروں کو اللہ تعالیٰ سے دور سمجھتا ہے۔ یہ ابوالعجبی نہیں تو کیا ہے۔ اور علماء اسلام فرماتے ہیں کہ دونوں باتیں بیک وقت صادق ہیں قبر والی حیات بھی درست ہے اور قندیلوں والی بات بھی صحیح ہے اور ان میں کوئی تضاد بھی نہیں قبریں اور قندیلیں دونوں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ ایک کو قریب دوسرے کو دور کہنا ایک عجیب سی بات ہے۔

عجیب وغریب نمبر ۴:

کیپٹن صاحب حدیث قرع نعال کی تحریف میں لکھا ہے کہ مردہ حساب و کتاب والے فرشتوں کی جوتیوں کی چاپ سنتا ہے۔

تو اب کیپٹن صاحب پر سوال وارد ہوتا تھا کہ کیا فرشتے جوتیاں پہنتے ہیں؟ تو جواب میں ایک نہایت عجیب وغریب بات لکھی ہے شاید سننے والوں کو ہنسی بھی آ جائے چنانچہ کہتا ہے ”فرشتے اگر جوتے بھی پہن لیں تو کیا قیامت آ جائے گی، جوتیاں پہننے میں کیا بات ایسی ہے کہ اس کی ہنسی اڑائی جائے۔“ (عذاب برزخ ص: ۱۳)

محترم! اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر اطہر کے پاس زائرین کا سلام سُن لیں اور جواب مرحمت فرما دیں تو کونسی قیامت آ جائے گی اگر نکیرین کے سوال و جواب کے لئے اعادہ روح ہو جائے تو کونسی قیامت آ جائے گی اگر دین کی خدمت کرنے والے حضرات کی خدمت کر دی جائے کونسی قیامت آ جائے گی؟ حالانکہ یہ سارے امور قرآن وحدیث سے ثابت شدہ ہیں اور فرشتوں کا جوتیاں پہننا کہیں سے ثابت ہی نہیں لیکن چونکہ کیپٹن صاحب نے صرف قیاس آرائی کر کے بلا دلیل

یہ نظریہ قائم کرلیا ہے کہ فرشتے جوتیاں پہنتے ہیں تو اب دلیل پیش کرنے کی بجائے ناراض ہو کر کہتا ہے کہ اگر فرشتے جوتیاں پہن لیں تو کونسی قیامت آجائے گی۔

ایں چہ ابوالعجبی است

عجیب وغریب نمبر۵:

مسلم شریف کی حدیث سے ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ چونکہ یہ حدیث کیپٹن کے عقیدہ کے سخت خلاف تھی اس لئے اس حدیث کی اہمیت کو گراتے ہوئے عجیب بات لکھتا ہے:

"آخر بیت المقدس میں ان کو کیوں زندہ نہیں مانتے۔

ان کے لحاظ سے تو بیت المقدس میں موسیٰ علیہ السلام کی اس دنیا میں زندگی کا آخری ثبوت ملتا ہے۔" (عذاب برزخ ص:۲۰)

اس احمق کو کون سمجھائے کہ علماء اسلام کے نزدیک موسیٰ علیہ السلام جتنا وقت بیت المقدس میں رہے تو وہاں بھی زندہ تھے۔ کون کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں مردہ تھے۔ البتہ قبر ان کا مستقل قیامت تک ٹھکانہ ہے اور بیت المقدس میں تھوڑے وقت کے لئے تشریف لے گئے تھے بہر حال ان کا وہاں تشریف لے جانا اور نماز ادا کرنا ان کی زندگی کی دلیل ہے۔ لیکن کیپٹن صاحب فرماتا ہے کہ ان کو بیت المقدس میں کیوں زندہ نہیں مانتے۔ ایں چہ ابوالعجبی است۔

عجیب وغریب نمبر۶:

کیپٹن صاحب مذکورہ بالا حدیث پر جارحیت کرتے ہوئے لکھتا ہے

"دوسرے انبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے براق و جبرائیل کی رفاقت کے بغیر ہی آسمانوں پر واپس پہنچ گئے"۔ (عذاب برزخ، ص:۲۰)

کیپٹن صاحب حدیث کی یہ بات نہیں ماننا چاہتے کہ حضرات انبیاء کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آسمان پر پہنچ گئے۔ اس لئے یہ انکاری جملہ لکھ دیا۔ حالانکہ یہ بلکہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔ اور ان حضرات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جانا آپ کے استقبال کے لئے تھا لہٰذا یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ کیپٹن صاحب ایسی لچر باتوں کی وجہ سے احادیث صحیحہ کا وزن گرائے جا رہا ہے۔ کیپٹن صاحب کی یہ بات بھی نہایت عجیب وغریب ہے کہ "براق و جبرئیل کی رفاقت تکے بغیر ہی آسمانوں پر واپس پہنچ گئے۔" کیپٹن صاحب یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی نبی کو آسمانوں پر لے جانے کے لئے براق و جبرئیل کے محتاج ہیں۔ معاذ اللہ اس لئے تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے بغیر وہ کیسے آسمان پر پہنچ گئے۔ ادھر توحید کے دعوے ادھر یہ محتاجی۔ ایں چہ ابوالعجبی است

عجیب وغریب نمبر۷:

کیپٹن صاحب موسیٰ علیہ السلام کی مذکورہ بالا حدیث پر جارحیت کرتے ہوئے لکھتا ہے۔ "اب اگر یہ دریافت کیا جائے کہ بیت المقدس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کو امام بن کر نماز پڑھائی اور ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا بھی پھر جب یہاں سے فارغ ہو کر آسمانوں پر گئے اور ان انبیاء سے ملاقات ہوئی تو ان کو پہچان کیوں نہ پائے اور ہر مرتبہ جبرائیل علیہ السلام سے یہ کیوں پوچھنا پڑا کلا من ھذا یا جبرائیل؟ (یہ کون صاحب ہیں اے جبرائیل)"۔ (عذاب برزخ، ص:۲۰)

کیپٹن صاحب کو معلوم ہونا چاہئے کہ بیت المقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرات انبیاء کرام سے عام ملاقات تھی وہاں ملائکۃ اور انبیاء کرام کا بہت بڑا اژدحام تھا۔ مجمع عام میں اتنا تعارف نہیں ہوتا جو خاص ملاقات میں ہوتا ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے مخصوص انبیاء کرام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص ملاقات کرائی۔ عجیب بات ہے کہ کیپٹن صاحب عام و خاص ملاقاتوں کے فرق کو نہیں سمجھتا ہے حالانکہ روزمرہ کی بات ہے کہ جب کسی مقام پر کسی بڑے آدمی کا جلسہ ہوتا ہے تو اس جلسہ عام میں خواص بھی موجود ہوتے ہیں لیکن جلسہ عام کے بعد بعض خواص کی دوبارہ بلکہ سہ بارہ ملاقات کرائی جاتی ہے اور تعارف بھی کرایا جاتا ہے اور ہر شخص عام و خاص ملاقات کے فرق کو خوب سمجھتا ہے لیکن کیپٹن صاحب عجیب آدمی ہیں کہ ان کو اس دوسری ملاقات اور دوسرے تعارف پر اعتراض ہے۔ ایں چہ ابوالعجبی است.

عجیب وغریب نمبر ۸:

کیپٹن صاحب بڑے زور وشور سے غیر اللہ کی پکار کو شرک کہتا ہے اور اس کی پرزور تردید کرتا ہے لیکن عجیب وغریب بات یہ ہے کہ خود غیروں کو پکارتا ہے ان سے مدد مانگتا ہے اور ساتھ دینے کی التجا کرتا ہے۔ دیکھئے، لکھتا ہے۔

> ''آخر میں ہماری پکار پر کیا کوئی ایسا ہے جو شرک مٹانے اور توحید خالص کو پھیلانے کے لئے ہمارا ساتھ دینے پر تیار ہو''۔
>
> (وسیلے کا شرک، ص: آخری تعویذات اور شرک ص:۱۶)

عجیب وغریب نمبر ۹:

کیپٹن صاحب لکھتا ہے ''ان ساری صحیح حدیثوں نے بتلا دیا کہ سچی بات تو یہ ہے کہ جو شخص بھی وفات پا جاتا ہے اس کو حسب حیثیت ایک برزخی جسم ملتا ہے، جس میں اس کی روح کو ڈال دیا جاتا ہے اور اس جسم اور روح کے مجموعہ پر سوال وجواب اور عذاب وثواب کے سارے حالات گذرتے ہیں اور یہی اس کی اصلی قبر بنتی ہے قرآن وصحیح احادیث کا بیان تو یہ ہے۔ (عذاب برزخ، ص:۹)

اور مزید لکھتا ہے:

> ''نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور شہداء اپنی دنیاوی قبروں میں زندہ نہیں بلکہ عرش الٰہی کے نیچے اپنے بہترین گھروں میں زندہ ہیں۔
>
> (عذاب برزخ، ص:۹)

کیپٹن بتا رہے ہیں کہ جو شخص وفات پا جاتا ہے اس کو عرش الٰہی کے نیچے بہترین گھر ملتا ہے جس میں رہتا ہے وہاں اس کو برزخی جسم ملتا ہے اور وہاں اس روح اور جسم کے مجموعہ سے سوال ہوتا ہے وہاں عذاب وثواب کے حالات گزرتے ہیں اور یہی اس کی اصلی قبر بنتی ہے تو معلوم ہوا کہ کیپٹن صاحب کے نزدیک عرش الٰہی کے نیچے جو بہترین گھر ہیں وہ اصلی قبر ہے اور وہیں قبر کی کارروائی ہوتی ہے۔ حالانکہ عرش کے نیچے والے بہترین گھروں کو نہ تو اللہ تعالیٰ نے قبر کہا ہے نہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ قرآن میں اس کو قبر کہا گیا ہے نہ حدیث میں نہ کسی صحابی نے اس کو قبر کہا ہے نہ تابعی اور تبع تابعی نے۔

الغرض کسی ایک مسلمان نے اس کو قبر نہیں کہا ہے اور زمین والی قبر کو اللہ۔ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ وتابعینؒ بلکہ تمام مسلمانوں نے قبر کہا ہے۔ کتنی عجیب وغریب بات ہے کہ جس کو قرآن وحدیث میں قبر کہا گیا ہے کیپٹن اس کو قبر ماننے کے لئے تیار نہیں اور جس کو کوئی بھی قبر نہیں کہتا ہے کیپٹن اس کو قبر کہتا ہے۔

ایں چہ ابوالعجبی است۔

عجیب وغریب نمبر ۱۰:

کیپٹن صاحب کے رسائل کو پڑھنے سے یہ تاثر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء، شہداء اور تمام نیک بندے جو دار دنیا سے رخصت ہوئے ہیں ان کو جنت کا مستقل اور دائمی ٹھکانہ مل جاتا ہے اور جو کافر و مشرک مرجاتے ہیں وہ مستقل طور پر جہنم رسید کر دیئے جاتے ہیں۔ حالانکہ کتاب وسنت کی واضح نصوص موجود ہیں کہ قیامت کے دن روح دنیا والے جسم کی طرف کامل طور پر واپس آجائے گی جس کی وجہ مردہ اسی حالت پر واپس آ کر بالکل زندہ ہو جائے گا پھر قیامت کے سارے مناظر اس کے سامنے آئیں گے اور وہ قیامت کی سختیوں کو جھیلے گا اس کے اعمال تولے جائیں گے اور اس کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا۔ اگر نیک ہے تو اس کو روح اور دنیا والے جسم سمیت مستقل اور دائمی طور پر جنت میں داخل کیا جائے گا اور اگر کافر و مشرک ہے تو اس کو دنیا والے جسد کے ساتھ مستقل اور دائمی طور پر جہنم میں داخل کر دیا جائے گا تو یہ جنت اور جہنم کا مستقل اور دائمی داخلہ جو قیامت کے فیصلے کے بعد ہوگا۔ کتاب وسنت کے دلائل کی چنداں ضرورت نہیں کیونکہ یہ بات اظہر من الشمس ہے ورنہ دلائل اتنے ہیں کہ ایک ضخیم کتاب تیار ہو سکتی ہے۔ تو معلوم ہو گیا کہ دوزخ و بہشت کا درحقیقت داخلہ بروز قیامت اس صورت میں ہوگا یہ وہ حقیقت ہے جس کو کیپٹن صاحب بھی دبی زبان میں اپنے رسائل میں تسلیم کر جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ بخاری و مسلم وغیرہ صحاح ستہ کی بعض حدیثیں ایسی بھی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مرنے والے پر دوزخ یا بہشت کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے اور اس کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے جب تو قبر سے اٹھے گا تو تجھے اس میں داخل کیا جائے گا۔ تو ان ساری نصوص قطعیہ و آیات قرآنیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی داخلہ جنت یا جہنم کا اس دنیا والے جسم کے ہمراہ بروز قیامت ہوگا لیکن بعض دوسری حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء، شہداء بلکہ ہر نیک مومن کو موت کے بعد جنت مل جاتی ہے تو بظاہر ان حدیثوں کا آیات قرآنیہ اور احادیث صحیحہ سے تعارض ہوا تو علماء اسلام نے اس ظاہری تعارض کو دور کرنے کی غرض سے ان سب روایات میں تطبیق دے دی ہے کہ بے شک جنت یا جہنم کا مستقل اور دائمی داخلہ قیامت کے فیصلہ کے بعد دنیا والے جسد کے ساتھ ہوگا کیونکہ آیات قرآنیہ اور احادیث صحیح کا یہ اٹل فیصلہ ہے البتہ موت کے بعد جنت یا جہنم کے داخلہ کا مطلب یہ ہے کہ مومن کی قبر کو جنت کا باغ اور کافر کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا جاتا ہے جیسا کہ حدیث پاک میں اس کی تصریح موجود ہے اور آیات واحادیث کے درمیان تطبیق دینے کے لئے علماء اسلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ مومن کی روح قبر میں مدفون مردہ کے ساتھ متعلق ہونے کی وجہ سے جب جنت کی سیر وسیاحت کرتی ہے تو قبر میں پڑے ہوئے جسم کو بھی اپنے ہمراہ محسوس کرتی ہے جیسا کہ چارپائی پر سوتا ہوا آدمی جب خواب دیکھتا ہے تو اس کی روح اس کے جسد کو اپنے ہمراہ محسوس کرتی ہے حالانکہ وہ بستر میں بھی موجود ہوتا ہے تو قبر میں ہوتے ہوئے جنت کی سیر وسیاحت کو دخول جنت کہا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ داخلہ مستقل اور دائمی نہیں جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں سفر معراج کے موقع پر اور خواب میں کئی دفعہ جنت کی سیر کی ہے تو اسی طرح عالم قبر و برزخ کا مسئلہ ہے کہ قبر جنت کا باغیچہ یا جہنم کا گڑھا اور اسی طرح قبر میں موجود ہوتے ہوئے جنت کی سیر کرائی جاتی ہے اور جہنم کی حاضری بھی ہوتی ہے یہ تو علماء اسلام کی تطبیقات ہیں تا کہ مختلف احادیث کو جمع کر دیا جائے تا کہ کسی حدیث کے انکار اور نظر انداز کرنے کی نوبت نہ آئے اور کسی

آیت یا حدیث کی تحریف بھی نہ کرنی پڑے۔ لیکن کیپٹن صاحب کی عجیب وغریب عادت ہے کہ وہ ہمیشہ تصویر کے ایک رخ کو دیکھتا ہے اور پھر دوسرے رخ کو نظر انداز کر دیتا ہے یا انکار کر دیتا ہے یا تحریف کر دیتا ہے۔ حالانکہ کیپٹن صاحب کا یہ غلط انداز ہے جو ابوالعجمی سے کم نہیں ہے۔

عجیب وغریب نمبر ۱۱:

کیپٹن صاحب لکھتا ہے ”ان سارے دلائل کے سننے کے بعد سماع اور قبر میں حیات کا ماننے والا گروہ کہتا ہے کہ انکاری گروہ کا معاملہ عجیب ہے ایک طرف یہ حضرات ان لوگوں کی جرح وتعدیل کی کتابوں کو اپنی حمایت میں بھی لاتے ہیں اور دوسری طرف ان کے عقائد کو غلط بھی کہتے ہیں...... اس اعتراض کی ایک ایک بات کا دوسرا گروہ یوں جواب دیتا ہے کہ جن جرح وتعدیل کی کتابوں کے حوالے پیش کئے گئے ہیں وہ ان حضرات کی اپنی کتابیں نہیں ہیں بلکہ انہوں نے سلف کی کتابوں کا جو کامیاب اور طویل تھیں صرف اختصار پیش کیا ہے اور بس باقی جہاں وہ قُلْتُ (میں کہتا ہوں) کہہ عبارت لاتے ہیں وہ سلف کی جرح کی شدت کو کم کرنے یا ختم کرنے اور اپنے عقیدہ کی حفاظت ہی کے لئے ہوتی ہے۔ (ایمان خالص دوسری قسط ص: ۳۰)

یہاں کیپٹن صاحب واضح لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ رجال کی کتابیں مثلاً تہذیب التہذیب، تقریب التہذیب، میزان الاعتدال، لسان المیزان وغیرہ جن کے حوالجات ان کی کتابوں اور رسالوں میں دیئے گئے ہیں ان سب کتابوں کے مؤلفین حیات وسماع کا عقیدہ رکھنے کی وجہ غلط بلکہ شرکیہ وکفریہ عقائد کے مالک تھے باقی رہا ایسے لوگوں کی کتابوں سے حوالے دینے کی وجہ تو جواب میں لکھتا ہے کہ یہ لوگ سلف کی کتابوں کا اختصار پیش کرتے البتہ قُلْتُ کہہ کر اپنے عقیدہ حیات وسماع وغیرہ کو تحفظ

دیتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک طرف کیپٹن صاحب ان کتابوں کے مؤلفین کو کافر ومشرک کہتا ہے اور دوسری طرف ان کی کتابوں کے حوالے پیش کرتا ہے اور عذر یہ کرتا ہے کہ یہ لوگ سلف کی کتابوں کے قائل ہیں ان کا اختصار پیش کرتے ہیں لیکن سوال یہ ہے ایسے مشرکوں کی نقل اور اختصار پر کیا اعتماد ہے اگر یہ لوگ قلت کہہ کر اپنے عقیدے کو تحفظ دیتے ہیں تو کیا یہ نقل واختصار میں اپنے عقیدے کی حفاظت نہیں کر سکتے اور حیرت ہوتی ہے کہ قرآن وحدیث کا راوی اور ناقل اگر شیعہ وغیرہ بے دین ہے تو اس کی روایت نا قابل قبول ہے اور اگر سلف کی باتوں اور کتابوں کا ناقل اور راوی اگرچہ کافر ومشرک بھی کیوں نہ ہو اس کی نقل واختصار قابل قبول ہے۔ ایں چہ ابوالعجمی است۔

عجیب وغریب نمبر ۱۲:

کیپٹن صاحب لکھتا ہے کہ ”رہا اس بات کا شکوہ کہ بخاری نے امام احمد بن حنبل کے ساتھ مناسب رویہ کیوں اختیار نہیں کیا تو ہم اس بات میں اپنے آپ کو معذور پاتے ہیں یہ تو صرف امام بخاریؒ کی ذمہ داری ہے اور وہی اس کے لئے جواب دہ ہیں“۔ (ایمان خالص دوسری قسط ص: ۲۵)

کیپٹن صاحب امام بخاری کا شکوہ کرتا ہے کہ اس نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مناسب سلوک نہیں کیا یعنی عقیدہ حیات وسماع کی وجہ سے کافر اور مشرک کیوں نہیں کہا جیسا کہ خود کیپٹن نے ایسا کہا ہے۔ عجیب بات ہے کہ کیپٹن اپنے آپ کو امام بخاری کا ہم عقیدہ بتاتا ہے اور پھر اس کا گلا شکوہ بھی کرتا ہے کہ اس نے امام احمد پر فتویٰ بازی کیوں نہیں کی۔ معلوم ہو گیا ہے کہ امام بخاری کیپٹن صاحب کا ہم عقیدہ نہیں ہے اور یہی حقیقت ہے اور پھر کیپٹن صاحب امام بخاری پر مزید چڑھائی

کرنے سے اپنی معذوری ظاہر کرتا ہے۔

کیوں جناب؟ ساری امت پر چڑھائی کر کے ان کو کافر و مشرک کہہ دیا اب جب امام بخاری کی باری آئی تو آپ کیسے معذور بن گئے۔ اگر معذور بننا تھا تو سب کے لئے بنتے۔ عجیب بات ہے کہ کسی پر فتوی بازی کرتے ہو اور کہیں معذوری ظاہر کرتے ہو؟ ایں چہ ابوالعجبی است۔ مرغی کی کبھی کبھی ایک ٹانگ کبھی دو کیپٹن صاحب عجیب بات لکھتا ہے کہ ”یہ تو صرف امام بخاری کی ذمہ داری ہے اور وہی ان کے لئے جواب دہ ہیں۔“

کیوں جناب کیپٹن صاحب ابراہیم بن ادھم، بی بی رابعہ بصری، معروف کرخی، ذوالنون مصری، سری سقطی، بایزید بسطامی، ابوعبداللہ ترمذی، جنید بغدادی، ابو بکر شبلی، علی ہجویری، ابواسماعیل ہروی، امام غزالی، شیخ عبدالقادر جیلانی، شیخ احمد رفاعی، خواجہ معین الدین اجمیری، خواجہ بختیار کاکی، محمد بن عربی، خواجہ فرید الدین شکرگنج، مولانا جلال الدین رومی، خواجہ نظام الدین اولیا، امیر حسن بن علا سنجری، خواجہ حسن دہلوی، شاہ مدار، شاہ مینا لکھنوی، خواجہ باقی باللہ، مولانا عبدالحق دہلوی، مجدد الف ثانی، شاہ عبدالرحیم، شاہ ابوالرضا محمد، شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز، شاہ اسماعیل، سید احمد شہید، عبداللہ غزنوی، خاندان ولی اللٰہی کے خدام یعنی جماعت دیوبند و بریلی و اہل حدیث وغیرھم۔ (دیکھئے، ایمان خالص پہلی قسط ص: ۸۵)

(ان سب حضرات کو کیپٹن صاحب نے عبداللہ بن سبا یہودی کے دین اتحاد کا علمبردار کہا ہے) ان سب پر فتوی بازی کرنے کا تو ذمہ دار ہے اور جوابدہ ہے۔ اور امام احمد بن حنبلؒ پر فتوی بازی کا صرف امام بخاری ذمہ دار اور جوابدہ ہے؟ ایں چہ ابوالعجبی است۔

عجیب بات ہے کہ کیپٹن صاحب ایک طرف امام احمد بن حنبل پر فتوی بازی کا ذمہ دار صرف امام بخاری کو ٹھہراتا ہے اور پھر دوسری طرف خود اس پر فتوی بازی بھی شروع کر دیتا ہے۔ (دیکھئے، ایمان خالص دوسری قسط ص: ۲۵، عذاب برزخ ص: ۲)

عجیب و غریب نمبر ۱۳:

کیپٹن صاحب اپنے رسائل میں کہیں تو لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی، شہید اور مومنین برزخی مقام میں زندہ ہیں اور کہیں لکھتا ہے جنت میں عرش الٰہی کے نیچے سب سے بلند و بالا مقام پر زندہ ہیں۔ عجیب بات ہے کہ خود کیپٹن صاحب کو اپنے عقیدہ میں شک ہے۔

عجیب و غریب نمبر ۱۴:

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب و راحت کے نقشے نظارے اکثر تو انہی زمین والی قبروں میں دکھائے گئے ہیں جہاں یہ ساری کارروائی ہوتی رہتی ہے لیکن کبھی کبھی یہ نقشے نظارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اور خواب میں بھی دکھائے گئے۔ جن سے کیپٹن صاحب نے یہ نتیجہ اخذ کر لیا کہ ان زمین والی قبروں میں نہیں بلکہ عذاب و ثواب تو فلاں مقام پر ہو رہا تھا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دیکھا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبروں میں بھی سب کچھ ہوتا ہوا دیکھا کیپٹن اس کو جھٹلاتا ہے اور خواب و معراج والے عذاب کو سچا سمجھتا ہے۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کارروائی جہاں بھی دیکھی ہے درحقیقت یہ قبر کی کارروائی ہے باقی رہا دوسرے مقامات پر اس کا دیکھنا تو وہ ایسے ہے کہ حج کا سب سے بڑا رکن عرفات کے میدان میں ادا ہوتا ہے اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے لیکن اگر

کوئی شخص عرفات کے میدان کی ویڈیو فلم بنا کے پاکستان یا کسی دوسرے ملک میں لے جائے اور وہاں کے لوگوں کو عرفات کی ویڈیو دکھائے تو کون احمق ہوگا جو یہ دیکھ کر کہے کہ عرفات کا میدان تو پاکستان میں ہے یا حج تو پاکستان میں ادا ہوتا۔ ظاہر ہے کہ یہ اس شخص کی حماقت سمجھی جائے گی کیونکہ عرفات کا میدان تو مکہ مکرمہ کے قریب ہے اور وہاں ہی حج کا بہت بڑا رکن ادا ہوتا ہے البتہ عرفات کے میدان میں ہونے والی تمام تر کارروائی ویڈیو کے ذریعہ ہر جگہ دیکھی جا سکتی ہے اسی طرح قبر کی کارروائی درحقیقت قبر ہی میں ہوتی ہے البتہ قبر کی یہ کارروائی اللہ تعالیٰ جہاں چاہے اپنے بندوں کو دکھا سکتے ہیں۔ **وماذلک علی اللہ بعزیز۔ الآیۃ**، کیپٹن صاحب عجیب وغریب آدمی ہیں کہ اصل مقام کا انکار کر کے عذاب قبر کے لئے اور مقامات تجویز کرتے پھرتے ہیں۔

عجیب وغریب نمبر ۱۵:

کیپٹن صاحب مسلم شریف کی ایک صحیح حدیث جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ **ان هذه القبور مملوءة ظلمة على اهلها وان الله ينورها لهم لصلاتي عليهم۔**

''یہ قبریں اندھیروں سے بھری ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو میری دعا کی برکت سے منور فرما دیتا ہے''۔ پر اعتراض بازی کرتے ہوئے لکھتا ہے۔

''اگر اس سے یہی دنیاوی قبر مراد لی جائے تو پھر تو ایک ایک قبر میں بے حساب مردے دفن ہوتے ہیں کوئی نیک کوئی بد ہر ایک کو اس نور سے فائدہ پہنچے گا۔''

(عذاب برزخ ص:۳۱)

یہاں تو حدیث نبوی پر اعتراض بازی کر رہا ہے حالانکہ خود اپنے رسالوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نقل کر چکا ہے کہ حساب والے فرشتے

مردے کو کہتے ہیں۔ نم صالحاً یعنی مزے سے سوجا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم قبر و برزخ عالم خواب سے ملتا جلتا جہاں ہے تو اب خواب میں غور فرمایئے کہ مثلاً میاں بیوی ایک ہی پلنگ پر سوئے ہوئے ہیں اور دونوں عالم خواب میں مصروف و مشغول ہیں ایک خواب دیکھتا ہے کہ میں آگ میں ہوں دوسرا خواب دیکھتا ہے کہ میں پانی میں ہوں۔ اگرچہ ان دونوں کے جسم ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں لیکن آگ والے کی آگ پانی والے کو نہیں لگتی اور پانی والے کا پانی آگ والے کی طرف نہیں آتا۔ اتحاد جسم کے باوجود وہ اپنے عالم میں ہے اور یہ اپنے عالم میں ہے اسی طرح عالم قبر و برزخ ہر مردے کا اپنا ہے اگرچہ ان کے جسم ایک دوسرے سے ملے ہوئے بھی کیوں نہ ہوں۔ عجیب بات ہے کہ قرآن کا مدعی، توحید کا ٹھیکے دار اور اسلام کا نام لیوا ان حقائق سے نابلد ہے بلکہ کورا ہے۔ اسی لئے تو قران وحدیث پر اعتراض بازی کرتا ہے۔

عجیب وغریب نمبر ۱۶:

کیپٹن صاحب چونکہ خود عجیب وغریب ہیں اسی مناسبت سے انہوں نے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ سے عدم سماع موتی ثابت کرنے کے لئے ایک ایسی کتاب کا حوالہ دیا ہے جس کا نام ہے۔ ''**غرائب فی تحقیق المذاهب**'' کتاب کا جب نام ہی غرائب ہے تو لازماً اس کے مسائل بھی عجائب وغرائب ہوں گے۔ ماشاء اللہ جس کتاب کا حوالہ دیا ہے وہ بھی گمنام، اس کا مصنف بھی گمنام سند بھی گم راوی بھی مجہول ہیں عجیب آدمی ہے کیپٹن صاحب جب انکار پر اترتا ہے تو صحیح حدیثوں کا انکار کر دیتا ہے اور جب ماننے پر آتا ہے تو غرائب پر ایمان لے آتا ہے جس کا راوی بھی مجہول ہے۔

عجیب وغریب نمبر ۱۷:

عجیب اتفاق کی بات ہے کہ کیپٹن صاحب کے جتنے رسائل ہیں ان میں اکثر وہ ہیں جن کے سرورق پر جوشہ سرخی کے ساتھ نام لکھے ہوتے ہیں ان موٹے موٹے ناموں میں ایسے نقش ونگار اور چتر بنے ہوئے ہیں جو زہریلے سانپ کی پشت پر ہوتے ہیں۔ وہاں باری تعالیٰ نے ان لوگوں سے یہ کام اس لئے کرایا تا کہ اہل دانش سمجھ لیں کہ جیسے زہریلے سانپ نقش ونگار والے آدمی کی جان کے دشمن اور مہلک ہوتے ہیں اسی طرح کیپٹن صاحب کے نقش ونگار نام والے رسائل ایمان کے دشمن اور مہلک ہیں جیسے سانپ سے جان بچانا ضروری ہے ایسے ہی ان ایمان سوز رسائل سے ایمان بچانا بھی ضروری ہے۔

قارئین کرام! آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیپٹن صاحب کے جھوٹ، گستاخیاں، عجائب وغرائب، احادیث پر اعتراض بازی آیات واحادیث کی تحریفات اور الحاد وزندقہ حد سے زیادہ ہیں بندہ عاجز نے مشت نمونہ از خروارے کے طور پر چند مثالیں پیش کردی ہیں مزید اندازہ خود لگالیں۔

قیاس کن از گلستان من بہار مرا

◆

کیپٹن صاحب قرآن کے راویوں (قاریوں) پر بھی جرح کرتا ہے

احادیث صحیحہ پر جارحیت کرنے میں تو کیپٹن صاحب اپنی مثال آپ ہیں ہی۔ لیکن یہ ظالم قرآن مجید کے قاریوں پر جارحیت کرنے سے نہیں چوکتا چنانچہ جو قرآن مجید عموماً تلاوت کیا جاتا ہے یہ قاری عاصم کی قرأت ہے جس کو روایت کرنے والے قاری حفص بن سلیمان (متوفی ۱۸۰ھ) ہیں اور کیپٹن صاحب انہی قاری حفص بن سلیمان کو کذاب اور وضاع کہتا ہے دیکھئے۔ (یہ مزار پہ میلے ص:۳۵)

جب قرآن مجید کی قرأت کو روایت کرنے راوی کذاب اور وضاع ٹھہرے تو اب بتایئے کہ کیپٹن صاحب کے نزدیک قرآن مجید قابل اعتماد رہا؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ شخص قرآن، حدیث، توحید اور اسلام کے نام پر قرآن وحدیث اور دین اسلام کو ناقابل اعتماد اور بازیچہ اطفال بنانا چاہتا ہے۔

قارئین کرام! اس طویل تمہید کے بعد اب فرداً فرداً ان مسائل وعقائد کی تحقیق پیش کی جاتی ہے جن میں کیپٹن صاحب اور اس کے ماننے والے علماء اسلام سے مختلف رائے رکھتے ہیں۔ تا کہ آپ کو قرآن وحدیث کی روشنی میں یہ بات الم نشرح ہو جائے کہ کیپٹن صاحب کی ہر منفردانہ رائے غلط ہے اور ان کے تفردات کو قرآن وحدیث سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔

اس ظالم نے غیر قرآن کو قرآن، غیر اسلام کو اسلام اور باطل کو حق کا نام دے کر اردو خواندہ حضرات کے ایمان کو بگاڑنے کی ایک ناپاک سازش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہر گمراہی سے اپنی امان میں رکھے

آمین یارب العالمین۔

مسئلہ :۔ ۱

فرقہ کیا ہے؟ فرقہ پرست کون ہیں

تمہید:...... کیپٹن صاحب کو ماننے والے ایک شخص منور سلطان نامی نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام "اسلام یا مسلک پرستی" ہے۔ اس کتاب میں چند مسائل و عقائد درج ہیں جن میں کیپٹن والوں نے علماء اسلام سے اختلاف کر کے راہ تفرد اختیار کی، شخص مذکورہ نے اپنی کتاب کے افتتاحیہ میں لکھا کہ میں نے چند سال جماعت کے ساتھ ضائع کئے ہیں۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شروع میں جماعت تبلیغی کے ساتھ منسلک تھا بعد میں مسعودیوں کے ہاتھ چڑھ گیا اور صراط مستقیم سے ہٹ کر گمراہی اور ضلالت کے گڑھے میں جا پڑا، اس شخص نے اپنی کتاب میں علماء حق اور مشائخ عظام کے حق میں نہایت گندی زبان استعمال کی ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شخص جب تبلیغی جماعت میں چلتا تھا اس وقت بھی علماء حق سے متنفر و بیزار تھا اور اس کے دل میں علماء حق کا کوئی احترام نہ تھا بلکہ اس کا سینہ بغض و کینہ کی گندگی سے آلودہ تھا اور بالآخر یہی علماء حق کے خلاف نفرت بازی اس کی گمراہی کا سبب بنی، چنانچہ یہ شخص کیپٹن مسعود الدین کے جال شیطانی میں پھنس کر گمراہی اور بے دینی کا داعی بن گیا حتی کہ علماء حق کے خلاف ایک کتاب تحریر کی اور تحریف قرآن، تکذیب احادیث، جھوٹ و فریب اور الحاد و زندقہ میں اپنے پیشوا و امام کو بھی مات دے دی کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے:

بڑے میاں تو بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ!

علماء حق کی حیثیت:

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بعد کسی نئے نبی نے نہیں آنا، چنانچہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بعد اصلاح امت کی کوشش کی ذمہ داری علماء حق پر ڈالی گئی کہ جہاں بگاڑ دیکھیں اصلاح کی کوشش کریں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کریں مذہب اسلام کے ایک ایک عقیدہ اور ایک ایک مسئلہ کی پوری پوری حفاظت کریں، ملحدین اور زنادقہ کے ناپاک نظریات کا قلع قمع کریں، دشمنان اسلام کی تحریفات سے اسلام و قرآن کو بچاتے رہیں جس طرح کسی ملک کا ایک ایک فوجی اپنے ملک کا محافظ اور چوکیدار ہوتا ہے اور وہ ملک کی سرزمین کے چپہ چپہ کی حفاظت و نگرانی کرتا ہے اسی طرح علماء حق دین اسلام اور ہمارے ایمان کے محافظ اور چوکیدار ہیں اور دین اسلام کی ہر چھوٹی بڑی بات کی حفاظت کرتے ہیں بلکہ بوقت ضرورت اس پر کٹ مرتے ہیں اور ان کے لئے یہی حق ہے اور ظاہر ہے کہ کسی ملک کا دشمن یا غدار اس ملک کے محافظ فوجی کو اپنے لئے بہت بڑا خطرہ سمجھتا ہے کیونکہ جب بھی ملک دشمن عناصر اور غدار لوگ ملک کو نقصان پہنچانے کے لئے کوئی سازش یا کوشش کرتے ہیں تو ملک کے وفادار محافظ ان کو مار بھگاتے ہیں اور ان کی سرکوبی کرتے ہیں اس لئے ملک کے غدار ملک کے محافظین کو قطعاً برداشت نہیں کرتے اسی طرح جو لوگ دین اسلام کے غدار اور دشمن ہیں وہ علماء حق کو کسی صورت میں برداشت نہیں کرتے کیونکہ جب بھی دین اسلام کے غدار دین اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے یا کسی آیت یا حدیث کو مسخ کرنا چاہتے ہیں یا غیر دین کو دین اور غیر قرآن کو قرآن بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہی علماء حق ان کی سرکوبی کے لئے تیار ہوتے ہیں اور ان کی تحریفات اور تلبیسات سے پردہ چاک کرتے ہوئے

لوگوں کے ایمان بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور باطل کے مکروہ چہرہ سے پردہ ہٹانے کے لئے سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں اس لئے دین اسلام کے غدار علماء حق کو اپنا بڑا دشمن سمجھ کر ان کے حق میں گندی زبان استعمال کرتے ہیں لوگوں میں ان کے خلاف پروپیگنڈہ کر کے ان کو بدنام کرنے کی چالیں چلتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک لوگوں کا تعلق علماء حق سے ہے وہ ہمارے دام تزویر میں نہیں پھنس سکتے ہیں اس لئے وہ عوام کو علماء حق سے متنفر کرنے کے لئے بہت ہاتھ پیر مارتے ہیں، چنانچہ وقت کا جو دجال بھی آتا ہے وہ علماء حق پر رکیک حملے کرتا ہے اور جو ملحد آتا ہے وہ عوام کو علماء سے دور رکھنے کی چالیں چلتا ہے اور جو زندیق آتا ہے وہ علماء پر خوب برستا ہے۔ کیونکہ اس کے بغیر اس کا کوئی داؤ چلتا نہیں اس لئے کیپٹن صاحب کے ماننے والے صاحب نے بھی علماء حق کے خلاف خوب زہر اگلا اور سوقیانہ زبان استعمال کی تاکہ وہ اپنا مطلب حاصل کر سکے۔ قانون خداوندی یہ ہے کہ

﴿جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا﴾

ہمیشہ باطل ظاہری شان و شوکت، لاؤ لشکر اور چاندنی کے ساتھ آتا ہے لیکن بالآخر منہ کی کھاتی ہے انشاء اللہ مسعودیوں کا انجام بھی وہی ہوگا جو ہمیشہ سے گمراہوں کا ہوتا ہوا آرہا ہے، عنقریب باطل کی یہ جھاگ ہوا میں اڑ جائے گی اور اسلام اور مسلمانوں کو ان پر ایسی فتح مبین حاصل ہوگی کہ باطل کا نام و نشان مٹ جائے گا۔

فرقہ کسے کہتے ہیں؟

شروع کتاب میں یہ وضاحت گذر چکی ہے کہ اہل السنّت والجماعت کوئی مذموم فرقہ نہیں ہے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خیر القرون کے دور سے چلی آنے والی جماعت حقہ ہے جو کہ "مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِيْ" کا مصداق ہے

اور خیر القرون سے یہ جماعت اسی نام سے مشہور چلی آرہی ہے اور قیامت تک حق پر دائم و قائم رہے گی، اس جماعت کا یہ نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تجویز فرمودہ اور پسندیدہ ہے، اسی جماعت کو آپ نے ناجیہ اور فی الجنۃ فرمایا ہے یعنی نجات پانے والی اور جنت میں جانے والی جماعت ہے۔ لہٰذا اس سچی اور برحق جماعت کو مذموم معنی میں فرقہ کہنا یا سمجھنا فرقہ بندی کے مفہوم سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔

فرقہ پرست اور فرقہ ساز کون ہیں؟

اس برحق جماعت سے کٹنے والے اور اس کے راہ سے ہٹنے والے لوگ درحقیقت فرقہ ساز اور فرقہ پرست ہیں اور ایسے لوگ جو اہل السنّت والجماعت کے عقائد، نظریات اور مسائل کو چھوڑ کر نئے نئے عقائد اور نظریات بنا لیتے ہیں اور اپنے لئے رنگین نام تجویز کرتے ہیں۔ مثلاً اہل قرآن، اہل حدیث، اہل اسلام، جماعت مسلمین وغیرہ وغیرہ۔ درحقیقت یہ گمراہ اور مذموم فرقے ہیں جن میں ایک کیپٹن مسعود الدین اور اس کے ماننے والے بھی ہیں کہ انہوں نے پوری امت مسلمہ کو کافر کہہ کر ایک نیا فرقہ بنایا ہے تو یہ لوگ فرقہ پرست، فرقہ ساز اور مسلک پرست کہلانے کے حقدار ہیں۔

فرقہ بندی کا رونا روتے فرقہ سازی کرنا

اس دور کا یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ جو شخص بھی اہل السنّت والجماعت والے عقائد سے منحرف ہو کر نیا دین ایجاد کرنا چاہتا ہے اور اس کے خیال میں ایک نئی جماعت بنانے کا وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ شخص اتحاد بین المسلمین کا نعرہ لگاتا ہے اور اس ضمن میں فرقہ واریت کی خوب مذمت کرتا ہے اور اس سے بیزاری

کا اعلان کرتا ہے اور ساتھ ساتھ علماء اسلام پر دل کھول کر گرجتا اور برستا ہے کہ یہ فرقہ پرست، مسلک پرست اور فرقہ ساز ہیں اور ایسے ویسے ہیں چنانچہ یہ شخص فرقہ واریت کا رونا روتے روتے اور علماء حق کے خلاف زبان چلاتے چلاتے ایک نئی جماعت اور نیا فرقہ بنالیتا ہے، یقین جانیے آج جتنے فرقے دنیا میں موجود ہیں وہ سب کے سب اسی طریقہ سے معرض وجود میں آئے ہیں۔

عرصہ دراز کی بات ہے کہ بندہ عاجز حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ''مسلمانوں کی فرقہ بندی کا افسانہ'' کا مطالعہ کر رہا تھا انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ مدرسہ نظامیہ بغداد کے بعض اساتذہ کو ایک خاص قسم کی دوائی کے متعلق معلوم ہوا کہ وہ قوت حافظہ کو تیز کرتی ہے، چنانچہ ان حضرات نے وہ دوائی شاید وزن سے زیادہ استعمال کر لی جس کی وجہ سے ان کا دماغ فیل ہو گیا اور وہ پاگل ہو گئے، ان میں سے ایک صاحب کی حالت یہ تھی کہ جسم پر کپڑے ندارد، البتہ سر پر پگڑی بندھی ہوئی تھی، وہ بازار جا کر لوگوں سے بلا تکلف مصافحہ کرتے اور کہتے کہ ہم چند ساتھیوں نے فلاں دوائی استعمال کی جس کی وجہ سے بقیہ سب کا دماغ خراب ہو گیا اور پاگل ہو کر جنگلوں میں پھر رہے ہیں، البتہ ایک فقیر جو آپ کے سامنے ہے اپنے ہوش وحواس کو تھامے ہوئے ہے، حالانکہ خود کو کپڑوں کا ہوش نہ تھا یعنی دوسروں کو پاگل کہنے والا خود ننگا پاگل ہو چکا تھا تو یہی حال ہے آج کل کے ملحدین، زنادقہ اور گمراہوں کا کہ دوسروں پر فرقہ پرستی کا الزام لگاتے لگاتے ایک اور فرقہ بنا لیتے ہے۔ پس ثابت ہوا کہ اہل السنت والجماعت مذموم فرقہ نہیں ہے بلکہ حق پرست اور برحق جماعت ہے جو عہد اول سے تسلسل کے ساتھ چلی آ رہی ہے ان کے علاوہ باقی سب فرقے ہیں، فرقہ پرست اور فرقہ ساز ہیں، لیکن الزام علماء اسلام کو دیتے ہیں کہ یہ فرقہ

ساز ہیں، کسی نے خوب کہا ہے:۔

الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے

ایک ضروری انتباہ:

کیپٹن صاحب کو ماننے والا منور سلطان مذاہب اربعہ حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی کو فرقے سمجھتا ہے حالانکہ یہ سارے اہل السنت والجماعت ہیں ان کا اختلاف فروعی ہے جس کو حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت قرار دیا ہے لہذا ان کو فرقے کہنا جہالت ہے اسی طرح سلاسل اربعہ نقشبندی، قادری، چشتی اور سہروردیہ بھی فرقے نہیں ہیں کیونکہ یہ سب اصحاب سلاسل اہل السنت والجماعت ہیں البتہ اپنے مریدین کی اصلاح باطن کے طریقے اور اسباب ان کے اپنے اپنے ہیں باقی عقائد سب کے وہی ہیں جو اہل السنت والجماعت کے ہیں، لہذا ان کو فرقے کہنا بھی جہالت وحماقت ہے۔

مسئلہ نمبر:۔۲

کیا یہ لوگ اہل اسلام یا مسلمین ہیں؟

تمہید:

کیپٹن صاحب اور اس کو ماننے والے دعویٰ کرتے ہیں کہ صرف اور صرف ہم مسلمان ہیں باقی سب کافر اور مشرک ہیں اور اسی زعم باطل کی وجہ سے کسی مسلمان کو سلام نہیں کرتے، کسی کے جنازہ میں شریک نہیں ہوتے بلکہ مسلمانوں کے خلاف ان کے دل بغض وکینہ سے بھرے ہوتے ہیں اسی لئے اپنے آپ کو اہل اسلام، مسلمین کہتے ہیں، حالانکہ یہ لوگ اپنے گمراہ کن نظریات وافکار کی وجہ سے ضال اور مضل

ہیں اوران کی گمراہیوں کی سرحدیں کفر سے جا ملتی ہیں ان لوگوں نے جو عقائد اپنا رکھے ہیں وہ سراسر قرآن وحدیث سے متصادم ہیں، ان کے کسی عمل سے اسلام ظاہر نہیں ہوتا بلکہ یہ لوگ یہودی ذہنیت کے مالک ہیں، البتہ ان لوگوں نے اسلام اور مسلمین کے لفظ کو چرا کر اس پر ناجائز قبضہ کیا ہے جیسا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والوں نے اسلام ربوہ اور مسیح موعود وغیرہ الفاظ پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے اور شیعہ لوگوں نے مؤمنین اور اہلبیت کے لفظ پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے اسی طرح منکرین حدیث نے قرآن اور اہل قرآن کے لفظ پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے منکرین تفقہ فی الدین نے حدیث اور اہلحدیث کے لفظ پر قبضہ کر رکھا ہے اسی طرح کیپٹن صاحب کی جماعت نے اسلام اور مسلمین کے لفظ پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ ورنہ اسلام اور مسلمین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام اور مسلمین کے الفاظ اور اس کے مصداق اول سے توارث اور تسلسل کے ساتھ چلے آرہے ہیں لیکن یہ لوگ تو کسی دور کے مسلمانوں کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے اگر چودہ سو سال کے طویل عرصے میں نہ اسلام تھا اور اس کو ماننے والے مسلمین نہ تھے تو ان کے پاس اسلام کہاں سے آیا اور کن ذرائع سے آیا، ظاہر ہے کہ جن ذرائع سے ان کے پاس اسلام اور قرآن پہنچا وہ ذرائع ہی کفریہ اور شرکیہ عقائد کی وجہ سے ناقابل اعتماد ہیں، لہٰذا ایسے اسلام اور قرآن پر کیا اعتماد کیا جا سکتا ہے جو مشرکوں اور کافروں کے ہاتھوں ان تک پہنچا۔ تو معلوم ہوا کہ جس طرح مرزائیوں نے قرآن مجید سے ربوہ کا لفظ چرا کر اپنے شہر کا نام رکھ دیا اسی طرح انہوں نے اسلام اور مسلمین کا لفظ چرا کر اپنا نام تجویز کر لیا ہے، لہٰذا ان کو اہل اسلام اور مسلمین کہنے کی بجائے اسلام اور مسلمین کا چور کہنا زیادہ موزوں اور مناسب ہے۔

اہل السنّت والجماعت والے ہی مسلمین ہیں:

بے شک قرآن وحدیث میں مسلمانوں کو مسلمین اور مؤمنین فرمایا گیا ہے لیکن اہل السنّت والجماعت کا نام بھی عہد اول اور خیر القرون سے چلا آرہا ہے اور یہ نام بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ اور تجویز فرمودہ ہے تو علماء اسلام فرماتے ہیں کہ ہم مشرکین کافرین کے مقابلہ میں مسلمین اور مؤمنین ہیں لیکن جب اسلام اور ایمان کے نام لیوا بہت لوگوں نے بدعات ایجاد کیں اور ان پر اسلام اور ایمان اور قرآن اور توحید وغیرہ کا لیبل لگایا تو ایسے اہل بدعت لوگوں کے مقابلہ میں ہم اہل السنّت والجماعت ہیں باقی حنفی، مالکی وغیرہ تو ہمارے قرآن واسلام کی اسناد ہیں جیسے حدیث بخاری یا حدیث ترمذی کہنے سے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نفی نہیں ہوتی اسی طرح فقہ حنفی اور نماز حنفی کہنے سے فقہ محمدی اور نماز محمدی کی نفی نہیں ہوتی۔ کوئی احمق ہوگا جو حدیث بخاری سے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی نفی سمجھے یا نماز حنفی سے نماز محمدی کی نفی سمجھے۔

علماء دیوبند "کثر اللہ سوادھم" اہل السنّت والجماعت ہیں

کیپٹن مسعود الدین عثمانی کو ماننے والے منور سلطان نامی شخص نے علماء دیوبند کو بھی مذموم فرقہ قرار دیا ہے بلکہ سب سے زیادہ غصہ انہی پر نکالا ہے اور اس کے انداز تحریر سے اندازہ ہوتا ہے کہ علماء دیوبند کے بغض وحسد سے اس کا سینہ بھرا ہوا ہے لیکن ایسا سمجھنا اس کی کوتاہ فہمی ہے کیونکہ علماء دیوبند ایسی کوئی جماعت نہیں ہے جسے مذموم فرقہ کہا جائے بلکہ اس دور میں علماء دیوبند اہل السنّت والجماعت کے صحیح جانشین اور سچے ترجمان ہیں جو عقائد اہل السنّت والجماعت کے ہیں وہی علماء دیوبند کے

ہیں، اللہ جل شانہ کی مہربانی اور احسان ہے کہ اس نے ہمارے اکابر علماء دیوبند کو اسلام، قرآن وحدیث، توحید اور ختم نبوت وغیرہ تمام دین اسلام کی خدمت کے لئے منتخب فرمایا ہے دین اسلام کا کوئی ایسا شعبہ نہیں جس کی خدمت علماء دیوبند سرانجام نہ دے رہے ہوں، لہذا علماء دیوبند اہل السنت والجماعت ہیں اور اہل السنت والجماعت مسلمین کا حقیقی مصداق ہیں اور اہل بدعت قطعاً اہل اسلام نہیں ہو سکتے اور نہ ہی مسلمین کا مصداق بن سکتے ہیں، البتہ سینہ زوری سے مسلمین کے لفظ پر جمے ہوئے ہیں جس طرح رافضی مؤمنین کے لفظ پر قابض ہیں۔

مسئلہ نمبر: ۳۰

حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سارے مقامات سے افضل ہے

تمہید:

علماء اسلام کا اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرت انسان اشرف المخلوقات ہے اور تمام انسانوں میں حضرات انبیاء کرام افضل وبرتر ہیں اور تمام انبیاء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونچی شان والے ہیں۔ عرش، کرسی، کعبہ زمین اور آسمان وغیرہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو عدم سے وجود بخشا اور درجہ بدرجہ ان کو شان بزرگی اور عظمت وتکریم عطا فرمائی لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری مخلوقات سے افضل شان عطا فرمائی ہے۔ اسی پر اجماع امت ہے اور کتاب وسنت ناطق ہے اسی طرح یہ بھی علماء اسلام کا اجماع ہے کہ وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مستقل ٹھکانہ قبر مبارک کی صورت میں قیامت تک نصیب ہوا ہے وہ تمام مقامات سے افضل وبرتر ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساری مخلوقات سے افضل ہیں اور آپ کا مقام (قبر شریف) بھی تمام مقامات سے افضل وبرتر ہے خواہ وہ مقام کعبۃ اللہ ہو یا عرش معلیٰ ہو یا ناقۃ اللہ ہو یا نار اللہ ہو۔ بہر حال مقام کوئی بھی ہو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے افضل نہیں ہو سکتا۔ باقی کوئی ایسا مقام نہیں ہے جسے اللہ کا مکان کہا جا سکے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو لامکان ہے وہ تو زمان ومکان کی قیودات سے منزہ اور برتر ہے عرش الٰہی کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی کرسی پر ایسے بیٹھا ہے جیسے افسر اپنی کرسی پر بیٹھتا ہے اور بیت اللہ کا یہ مطلب نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جس میں وہ رہتا ہے۔ بلکہ استویٰ علی العرش وغیرہ آیات متشابہات میں سے ہیں ان کی حقیقی مراد اللہ خود بہتر جانتا ہے بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ استویٰ عرش سے وہ معنی مراد ہے جو اس کی شان کے لائق اور مناسب ہے ان اشیاء کی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت واضافت ان اشیاء کی شرافت بیان کرنے کیلئے ہے۔ جیسے: نَاقَةُ اللّٰهِ یعنی اللہ تعالیٰ کی اونٹنی، ظاہر ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اونٹنی پر سوار ہوتا ہے کیونکہ یہ تو اس کے شان کے لائق نہیں ہے تو یہ اضافت تشریفی ہے لہذا عرش الٰہی کا یہ مطلب لینا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹھنے کا مکان ہے اور بیت اللہ سے یہ مراد لینا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رہنے کا مکان ہے۔ اسی طرح کرسی کا یہ مطلب لینا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹھنے کی جگہ اور مکان ہے درست نہیں ہے کیونکہ یہ مطلب اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہے کیونکہ وہ تو لامکان ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا محمد ادریس کاندہلویؒ۔ استویٰ علی العرش کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"تمام انبیاء ومرسلین کا اس پر اجماع ہے کہ تمام عالم حادث

ہے۔ خدا تعالیٰ کے ارادہ وقدرت سے عدم کے پردہ سے نکل کر وجود میں آیا، پھر بعد ازاں اللہ تعالیٰ بلا کسی نقل وحرکت کے عرش پر بلا کسی حلول اور بلا تمکن اور بلا استقرار کے قائم ہوا جیسا کہ قیام اس کی شان کے لائق اور مناسب تھا اور حکمرانی شروع کی اور علویات وسفلیات میں اپنی تدبیر اور تصرف اور احکام کو جاری فرمایا جیسا کہ دوسری جگہ ثم استویٰ علی العرش کے بعد یدبر الامر۔ وغیرہ کے الفاظ آئے ہیں جو استویٰ علی العرش کی تفسیر ہیں اور یہود بے بہبود یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین پیدا کرنے کے بعد تھک گیا اور درماندگی کی وجہ سے عرش پر لیٹ گیا۔ تمام اہل اسلام کا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیلئے نہ کوئی حد ہے اور نہ کوئی نہایت اور نہ کوئی اس کیلئے مکان اور سمت وجہت ہے اس کی ہستی سمت اور جہت اور مکان اور زمان کے قیودات اور حدود سے پاک اور منزہ ہے اس کی ہستی کسی زمان یا مکان کی ہستی پر موقوف نہیں بلکہ مکان اور زمان کی ہستی اس کی ایجاد اور تکوین پر موقوف ہے کیونکہ جب مکان وزمان موجود نہ تھے وہ اس وقت بھی تھا اور جبکہ زمان ومکان موجود ہیں تب بھی موجود ہے وہ خداوند ذوالجلال زمین اور آسمان اور عرش اور کرسی کے پیدا کرنے سے پہلے جس صفت اور شان پر تھا اب بھی اسی صفت اور شان پر ہے۔ معاذ اللہ عرش عظیم خداوند کریم کا حامل نہیں کہ خدا تعالیٰ کو اپنے اوپر اٹھائے

ہوئے یا تھامے ہوئے ہو بلکہ خدا تعالیٰ کی قدرت اور رحمت عرش کو اٹھائے ہوئے یا تھامے ہوئے ہے وہ ذرہ برابر کسی عرش اور فرش کا محتاج نہیں بلکہ سب اسی کے محتاج ہیں۔ معلوم ہوا کہ "استویٰ علی العرش" سے عرش پر بیٹھنا اور متمکن اور مستقر ہونا مراد نہیں بلکہ کائنات عالم کے تدبیر اور تصرف کی طرف متوجہ ہونا مراد ہے اور یہ جملہ یعنی "استویٰ علی العرش" قرآن کریم میں سات جگہ آیا ہے ایک تو یہ جگہ کہ آپ کے سامنے ہے دوم سورۂ یونس میں، سوم سورۂ رعد میں، چہارم سورۂ طٰہٰ میں پنجم سورۂ فرقان میں ششم سورۂ سجدہ میں ہفتم سورۂ حدید میں۔ اور سب جگہ اس کی شان شہنشاہی اور تدبیر اور تصرف کو بیان کرنا مقصود ہے کہ وہی سارے عالم کا خالق اور وہی تمام کائنات کا مدبّر اور ان میں متصرف ہے یہی فی الحقیقت تمہارا رب ہے جس کا حکم آسمانوں اور زمینوں میں جاری ہے۔"

متشابہات

اور اس قسم کی تمام آیتیں اور حدیثیں جن سے بظاہر یہ وہم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مکان یا جہت میں ہے جیسے آیات "اِسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ" اور احادیث نزول باری تعالیٰ اس قسم کی آیات اور احادیث کو متشابہات کہتے ہیں ان کی تفسیر میں علماء کا اختلاف ہے۔

فرقہ مجسمہ اور مشبہہ اور کرامیہ:

اس قسم کی آیات اور احادیث کو ظاہری اور حسی معنی پر محمول کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اِسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ کے معنی تخت پر بیٹھنے کے ہیں اور جس طرح دنیا کا بادشاہ تخت پر بیٹھتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھتا ہے۔ اس گروہ کے نزدیک استواءَ کے معنی تمکن اور استقرار اور قعود کے ہیں ظاہر پرست اس قسم کے الفاظ کو ظاہری اور عربی معنی میں لے کر خدا تعالیٰ کیلئے عرش (تخت) پر بیٹھنا ثابت کرتے ہیں۔

اہل حق:

اہل حق یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک اور منزہ ہے کہ وہ کسی عرش اور تخت پر یا کسی جسم پر متمکن اور مستقر ہو یعنی جس طرح کسی بادشاہ کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے یا ایک چارپائی پر بیٹھا ہوا ہے۔ مگر خدا تعالیٰ کو ایسا کہنا ہرگز جائز نہیں کیونکہ اگر خدا تعالیٰ کسی جسم اور محل پر متمکن اور مستقر ہو تو اس کا مقدار ہونا لازم آئے گا کیونکہ جو چیز کسی جسم پر متمکن ہوتی ہے اور کمی اور بیشی اور مساوات کے ساتھ وہی شئے موصوف ہو سکتی ہے جو مقداری ہو اور اللہ تعالیٰ کمیت اور کیفیت اور مقدار سے پاک اور منزہ ہے نیز جو چیز کسی مکان یا جہت میں ہوگی وہ محدود اور متناہی ہوگی اور اطراف و جوانب میں محصور ہوگی اور جو محدود و محصور ہے وہ مخلوق اور حادث ہے الخ۔

(تفسیر معارف القرآن، ص: ۵۶، ۵۷ ج ۳)

قارئین کرام! حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ نے کتاب وسنت کے دلائل نقلیہ وعقلیہ سے ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مکان، جہت اور سمت سے پاک ومنزہ ہے ورنہ ان کا محدود وحادث ہونا لازم آئے گا البتہ فرقہ مجسمہ مشبہہ اور کرامیہ،

اللہ تعالیٰ کیلئے مکان ثابت کرتے ہیں حالانکہ ایسا معنی اللہ تعالیٰ کے شایان شان بھی نہیں اور آیات محکمات کے خلاف بھی ہے اور متشابہات کا ایسا مطلب لینا جو آیات محکمات کے خلاف ہو گمراہی اور کجروی ہے۔

تو اب ان حقائق کے سامنے آجانے کے بعد عرش، کرسی اور کعبۃ کو اللہ تعالیٰ کا مکان سمجھ کر یہ اعتراض کرنا کہ علماء اسلام نے اللہ تعالیٰ کے مکان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کو افضل کہہ کر اللہ تعالیٰ کی یا اللہ تعالیٰ کے مکان کی توہین وتحقیر کی ہے، پرلے درجے کی حماقت، ضلالت اور کجروی ہے کیونکہ عرش، کرسی اور کعبہ، اللہ تعالیٰ کا رہائشی مکان نہیں ہے کیونکہ وہ تو پاک اور منزہ ذات ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک آپ کا حقیقی مقام اور مکان ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک رہنا ہے۔ عرش، کرسی اور بیت اللہ مخلوق اور حادث ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں بے شک عظمت وکرامت والے ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالاجماع افضل المخلوقات ہیں عرش، کرسی اور کعبہ سے بھی افضل وبرتر ہیں۔ تو اسی وجہ سے علماء اسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کو تمام مکانوں سے افضل وبرتر قرار دیا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو لامکان ہی ہے۔ لہٰذا یہ بنیاد ہی غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مکان افضل ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور جب یہ سوال ہی غلط ہے تو اعتراض ہی غلط ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کو اللہ تعالیٰ کے مکان سے افضل کیوں کہا گیا آسان لفظوں میں پھر سمجھ لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان (قبر شریف) کے مکین ہیں اور اللہ تعالیٰ لامکان ہے۔

تو اسی صورت حال میں اگر اشرف المخلوقات کے افضل ترین فرد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کو تمام مکانوں سے افضل کیا گیا ہے تو اس پر

مسعودیوں کا بے جا شور شرابا کرنا محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی اور عاری ہونے کی علامت ہے۔ مندرجہ ذیل کتب میں علماء اسلام نے اس عقیدہ کو اجماعی عقیدہ قرار دیا ہے۔ (شفاء، شرح شفاء، نووی شرح مسلم ج۱ص، ردالمحتار علی درالمختار ج۲ص: ۲۷۸، مواہب لدنیہ، شرح مواہب، فضائل مدینہ از علامہ سمہودی، ملفوظات محدث کشمیری، ص: ۲۶۸، انوار الباری شرح صحیح بخاری حصہ ششم، ص: ۲۲۱، ۲۲۵، حصہ ۱۷، ص: ۳۸۰، فتح الملہم شرح مسلم، معارف السنن ج۳ص: ۳۲۳، تاریخ المدینۃ المنورہ، آپ کے مسائل اور ان کا حل ص: ۶۱، ۶۲، ج۱۰، المہند علی المفند یعنی عقائد علماء دیوبند)

مندرجہ ذیل علماء اسلام نے اس مسئلہ کو بیان کیا ہے ابن عقیل حنبلی، علامہ محدث باجی، ابن عساکر، علامہ نووی، سراج بلقینی، فاکہانی، محدث خفاجی، برماوی سید سمہودی، علامہ سبکی، علامہ قسطلانی، علامہ زرقانی مالکیؒ، تمام علماء دیوبند کثر اللہ سوادہم وغیرہم رحمہم اللہ۔

قاضی عیاض مالکیؒ نے تو اس پر اجماع امت نقل کیا ہے کہ اگر کسی دور میں کسی نے اس مسئلہ میں اختلاف ظاہر کیا بھی ہے تو جمہور علماء اسلام کی رائے یہی رہی ہے، بلکہ اختلاف کرنے والے کی رائے کو اس کے تفردات میں شمار کیا گیا ہے۔ اگر کیپٹن صاحب اور اس کے پیروکاروں کو اس مسئلہ میں اختلاف رائے تھا تو مہذب طریقے سے اس کا اظہار کرتے، لیکن ان لوگوں کے ہاں تہذیب نام کی چیز ہے ہی نہیں چنانچہ منور سلطان کی ایسا عقیدہ رکھنے والوں پر وحشیانہ بمباری ملاحظہ فرمائیں۔

منور سلطان کی غیر مہذب تردید:

منور سلطان اس عقیدہ کی رد میں درج ذیل شہ سرخی قائم کر کے لکھتا ہے:

اللہ کے عرش کرسی وکعبہ کی تحقیر وتذلیل:

> ”دیوبندیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ حصہ زمین جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے مبارکہ کو مس کئے ہوئے ہے علی الاطلاق افضل ہے یہاں تک کہ کعبہ اور عرش وکرسی سے بھی افضل ہے یہ عقیدہ ان کی کتاب ”المہند علی المفند“ سے لیا گیا ہے۔“ (اسلام یا مسلک پرستی، ص: ۷)

بندہ عاجز جواب میں عرض گزار ہے کہ منور سلطان مسعودی نے ”المہند علی المفند“ کا حوالہ صحیح دیا ہے۔ لیکن ان کا یہ کہنا کہ دیوبندیوں کا یہ عقیدہ ہے صحیح نہیں ہے۔ صرف دیوبندیوں کا نہیں بلکہ پوری امت محمدیہ علی صاحبہا الصلاۃ والسلام کا یہی عقیدہ ہے کیونکہ اسی عقیدہ پر اجماع امت ہے اور علماء اسلام نے ابن تیمیہ کے انکار کو ان کے تفردات میں شمار کیا ہے۔ ویسے ابن تیمیہ کا انکار مسعودیوں کو قطعاً مفید نہیں ہے۔ کیونکہ عقیدہ حیات وسماع کی وجہ سے کیپٹن صاحب ان کو اپنے رسائل عذاب برزخ اور یہ مزار یہ میلے، وغیرہ میں کافر ومشرک کہہ چکا ہے۔ اور اجماع امت ایک حجت شرعیہ ہے اور اجماع کو چھوڑنے والا ”یَتَّبِعْ غَیْرَ سَبِیْلِ الْمُؤْمِنِیْنَ“ کا مصداق اور گمراہ ہے۔ لہذا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ دیوبندیوں کا یہ عقیدہ ہے درحقیقت پوری امت کا یہ عقیدہ ہے۔

کیا کسی شخص کو یا کسی چیز کو افضل کہنے سے مفضول کی تحقیر و تذلیل لازم ہے:

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو علمائے اسلام نے تمام مقامات

سے افضل قرار دیا، منور سلطان نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کے عرش، کرسی اور کعبہ کی تحقیر وتذلیل ہوگئی ہے حالانکہ یہ ان کے سوء فہم اور قلت تدبر کا نتیجہ ہے۔ ایک چیز کو افضل کہنے سے دوسری چیز کی تحقیر وتذلیل لازم نہیں آتی۔ ہمارا عقیدہ ہے انسان اشرف المخلوقات ہیں تو اس سے دوسری مخلوق کی تحقیر وتذلیل ہوگئی؟ ہمارا عقیدہ ہے صحابہ کرام ساری امت سے افضل ہیں۔ کیا اس سے امت کی تحقیر وتذلیل ہوگئی؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیقؓ تمام صحابہ سے افضل ہیں۔ کیا اس سے تمام صحابہ کی تحقیر وتذلیل ہوگئی؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام ابوبکر صدیقؓ سمیت تمام صحابہ کرام سے افضل ہیں۔ کیا اس سے صدیق اکبر اور دیگر صحابہ کی تحقیر وتذلیل ہوگئی؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام سے افضل ہیں تو کیا اس سے حضرات انبیاء کرام کی تحقیر وتذلیل ہوگئی؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام سمیت اپنی ساری مخلوق سے افضل ہیں، تو کیا انبیاء کرام اور دیگر مخلوقات کی تحقیر وتذلیل ہوگئی؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید تمام کتابوں سے، رمضان المبارک تمام مہینوں سے، جمعۃ المبارک، تمام دنوں سے اور کعبۃ اللہ تمام مساجد سے افضل ہیں۔ تو کیا اس سے تمام دوسری چیزوں کی تحقیر وتذلیل ہوگئی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ یعنی ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، تو کیا جن بعض رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے تو دوسرے بعضوں کی تحقیر وتذلیل ہوگئی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ دَرَجَةً یعنی اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو جہاد سے بیٹھنے والوں پر فضیلت دی ہے۔ تو کیا اس سے جہاد سے بیٹھنے والوں کی تحقیر وتذلیل ہوگئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ۔ تو کیا اس سے باقی رمضان کی راتوں کی تحقیر وتذلیل ہوگئی؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَفَوْقَ كُلِّ ذِيْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ۔ تو کیا اس سے چھوٹے اہل علم کی تحقیر وتذلیل ہوگئی؟ اللہ تعالیٰ قوم بنی اسرائیل کو مخاطب کرکے فرماتے ہیں فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِيْنَ۔ یعنی میں نے تم کو جہان والوں پر فضیلت دی ہے۔ تو کیا اس سے "العالمین" کی تحقیر وتذلیل ہوگئی؟ اس کے علاوہ اس کی اور بھی بکثرت مثالیں موجود ہیں لیکن بخوف طوالت اسی پر اکتفاء کیا جاتا ہے۔ تاکہ آپ کو معلوم ہوجائے کہ یہ لوگ کتنی گندی سوچ کے مالک ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو افضل کہنے سے یہ نتیجہ اخذ کرلیا کہ عرش، کرسی اور کعبہ کی تحقیر وتذلیل ہوگئی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔

منور سلطان کی آپے سے باہر ہو کر کذب بیانی

اس اجماعی عقیدے کی بے تحاشہ تردید کرتے ہوئے منور سلطان آپے سے باہر ہوگیا حتی کہ کذب بیانی شروع کردی چنانچہ لکھتا ہے:

> "اس عقیدے میں اللہ تعالیٰ کی عظمت وکبریائی کی تنقیص کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوقیت دی گئی ہے عبد کو معبود سے مخلوق کو خالق سے بڑھا کر پیش کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے منسوب چیزوں کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب چیزوں کو افضل قرار دیا گیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ سے افضل تو کیا اس کے برابر بھی کوئی چیز نہیں"۔
>
> (اسلام یا مسلک پرستی، ص: ۷)

دیکھئے! یہ ظالم کس بے حیائی سے جھوٹ بولتا جارہا ہے، حالانکہ مسئلہ تو یہ چل رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تمام مقامات سے افضل ہے۔ عرش،

کرسی اور کعبہ بھی مخلوق ہیں اور آپؐ کے مقام کی شان ان مقامات سے بھی افضل ہے۔ اب جو شخص یہ کہنے لگے کہ اس عقیدہ والوں میں عبد کو معبود پر مخلوق کو خالق پر فوقیت دیکر اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کی تنقیص کی ہے۔ تو اس بہتان اور کذب بیانی کے جواب میں لَعۡنَةُ اللّٰهِ عَلَى الۡكٰذِبِيۡنَ کہا جا سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بے شک تمام مقامات سے افضل و برتر ہے، لیکن جہاں تک تعلق اللہ کی شان عظمت اور کبریائی اور اس کی ذات پاک کا تو اس پر تو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فوقیت دینا ایک ایسی بات ہے جس کا کوئی مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن توحید کے ان ٹھیکیداروں نے علماء دیو بند پر بہتان کھڑا کیا ہے جس سے ہمارے اکابر پاک و صاف ہیں. سبحانک هذا بهتان عظيم .

کیا عرش و کرسی اور کعبہ منسوب الی اللہ ہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف منسوب نہیں ہیں؟

منور سلطان کی حماقت ملاحظہ فرمائیں کہ عرش، کرسی اور کعبہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب سمجھتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف منسوب نہیں سمجھتا ہے، اس سے بڑھ کر حماقت کیا ہو سکتی ہے۔ حالانکہ جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش، اللہ تعالیٰ کی کرسی، اللہ تعالیٰ کا گھر، اسی طرح کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہیں ان سب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اونچی اور بلند ہے۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ مسعودیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نسبت نظر آتی ہی نہیں۔

کیا جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو جائے وہ انبیاء کرام سے بھی بڑھ جاتی ہے؟

عرش، کرسی اور کعبہ بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہیں لیکن مسعودیوں کو معلوم ہونا چاہئے کہ قرآن مقدس میں کئی اور چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ مثلاً: نَاقَةُ اللّٰهِ، یعنی اللہ کی اونٹنی. نَارُ اللّٰهِ، اللہ کی آگ، خَلۡقُ اللّٰهِ، اللہ کی مخلوق۔ وغیرہ وغیرہ۔ تو اب سوال یہ ہے کہ مذکورہ بالا چیزیں منسوب الی اللہ ہونے کی وجہ سے وہی شان رکھتی ہیں جو عرش، کرسی اور کعبہ کی ہے۔ اگر ان کے برابر شان رکھتی ہیں تو کیا یہ چیزیں بھی انبیاء کرام سے افضل ٹھہریں گی۔ اور اگر ان کی شان عرش، کرسی سے کم ہے تو بقول شما، ان منسوب الی اللہ چیزوں کی تحقیر و تذلیل لازم آئے گی۔ لہٰذا اپنا عقیدہ واضح کریں، نار اللّٰه، خلق اللّٰه اور ناقة اللّٰه کی شان انبیاء کرام سے بڑھاؤ گے تو انبیاء کرام کی تحقیر و تذلیل کرو گے۔ اور اگر انبیاء کرام کی شان ان سے بڑھاؤ گے تو اللہ کی طرف منسوب چیزوں کی تحقیر و تذلیل کرو گے۔ بہر حال کسی تحقیر و تذلیل کو لازماً اپنانا ہی پڑے گا اس کے بغیر آپ کو چارہ ہی نہیں، امید ہے کہ سوچ سمجھ کر جواب دو گے۔

مسعودی نے جھوٹ کیوں بولا بہتان کیوں اٹھایا؟

مسعود الدین عثمانی کے چیلے نے یہ جھوٹ اور بہتان اسلئے کھڑا کیا ہے تاکہ علماء دیو بند کو بدنام کیا جائے کہ یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قبر مبارک کو اللہ سے افضل سمجھتے ہیں۔ الحمد للہ علمائے دیو بند پر اس قسم کے کئے الزامات مخالفین نے لگائے اور قسم قسم کی غلط باتیں اور گمراہ کن نظریات ان کی طرف منسوب کئے ہیں،

لیکن اہل علم خوب جانتے ہیں۔ علماء دیوبند کا دامن، اس قسم کے جھوٹے الزامات سے صاف ہے۔ اور یہ گمراہ لوگ ایسے ہتھکنڈوں سے علماء حق کی حیثیت کو گھٹا بھی نہیں سکتے اور نہ ہی ان کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔

﴿يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِئُوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ﴾

نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن
پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا

کیپٹن صاحب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بلند وبالا سمجھتا ہے:

منور سلطان تو علماء دیوبند کی بے تحاشہ تردید کرتا ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سب مقامات سے افضل کہہ کر عرش، کرسی اور کعبہ کی تحقیر و تذلیل کر دی۔ اور کبھی کہتا ہے کہ عبد کو معبود سے اور مخلوق کو خالق سے بڑھا دیا۔ جبکہ اس کا امام و پیشوا کیپٹن مسعود الدین عثمانی خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سب سے بلند وبالا کہتا ہے۔ چنانچہ لکھتا ہے:

> ''نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد بھی مدینہ منورہ کی قبر میں زندہ نہیں، بلکہ شہداء کی جنت الفردوس سے بھی اچھی جگہ "الوسیلة" کے مقام پر زندہ ہیں۔''

جو جنت الفردوس سے اوپر عرش الٰہی سے نیچے، سب سے بلند وبالا مقام ہے۔ (عذاب برزخ، ص:۸)

دیکھئے کیپٹن صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سب سے بلند وبالا مقام بتا رہے ہیں حتیٰ کہ جنت الفردوس سے بھی اچھا کہہ رہے ہیں۔ پس اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو افضل کہنا جرم ہے اور عرش و کرسی اور کعبہ کی تحقیر و تذلیل ہے بلکہ عبد کو معبود سے اور مخلوق کو خالق سے بڑھانا ہے تو یہ جرم و کفر خود کیپٹن صاحب بھی کر اور لکھ چکے ہیں۔ شاید کوئی کہے کہ کیپٹن صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام عرش کے نیچے بتایا ہے تو یہ آپ کے مقام کا محل وقوع بتا رہے ہیں ورنہ شان تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی سب سے بلند وبالا ہے۔ کرسی اور کعبہ کا تو استثنا نہیں کیا لہٰذا کرسی اور کعبہ کی تحقیر و تذلیل کر ہی دی اور عبد کو معبود سے اور مخلوق کو خالق سے تو بڑھا ہی دیا۔ تو بتائیے کیپٹن صاحب پر کیا فتویٰ لگاؤ گے۔ علماء دیوبند پر برسنے والو! ذرا اپنے گھر کی تو خیر مناؤ۔

علماء اسلام اور کیپٹن صاحب کے عقیدہ میں فرق:

اس عقیدہ پر تو سب کا اتفاق ہے کہ وفات کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی ٹھکانہ اور مقام ہے وہ سب مقامات سے اچھا، افضل اور بلند وبالا ہے۔ علماء اسلام بھی یہی فرماتے ہیں اور کیپٹن صاحب نے بھی یہی لکھا ہے۔ یعنی بالاتفاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام افضل و برتر ہے البتہ علماء اسلام فرماتے ہیں کہ وفات کے بعد قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام آپ کی قبر مبارک ہے اور آپ کیلئے آپ کی قبر مبارک جنت کا اعلیٰ باغ ہے۔ اور ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں ہوتے ہوئے جنت کی سیر و سیاحت فرماتے ہیں جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہیں اور جن چیزوں کا آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا وہ بھی پورا ہو رہا ہے اور جب آپ صلی اللہ علیہ و

سلم اپنی قبر مبارک سے اٹھیں گے تو سب سے پہلے دنیا والے جسد کے ساتھ جنت میں آپ کا داخلہ ہوگا بہر حال قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام قبر مبارک ہے اور یہی قبر مبارک برزخی مقام ہے لیکن کیپٹن صاحب اس کے برعکس وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس کو کسی دوسرے جسم کے ساتھ جنت میں داخل سمجھتے ہیں تو معلوم ہوا کہ اس میں تو اختلاف ہے کہ وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کونسا ہے۔ قبر مبارک یا جنت میں عرش کے نیچے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو افضل، اچھا اور بلند و بالا تو سب مانتے ہیں۔ جب سب کے نزدیک آپ ﷺ کا مقام افضل ہے تو علماء دیوبند پر ناراض ہونے کا کیا مطلب؟ ان پر غصہ نکالنے کا کیا فائدہ؟ ان پر فتویٰ بازی سے چہ سود۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو افضل کہنے سے عرش، کرسی اور کعبہ کی تحقیر ہوتی ہے تو سب نے کی ہے اگر اس سے عبد کی معبود پر اور مخلوق کی خالق پر فوقیت لازم آتی ہے تو سب کو لازم آتی ہے اگر اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کی تنقیص ہوتی ہے تو سب نے کی ہے۔ صرف علماء دیوبند کو کوسا جا رہا ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیپٹن صاحب کو مجرم کیوں نہیں ٹھہرایا گیا؟ آخر بات کیا ہے؟ بہر حال منور سلطان صاحب کی طرز تحریر سے ایک تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ علماء دیوبند علماء حق کے خلاف اس کا دل حسد کی آگ سے بھرا ہوا ہے۔ جس کو یہ اگل رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس نے اپنے امام و پیشوا کیپٹن مسعود صاحب کے رسالوں کا مطالعہ نہیں کیا ورنہ یہ زہر اور یہ آگ نہ اگلتا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ کیپٹن صاحب نے صاف لفظوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو جنت الفردوس سے اچھا کہا ہے جبکہ جنت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے۔ وَادْخُلِیْ جَنَّتِیْ۔ تو اب جنت کی تحقیر و تذلیل ہوگئی اور خالق کی تنقیص (معاذ اللہ)۔

منور سلطان کا عقیدہ مجسمہ اور مشبہہ فرقے والا ہے:

آپ نے گذشتہ اوراق میں حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ کا ایک طویل اقتباس پڑھا ہے کہ فرقہ مجسمہ اور مشبہہ والے استویٰ علی العرش کا ظاہری معنی لے کر اللہ تعالیٰ کو کسی جسم پر متمکن سمجھتے ہیں حالانکہ یہ معنی دوسری نصوص کے بالکل خلاف ہے لہذا یہ ظاہری معنی مراد نہیں ہوسکتا ہے لیکن منور سلطان انہیں گمراہ فرقوں والا معنی لیکر اللہ تعالیٰ کو کسی مخلوق کے جسم پر متمکن سمجھتا ہے چنانچہ لکھتا ہے:

> ''عرش وہ جگہ ہے جہاں تمام کائنات کا خالق و مالک متمکن ہے''۔
>
> (اسلام یا مسلک پرستی، ص:۸)

یہ عقیدہ بعینہ فرقہ مجسمہ و مشبہہ والا ہے اور دلائل عقلیہ و نقلیہ سے مردود ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی چیزوں سے پاک و منزہ ہے اس کا استویٰ علی العرش ایسا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔

منور سلطان صاحب کی تضاد بیانی: ص،۸ پر واضح لکھ دیا کہ عرش وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ متمکن ہے۔ لیکن ص:۹، پر اس کے برعکس یہ لکھ دیا کہ:

> ''کرسی سے مراد چار پائی والی کوئی نشست ہرگز نہیں، کیونکہ نعوذ باللہ، اللہ کا کوئی محدود مادی جسم نہیں جو ایک محدود جگہ پر متمکن ہے اور دوسری جگہ لکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی محدود جسم نہیں جو ایک محدود جگہ پر متمکن ہو۔''

یہ کھلم کھلا تضاد ہے جو ایک ہی ورق پر منور صاحب سے سرزد ہوگیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیچارہ علماء حق کے خلاف حد سے اتنا تجاوز کر گیا ہے کہ اپنا ہوش بھی کھو بیٹھا ہے۔ اس لئے تو تضاد کا شکار ہے۔

منور صاحب کی دوسری تضاد بیانی:

منور صاحب نے اپنے رسالہ ''اسلام یا مسلک پرستی کے ص:۷'' پر عرش، کرسی اور کعبہ کو چیزیں یعنی مخلوق کہا اور ص:۹ پر کرسی سے مراد اللہ تعالیٰ کا اقتدار و اختیار اور کنٹرول لیا جبکہ قدرت و اختیار تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے نہ کہ مخلوق یعنی کبھی کرسی کو چیز کہہ کر مخلوق بتاتا ہے اور کبھی کرسی کا معنی قدرت لے کر خالق کی صفت بتاتا ہے۔ اگر پہلی بات درست ہے تو دوسری غلط ہے اور اگر دوسری درست ہے تو پہلی غلط ہے بہر حال ایک ہی چیز خالق بھی ہو اور مخلوق بھی ہو نہیں ہو سکتی۔ منور صاحب نے ایسا ہی بنا رکھا ہے۔

منور صاحب کا علماء دیوبند پر بہتان:

منور صاحب لکھتا ہے ''ان مسلک پرستوں کے نزدیک قبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اس لامحدود اختیار [کرسی] سے افضل ہے۔ اس طرح انہوں نے مخلوق کو خالق سے اور بندے کو آقا سے بڑھا دیا ہے۔'' ''اسلام یا مسلک پرستی، ص:۹'' پر منور صاحب نے یہ ایک بہت بڑا بہتان کھڑا کیا ہے اور جھوٹا الزام لگایا ہے کوئی مسلمان بھی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے لامحدود اختیار اور قدرت سے افضل نہیں سمجھتا حقیقت تو یہ ہے کہ کرسی ایک مخلوق، محدود اور حادث چیز ہے اور منجملہ مقامات میں سے ایک ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بھی ایک مقام ہے اور علماء اسلام کا عقیدہ ہے کہ افضل الرسل کا مقام بھی افضل المقامات ہے۔ مسئلہ تو یہ چل رہا ہے کہ کرسی سے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام افضل ہے۔ لیکن منور صاحب نے کرسی کا معنی قدرت و اختیار کر کے علماء اسلام پر الزام لگا دیا ہے کہ یہ لوگ اللہ کی قدرت اور اختیار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو افضل کہتے ہیں یہ تو خالص بہتان اور سفید جھوٹ ہے جس سے علماء اسلام کا دامن پاک وصاف ہے۔

کیا کیپٹن صاحب کرسی کو اپنا خالق و آقا سمجھتے ہیں:

علماء اسلام نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کرسی سے افضل ہے اس پر منور صاحب نے کہا کہ ''انہوں نے مخلوق کو خالق سے اور بندے کو آقا سے بڑھا دیا ہے''۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ کرسی منور صاحب اور اس کی جماعت کی خالق اور آقا ہے۔ ان توحید پرستوں سے کون پوچھے کہ ظالموں! تم نے تو دو خالق اور دو معبود بنا ڈالے اللہ بھی خالق اور اللہ کی کرسی بھی خالق۔ **معاذ اللہ ثم معاذ اللہ**

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ.

اتنا بڑا شرک بکنے کے باوجود ان کی توحید میں کوئی خلل نہیں آتا۔ مگر شرم تم کو نہیں آتی۔

منور صاحب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اعلیٰ ترین کہتا ہے:

عجیب بات ہے کہ علماء اسلام پر گرجنے برسنے والا منور صاحب خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اعلیٰ ترین کہتا ہے۔ چنانچہ لکھتا ہے ''اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ باقی حصہ (زندگی کا) پورا کر کے جنت الفردوس کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچ کر اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے ہیں''۔ (اسلام یا مسلک پرستی، ص:۲۲) یعنی مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ ترین ہے۔ ظاہر ہے کہ سارے مقامات سے اعلیٰ ترین ہے۔ چونکہ کسی چیز اور مقام کو مستثنیٰ نہیں کیا تو سب سے اعلیٰ ترین ہے۔ عرش، کرسی اور

کعبہ سے بھی اعلیٰ ترین ہے۔ لہذا بندہ عاجز عرض کرتا ہے کہ کیپٹن کے اس منور نامی چیلے نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اعلیٰ ترین کہہ کر اللہ تعالیٰ کے عرش، کرسی اور کعبہ کی تحقیر وتذلیل کی ہے۔ عبد سے معبود کو۔ مخلوق سے خالق کو بڑھا کر اللہ تعالیٰ کی تنقیص کی ہے۔ اور میں پوچھتا ہوں۔ مَالَکُمْ لَاتَرْجُوْنَ لِلّٰهِ وَقَارًا۔ اور بندہ عاجز منور صاحب کے الفاظ بتغیر یسیر نقل کر کے سوال کرتا ہے۔ "اوپر دی گئی آیات واحادیث کی روشنی میں قبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مقام نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے عرش وکرسی اور کعبہ سے افضل یعنی اعلیٰ ترین جاننے کا عقیدہ کیا عرش الٰہی اور کعبہ کی تنقیص وتوہین نہیں کرتا؟ (اسلام یا مسلک پرستی، ص: ۱۰)

منور صاحب کی ایک اور بات بھی سُن لیجئے:

منور صاحب نے مندرجہ ذیل بات لکھ کر علماء اسلام پر طنز کی ہے لیکن یہ درحقیقت خود ان پر چسپاں ہوتی ہے چنانچہ لکھتا ہے جس کسی کے دل میں اللہ کا ذرہ بھر بھی وقار ہوگا وہ اس باطل عقیدے کا فوراً رد کردے گا لیکن توحید کے بلند بانگ دعویٰ کرنے والے ان مسلک پرستوں یعنی توحید پرستوں کے دل میں اللہ کا کوئی وقار نہیں۔ (اسلام یا مسلک پرستی، ص: ۷)

الحمدللہ ثابت ہوگیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو بھی مکان ومقام ہے وہ تمام مقامات سے افضل بلند وبالا اور اعلیٰ ترین ہے۔ اس کو کیپٹن صاحب اور اس کا چیلہ منور صاحب بھی تسلیم کر چکا ہے۔ البتہ علماء اسلام کے نزدیک قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک رشک جنت ہے اور کیپٹن صاحب اور منور کے نزدیک جنت ہے بہرحال جو بھی ہے سب مقامات سے افضل ہے۔ علماء اسلام کی دلیل یہ ہے کہ **ما علی الارض بقعة هی احب الی ان یکون قبری**

بها منها۔ (مؤطا امام مالک، ص: ۴۴۸)

یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمین کے تمام ٹکڑوں میں سے مجھے زیادہ محبوب یہ ہے کہ میری قبر اسی ٹکڑے یعنی مدینہ میں ہو تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفن کیلئے مدینہ منورہ کی قبر کو پسند فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے مطابق ہزاروں صحابہ کرام نے جنازہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں سیدہ عائشہؓ کے حجرہ میں دفن کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس قبر مبارک سے اُٹھیں گے، اور سب سے پہلے جنت میں داخل ہونگے۔ تو معلوم ہوا کہ قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام قبر مبارک ہے۔ اور وہ رشک جنت ہے۔ لہذا کیپٹن اور اس کے ماننے والوں کا الزام غلط بلکہ گستاخی ہے۔ کہ نبی زندہ در گور ہے۔ معاذ اللہ درحقیقت نبی زندہ در رشک جنت ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جنت کا باغ ہے، بلکہ رشک جنت ہے۔ کیپٹن اور اس کا چیلہ منور قیامت قائم ہونے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے اسی دوسری جسد کے ساتھ جنت کا داخلہ ثابت کرتے ہیں۔ گویا ان لوگوں کے نزدیک۔ **والبعث بعد الموت**۔ اور **یوم یبعثون**۔ قبل از وقت ہوگیا۔ اگر یہ لوگ کہیں کہ قیامت کے دن **والبعث بعد الموت** ہوگا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی مدینہ والی قبر مبارک سے دنیاوی جسد کے ساتھ اٹھیں گے۔ تو اس سے لازم آئے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں داخل فرما کر نکالا، صرف جنت سے نکالا نہیں، برزخی جسم سے آپ کی روح اقدس کو نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت بھی دیجائے گی جو ایک تیسری موت ہوگی۔ جس کو یہ لوگ قرآن کے خلاف سمجھتے ہیں۔ پھر نا معلوم یہ لوگ اس دوسرے برزخی جسم پیغمبر کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ کہ جب اس سے روح نکلے گی اس کے ساتھ

مردوں والا تجہیز و تکفین اور تدفین والا معاملہ بھی ہوگا یا نہیں۔ بہر حال اب ساری باتیں وہ خود بتائیں گے کیونکہ وہ ان کا اپنا عقیدہ اور اپنا مذہب ہے۔ باقی اس قسم کے سوالات علماء اسلام پر وارد نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں آرام فرما ہیں۔ قرآن مجید میں قبر کو مرقد یعنی آرام گاہ اور خواب گاہ کہا گیا ہے۔ آپ یہاں موجود ہوتے ہوئے جنت کی سیر وسیاحت بھی فرماتے ہیں۔ بہر حال آپ کا مستقل مقام قبر ہے۔ جب والبعث بعد الموت ہوگا تو آپ پھر مستقل طور پر سب سے پہلے جنت میں داخل ہونگے۔ لہذا اس عقیدہ پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔

مسئلہ نمبر: ۔۴

التوسلُ بالانبیاءِ والصالحینَ

تمہید:

اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا خالق مالک رازق اور مدبر ومتصرف الامور ہے۔ تمام مخلوقات کی موت وحیاۃ کا مالک ہے ہر چیز کے نفع ونقصان کا مالک بھی وہی ہے۔ وہ اکیلا رب عبادت وبندگی کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں ہے، ساری مخلوق میں کسی کا یہ مقام نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات جبراً منوالے، اس پر جبر زور اور زبردستی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور نہ ہی وہ کسی کے زور اور دباؤ میں آنے والا ہے وہ قادر مطلق ہے اللہ تعالیٰ کے نبی وولی اس کے بندے اور اس سے مانگنے والے ہیں۔ سب اس کے محتاج ہیں، وہ اکیلا اس نظام کائنات کو چلانے والا ہے سب کا داتا وہی ہے، اس کی ذات وصفات میں کوئی اس کا شریک وہم سر نہیں ہے۔ پکار ونیاز اسی کا حق ہے، رکوع وسجود بھی اسی کیلئے ہے، مصائب ومشکلات میں صرف اور صرف اسی سے مدد مانگنی چاہئے، ضروریات وحاجات میں ایک اللہ کو پکارنا ضروری ہے۔ وہی ہر ایک کی سننے والا ہے، اور وہی سب کی حاجت روائی کرنے والا ہے۔

علماء اسلام نے کتاب وسنت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے اور سوال کرنے کے کئی طریقے بتائے ہوئے ہیں اور ان جائز طرق میں سے آدمی جس طریقے سے چاہئے اپنے رب سے مانگے۔ مثلاً: کوئی تازہ نیک عمل کرکے یا دو رکعت نفل صلوۃ الحاجت پڑھ کر اولاً اللہ تعالیٰ کے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر یا بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنی حاجت اور ضرورت کو پیش کریں پھر آخر میں درود شریف پڑھ کر دعا کو ختم کرے، یہ عمل کے توسل کی بہترین صورت ہے یا کچھ عرصہ پہلے کئے ہوئے نیک عمل کا توسل دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، جیسا کہ غار میں پھنسے ہوئے تین مسافروں نے اپنے گذشتہ اعمال صالحہ کا توسل دیکر دعا مانگی تھی اور نجات حاصل کی تھی، یا کسی نیک صالح آدمی سے اپنے حق میں دعا کرائے، جیسا کہ حضرت عمر بن خطابؓ نے حضرت عباسؓ سے دعا کرائی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرؓ کو عمرہ پر جاتے ہوئے فرمایا تھا اے میرے چھوٹے بھائی! مجھے دعا خیر میں بھول نہ جانا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بھائی کی، دوسرے بھائی کے حق میں پس پشت دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ تو بہر حال کسی نیک صالح آدمی سے اپنے لئے دعا کرانا بھی توسل کی ایک جائز صورت ہے۔ اور بخاری شریف میں اس کو توسل کہا گیا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ سے دعا

مانگتے ہوئے اس کے دربار میں درخواست وعرض پیش کرتے ہوئے اللہ تعالی کے کسی پیارے نبی یا ولی کی محبت وعقیدت کا واسطہ دیکر دعا مانگی کہ اے اللہ! تو میرا مالک ہے تو ہی میری دعاؤں کو ہر حال میں سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ اے اللہ! تیرے سوا کوئی فریادرس نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، اے اللہ! میں تجھے تیرے فلاں پیارے کی محبت وعقیدت کا واسطہ اور توسل پیش کرتا ہوں اے اللہ! میری دعا قبول فرمانا، تو چونکہ اللہ تعالی کے پیاروں کے ساتھ محبت وعقیدت بھی ایک نیک عمل ہے اور اعمال صالحہ کے توسل میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، تو اللہ تعالی کے پیاروں کی محبت وعقیدت کا توسل بھی بلا اختلاف جائز بلکہ ثابت ہے، اور اسی طرح دعا میں بحق فلاں، بجاہ فلاں، بحرمت فلاں، بتوسل فلاں، یا بطفیل فلاں، کہنا بھی جائز ہے۔ کیونکہ ان مختصر الفاظ میں اللہ تعالی سے دعا مانگنے والے کا مطلب بھی مذکورہ بالا تفصیل ہے۔ نیز یہ بھی جائز اور صحیح ہے کہ بندہ بغیر توسل کے اللہ تعالی سے مانگے۔ بہر حال اللہ تعالی سے مانگنے کے جتنے بھی جائز اور ثابت طرق ہیں آدمی جس کسی طریقے سے مانگنا چاہے مانگے، الغرض اس ذات پاک سے مانگنے کیلئے کوئی ایک خاص طریقہ مقرر نہیں ہے۔ کہ صرف اسی طریقے سے مانگے، اور باقی طرق سے نہ مانگے بلکہ ہر جائز اور صحیح طریقہ سے سوال کرنا مانگنا جائز ہے۔ وسیلے سے مانگنا اور بغیر وسیلے کے مانگنا دونوں طریقے جائز ہیں۔ وسیلہ اعمال وذات دونوں کا جائز ہے۔ درحقیقت ذات کا وسیلہ بھی اعمال کا وسیلہ ہے، اور قرآن مجید میں جو اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

۞ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْٓا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ ۞

''ترجمہ: اے ایمان والو! ڈرتے رہو اللہ سے اور ڈھونڈو اس

تک وسیلہ۔''

وسیلہ کا لفظ عربیت کے لحاظ سے وسیلۂ اعمال اور وسیلۂ ذات دونوں کو شامل ہے۔ بشرطیکہ وسیلہ کی صحیح صورت ہو، ہاں اگر کوئی توسل دینے والا، کسی اللہ کی محبوب شخصیت کو اللہ تعالی کے صفات میں شریک سمجھتا ہے، اسکی عبادت کرتا ہے اس کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتا ہے، تو توسل کی غلط صورت ہے، بلکہ شرک ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص توسل بالذات یا توسل بالاعمال کو ضروری سمجھتا ہے اور توسل کے بغیر دعا کو جائز بھی نہیں سمجھتا تو یہ بھی غلط خیال ہے۔ کیونکہ توسل خواہ کوئی بھی ہو فی نفسہ فرض وواجب نہیں ہے، البتہ جائز اور ثابت ہے۔ اور بعض صورتیں مستحب ہیں اسی طرح علماء اسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ خیال رکھتا ہے کہ اللہ تعالی توسل والی دعا ضرور قبول کرتا ہے تو یہ بھی غلط خیال ہے کیونکہ کوئی ضروری نہیں کہ توسل والی دعا ضرور قبول ہوگی۔ بلکہ اللہ تعالی کو اختیار کامل ہے چاہے دعا قبول کرے چاہے رد کردے۔ اسی طرح توسل دینے والا اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میں جس ذات کا توسل دے رہا ہوں وہ اللہ تعالی سے ضرور منوالے گی جیسا کہ بعض جاہل لوگ کہتے ہیں: ''ساڈی سن دانہیں انہاں دی موڑ دانہیں''۔ تو یہ عقیدہ بھی مشرکانہ ہے کیونکہ اللہ تعالی پر کوئی دباؤ ڈالنے والا اور منوانے والا نہیں ہے۔ معلوم ہوا علماء اسلام جس وسیلہ کے قائل ہیں وہ قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں بلکہ قرآن وحدیث سے ثابت ہے اور توسل کی جو ناجائز وغلط صورتیں ہیں علماء اسلام ان سب کی تردید کر چکے ہیں لہذا توسل کی سب صورتوں کو جائز قرار دینا یا سب صورتوں کو رد کردینا، افراط وتفریط ہے جس میں گمراہ لوگ مبتلا ہیں الحمد للہ علماء حق علماء دیوبند ہر مسئلہ میں راہ اعتدال پر چلنے والے ہیں اور صراط مستقیم پر گامزن ہیں اسی لئے یہ لوگ صحیح وسیلہ کے قائل ہیں اور غلط

وسیلہ کو رد کرنے والے ہیں۔

مرغی کی کبھی ایک ٹانگ کبھی دو

کیپٹن مسعود الدین عثمانی اور اسکو ماننے والے اکثر بیشتر اپنی تحریروں اور تقریروں میں وسیلہ کی تردید میں ایسا رنگ اختیار کرتے ہیں کہ توسل کی تمام صورتوں کی نفی ہو جاتی ہے لیکن یہ لوگ توسل کی بعض صورتوں کو جائز اور ثابت سمجھتے ہیں، مثلاً: اعمال کے توسل کو یہ لوگ جائز ثابت سمجھتے ہیں اور اسی طرح توسل کی صورت کہ ”کسی اللہ کے پیارے کو کہا جائے کہ آپ ہمارے حق میں دعا فرمائیں تاکہ اللہ تعالیٰ میری فلاں مشکل حل فرما دے“ کو جائز کہتے ہیں۔ (وسیلے کا شرک، ص ۲۰۶، ۲۰۷)

چاہیے تو یہ تھا کہ وسیلے کی صورتیں جو ان کے ہاں جائز اور ثابت تھیں تو ان کو مستثنیٰ کرتے پھر بقیہ صورتوں کی تردید کرتے لیکن عجیب بات ہے کہ توسل کی تمام صورتوں کی تردید کرتے کرتے درمیان میں مذکورہ بالا صورتوں کو تسلیم کر جاتے ہیں۔

کیپٹن صاحب آیات قرآنیہ کا بے جا استعمال کرتا ہے:

کیپٹن صاحب اور اس کو ماننے والے وسیلہ کی تردید کرتے ہوئے مندرجہ ذیل آیت کو بھی اپنے من مانے مقصد میں استعمال کرتے ہیں:

﴿وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى ط﴾۔ (سورۃ الزمر، آیت: ۳)

”ترجمہ: اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا اور شرکاء تجویز کر رکھے ہیں کہ ہم تو ان کی پرستش صرف اس لئے کرتے ہیں کہ ہم کو اللہ کا مقرب بنا دیں۔“

اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین نے اللہ تعالیٰ کے سوا کئی معبود بنا رکھے تھے جن کی وہ عبادت اور پرستش کرتے تھے اور جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ غیر اللہ کی پرستش کیوں کرتے ہو تو جواب میں کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت اس لئے کرتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں ظاہر ہے کہ یہ صریح شرک ہے کہ غیر اللہ کی اس لئے عبادت کی جائے کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا مقرب بنا دیں گے۔ یہ آیت ایسے موقع پر نازل ہوئی ہے اور ایسے ہی مواقع پر چسپاں ہوتی ہے لیکن جو شخص نہ تو غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے اور نہ ہی غیر اللہ کو عبادت کا مستحق سمجھتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے کسی پیارے نبی یا ولی کا وسیلہ دے کر اللہ ہی سے مانگتا ہے تو اس پر یہ آیت فٹ کرنا آیت کا بے جا استعمال ہے کیونکہ ایسا شخص صرف اور صرف اللہ ہی سے مانگنے والا ہے اور وہ اللہ سے نبی یا ولی کی پرستش نہیں کر رہا بلکہ اس کی محبت و عقیدت کا وسیلہ دے رہا ہے۔ وسیلہ بنانا اور بات ہے اور عبادت کرنا بالکل اور بات ہے لہٰذا غیر اللہ کے وسیلہ کو عبادت پر فٹ کرنا یقیناً آیات قرآنیہ کا بے جا استعمال ہے۔

اسی طرح کیپٹن اور اس کے ماننے والے ایک آیت قرآنی کو بے جا استعمال کرتے ہیں وہ آیت یہ ہے:

﴿وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ هٰٓؤُلَاءِ شُفَعَآؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ﴾ (سورہ یونس، آیت: ۱۸)

ترجمہ: ”اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو ضرر پہنچا سکیں اور نہ ان کو نفع پہنچا سکیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہماری سفارشی ہیں۔“

اس آیت کا مطلب بھی وہی ہے کہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسری ہستیوں کی عبادت کرتے تھے حالانکہ وہ ان کو نہ نفع دے سکتے تھے نہ نقصان اور جب ان کو کہا جاتا تھا کہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو تو جواب دیتے تھے کہ ہم ان کی عبادت اس لئے کرتے ہیں کہ ہمارے لئے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سفارشی ہیں تو معلوم ہوا کہ یہ آیت بھی ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو کہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور یہی اس آیت کا موقع ومحل ہے لیکن اس آیت پاک کو وسیلہ پیش کرنے والوں پر چسپاں کرنا آیت قرآنی کا بے جا استعمال ہے ہاں جو شخص اللہ کے پیاروں کی عبادت کرتا ہے ان کی بندگی کرتا ہے اور ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر ان کو پکارتا ہے اور ان کا وسیلہ پیش کرتا ہے تو یقیناً ایسے وسیلے والے کا عقیدہ خراب ہے اس پر یہ آیت فٹ آتی ہے لیکن جو شخص ایسے شرکیہ عقائد سے بیزار ہے محض وسیلہ کی وجہ سے اس پر یہ آیت چسپاں کرنا آیت کا بے جا استعمال ہے کیونکہ صرف وسیلہ تو شرک نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ عقیدہ کا فساد شامل نہ ہو۔

سفارش دو قسم کی ہیں:

قرآن مجید میں متعدد مقامات پر دو قسم کی سفارش کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک جبری اور قہری سفارش دوسری بمعنی درخواست اور التجا ہے۔ جبری سفارش کا مطلب یہ ہے کہ کسی ہستی کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر دباؤ ڈال کر زبردستی ہمارا یہ کام کرادے گا جیسا کہ مشرکین مکہ کا اپنے معبودان باطلہ کے متعلق یہ عقیدہ تھا تو اس قسم کی سفارش کی قرآن مجید میں جابجا تردید کی گئی ہے مثلاً آیت الکرسی میں فرمایا گیا ہے:

﴿مَنْ ذَالَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗ﴾

''ترجمہ:۔ یعنی ایسا کون شخص ہے جو اس کے پاس سفارش

کر سکے۔''

یعنی ایسا کوئی شخص ہے ہی نہیں جو اس کے پاس سفارش کر سکے اور مشرکین مکہ اس عقیدہ کے مطابق کہتے تھے:

﴿هٰؤُلَاءِ شُفَعَآءُ نَا عِنْدَاللهِ﴾

اور اسی فاسد عقیدے کے تحت کہتے تھے:

﴿مَانَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِیُقَرِّبُوْنَآ اِلَی اللهِ زُلْفٰی. ط﴾

اور اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی قہری اور جبری سفارش کی تردید فرمائی ہے کہ اللہ پر دباؤ ڈالنے والا اور زبردستی منوانے والے کوئی نہیں ہے لیکن سفارش بمعنی دعا اور درخواست ہے تو اس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جابجا اجازت دی ہے اس آیت الکرسی کو دیکھ لیجئے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر جبر اور زبردستی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ سفارش تو وہاں نہیں چلتی البتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دعا و درخواست والی سفارش چلے گی انبیائے کرام، ملائکہ، اولیاء اللہ، چھوٹے چھوٹے بچے، حفاظ قرآن، علمائے دین اور خود اللہ تعالیٰ کا قرآن درجہ بدرجہ سب سفارش کرینگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿یَوْمَ یَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰٓئِکَةُ صَفًّا لَا یَتَکَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا﴾. (سورۃ النباء، آیت:)

ترجمہ: ''جس روز تمام ذی اروح اور فرشتے صف بستہ کھڑے ہونگے کوئی بول نہ سکے گا بجز اس کے جن کو رحمٰن اجازت دے دے اور وہ شخص بات بھی ٹھیک کہے۔''

تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ سفارش جبری کی تردید فرما کر سفارش یعنی دعا و درخواست کی اجازت دی ہے بلکہ سفارش بمعنی دعا و درخواست کو قرآن مجید

میں کارثواب فرمایا گیا ہے چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا ج
وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا﴾

(سورۃ النساء، آیت: ۸۵)

ترجمہ: ''جو شخص اچھی سفارش کرے اس کو اس کی وجہ سے حصہ ملے گا اور جو شخص بری سفارش کرے اس کو اس کی وجہ سے حصہ ملے گا۔''

تو معلوم ہوا کہ کسی کی اچھی سفارش کی جائے اور اس کی سفارش کی وجہ سے اس کا کام ہو جائے تو اسکو اس اچھی سفارش کا حصہ یعنی ثواب ملتا ہے اور قرآن مجید میں جس اچھی سفارش کو کارثواب قرار دیا گیا ہے وہ عام ہے خواہ یہ سفارش کسی آدمی کے سامنے کی جائے یا رب العالمین کے دربار میں دعا و درخواست کی شکل میں کی جائے بہر حال ایسی سفارش کارثواب ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسکی ترغیب دی ہے اور یہی تو سفارش تھی جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے بارش کے لئے کرائی، جس کو کیپٹن صاحب کی پارٹی بھی تسلیم کرتی ہے لہذا تمام قسم کی سفارشات کو ایک بنا کر سب کو شرک کہنا اور شفاعت قہری والی آیات اس پر فٹ کرنا پرلے درجے کی حماقت اور انتہائی درجہ کی تحریف قرآن ہے جس کے بغیر کیپٹن صاحب کی پارٹی کو چارہ کار نہیں کیونکہ جب تک یہ لوگ قرآن وحدیث میں اس قسم کی تحریف نہ کریں، ان کا من بھاتا مقصد حاصل نہیں ہوتا اس لئے یہ بیچارے تحریفات وتلبیسات کرنے میں مجبور ہیں۔

توسل کے چند دلائل:

الحمد للہ یہ بات ثابت ہوگئی کہ شفاعت بمعنی دعا و درخواست ثابت و جائز ہے جس کی صورت یہ ہے کہ کسی نیک آدمی کو کہا جائے کہ آپ ہمارے لئے فلاں فلاں دعا فرمائیں اور اس صورت کو بخاری شریف میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے وسیلہ قرار دیا اسی طرح یہ بات بھی کتاب وسنت سے ثابت ہے کہ ایمان و اعمال صالحہ کا وسیلہ دنیا میں بھی جائز و ثابت ہے اور انبیاء و صالحین کا وسیلہ بھی اسی لئے پیش کیا جاتا ہے کہ توسل کرنے والے کو انہیں سے محبت وعقیدت ہے وسیلہ بالذات بھی درحقیقت وسیلہ بالاعمال ہے کیونکہ اللہ کے پیاروں کے ساتھ محبت بھی ایک نیک عمل ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے:

﴿افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ﴾ ۔

(جامع صغیر ج ۱ ص: ۴۸ بحوالہ ابوداؤد)

''یعنی اللہ تعالیٰ کے لئے محبت کرنا اور اللہ تعالیٰ کے لئے بغض رکھنا افضل اعمال میں سے ہے۔''

یا بقول حضرت اقدس مفتی رشید احمد صاحبؒ توسل خواہ احیاء سے ہو یا اموات سے، ذوات سے ہو یا اعمال سے، اپنے اعمال سے ہو یا غیر کے اعمال سے، بہر حال اس کی حقیقت اور ان سب صورتوں کا مرجع توسل برحمۃ اللہ علیہ ہے بایں طور کہ فلاں مقبول بندہ پر جو رحمت ہے اس کے توسل سے دعا کرتا ہوں یا فلاں نیک عمل اپنا یا غیر کا جو محض آپ کی عطا اور رحمت ہے اس سے توسل کرتا ہوں۔ چونکہ توسل بالرحمۃ کے جواز میں بلکہ ارجی للقبول ہونے میں کوئی شبہ نہیں اور یہ سب صورتیں، مذکورہ کو شامل ہے۔ (احسن الفتاوی، ج۱ص: ۳۳۲، مطبوعہ ۱۳۹۸ھ)

قارئین کرام! توسل کی مذکورہ بالا صورت باجماع امت جائز ہے امام ابن تیمیہ اور اس کے بعض ہم خیال علما مثلاً صاحب روح المعانی وغیرہ بھی اس کو جائز کہتے ہیں۔ اسی لئے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ توسل کی اصل حقیقت واضح ہو جانے کے بعد اس مسئلہ میں صرف نزاع لفظی ہی رہ جاتا ہے، دیکھئے تسکین الصدور۔ اور پھر دلائل کی ضرورت باقی نہیں رہتی، تاہم چند دلائل آپ کی خدمت میں پیش کئے جاتے ہیں۔

دلیل نمبر: ۱

اللہ تعالیٰ قوم یہود کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں:

﴿ وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ، الآية ﴾

"ترجمہ: وہ یہود سے پہلے فتح مانگتے تھے کافروں پر۔"

یعنی قوم یہود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے اپنے دشمنوں کے خلاف آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ذات اقدس کے توسل سے دعا مانگا کرتے تھے اور آیت مذکورہ کی یہ تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور قتادہؓ سے مروی ہے۔ (تفسیر روح المعانی، ج ا ص: ۳۲۰)

واضح ہو کہ قوم یہود کے اس توسل پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نکیر نہیں فرمائی بلکہ اس کو نقل فرما کر سکوت فرمایا۔ جس سے مسئلہ توسل کی تائید ہوتی ہے اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ قوم یہود کا توسل آپ ﷺ کی ذات اقدس سے تھا اس لئے کہ ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور پیش گوئیاں لکھی ہوئی تھیں جس کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعارف تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے تھے اس تعارف اور محبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے توسل کرتے تھے۔ البتہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو حسد میں مبتلا ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ کیپٹن صاحب نے روح المعانی کے حوالہ جات دے کر یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ ہر قسم کے توسل کا انکار کرتے ہیں حالانکہ وہ توسل کی تمام صورتوں کا انکار نہیں کرتے دیکھئے یہ حوالہ ہی صاحب روح المعانی کا ہے جس سے آیت قرآنی کے ذریعہ توسل کو ثابت کیا گیا ہے۔

دلیل نمبر: ۲

حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں:

﴿ اِنَّ رَجُلاً ضَرِيْرَ الْبَصَرِ اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ يُّعَافِيَنِيْ قَالَ اِنْ شِئْتَ صَبَرْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ، قَالَ فَادْعُهُ قَالَ فَاَمَرَهٗ اَنْ يَّتَوَضَّاءَ فَيُحْسِنَ وُضُوْءَهٗ وَيَدْعُوَ بِهٰذَا الدُّعَاءِ: اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ وَاَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ اِنِّيْ وَجَّهْتُ بِكَ اِلٰى رَبِّيْ فِيْ حَاجَتِيْ هٰذِهٖ لِتُقْضٰى لِيْ، اَللّٰهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِيَّ ﴾ (ترمذی ج ۲، ص: ۱۹۷، وقال حسن صحیح غریب، مسند احمد ج ۴ ص: ۱۳۸، ابن ماجه ص: ۱۰۰، مستدرک ج ۱ ص: ۳۱۳، الترغيب والترهيب، ج. ص: ۲۴۱، قال رواه النسائي وابن خزيمه في صحيحه، مشكوة، ص: ۲۱۹، البدايه والنهاية ج ۶ ص: ۱۶۱ کتاب الاذکار، ص: ۱۶۷)

ترجمہ: "ایک نابینا شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت

> میں آیا اور کہا کہ حضرت! آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ مجھے عافیت عطا فرمائے یعنی بینا کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ (اگر تو چاہے تو میں دعا کروں اور) اگر تو چاہے تو صبر کر اور صبر ہی تیرے لئے بہتر ہے اس نے کہا حضرت! آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ وہ اچھی طرح وضو کرے اور یہ دعا پڑھے اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی الرحمۃ ہیں کے وسیلہ سے توجہ کرتا ہوں حضرت! میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے ہاں بطور وسیلہ کے پیش کرتا ہوں تا کہ میری حاجت پوری ہو جائے اے اللہ تو ان کی شفاعت کو میرے حق میں قبول فرما۔''

اور کتب حدیث میں یہ وضاحت بھی موجود ہے کہ اس نابینا آدمی نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر دعا مانگی تو اس کی بینائی واپس لوٹ آئی۔

قارئین کرام! مذکورہ بالا حدیث کو امام حاکم اور علامہ ذہبی نے بخاری و مسلم کی شرط پر صحیح کہا ہے۔ دیکھئے، مستدرک ج ۱ ص: ۳۱۳، مع التلخیص، مستدرک ج ۱ ص: ۵۲۶، مستدرک ج ۱ ص: ۵۱۹ علامہ خفاجیؒ فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ (نسیم الریاض ج ۳ ص: ۱۰۶)

علامہ سمہودیؒ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو امام بیہقیؒ نے صحیح کہا ہے۔ ''وفاء الوفاء ج ۲ ص: ۴۲۰'' امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ امام ترمذیؒ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

کیپٹن صاحب کا مبنی بر دجل و فریب اس حدیث پر اعتراض:

حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کی حدیث پر کیپٹن صاحب جرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

> ''عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے روایت کی جاتی ہے کہ ایک مرد نابینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بینا کر دے...... پھر ان صاحب نے کہا کہ ''پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف، تیرے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) نبی الرحمۃ کے ذریعہ رخ کرتا ہوں۔ یہ واقعہ بعض روایتوں میں آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی زندگی کا ہے اور بعض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا۔ لیکن اس کے ہر ایک طریق میں ابو جعفر ہے جس کو امام مسلم وضاع (حدیثیں گھڑنے والا) بتاتے ہیں۔ (خطبہ صحیح مسلم ص: ۶۰۵) امام نووی کہتے ہیں کہ ابو جعفر المدنی وضاع ہے (شرح مسلم ص ۱۷ جلد ۲) اسی طرح امام احمد بھی اس کو وضاع کہتے ہیں۔ (میزان الاعتدال جلد ۲ ص: ۷۸)۔ (یہ مزار یہ میلے ص ۲۷)

قارئین کرام! یہ ہے کیپٹن صاحب کی اس حدیث کی سند پر جرح ہے جو کہ سراسر دجل و فریب پر مبنی ہے اور اب اس دجل و فریب سے پردہ چاک کیا جاتا ہے تا کہ صحیح صورت حال آپ کے سامنے آ جائے۔

الجواب باسم ملہم الصواب:

آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عثمان بن حنیف ؓ کی مذکورہ بالا حدیث کی سند میں ایک راوی موجود ہے۔ جس کی کنیت ابو جعفر ہے اور اکثر حدیث کی کتابوں میں اس کنیت کا ذکر ہے۔ نام کی تصریح نہیں ہے اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے تہذیب التہذیب ج ۶ ص: ۳۲۴ سے لے کر ص ۳۲۶ تک "مَنْ کُنْیَتُہٗ ابو جعفر" کے تحت چودہ راویوں کا ذکر کیا ہے۔ جن کی کنیت "ابو جعفر" ہے۔ اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں، جو بخاری، مسلم اور دیگر صحاح ستہ کے راوی ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمتہ اللہ نے بعضوں کی توثیق اور بعضوں کی تضعیف کی ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کی مذکورہ بالا حدیث کا جو راوی ابو جعفر ہے اس سے کون سا ابو جعفر مراد ہے؟ مثلاً ابو جعفر رازی تمیمی ہے، جس کا نام عیسیٰ بن ابی عیسیٰ حامان ہے یا ابو جعفر سمنانی ہے۔ جس کا نام محمد بن جعفر ہے یا ابو جعفر انصاری مدنی موذن ہے، جس کا نام محمد بن علی ہے یا ابو جعفر قاری مدنی مخزومی ہے۔ یا ابو جعفر ہاشمی، مدنی، مدائنی ہے۔ جس کا نام عبداللہ بن مسور بن جعفر بن ابی طالب ہے یا ابو جعفر انصاری خطمی مدنی ہے۔ جس کا نام عمیر بن یزید بن عمیر بن حبیب بن حماشہ ہے۔

بہر حال ابو جعفر کنیت والے راوی بہت ہیں، البتہ نام سب کا علیحدہ علیحدہ ہے اور یہ بات تحقیق طلب تھی، کہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کی حدیث میں کونسا ابو جعفر ہے، اس کا نسب اور نام کیا ہے، تاکہ رجال کی کتب سے تحقیق کی جائے کہ وہ ثقہ ہے یا غیر ثقہ۔ اس کی حدیث قابل قبول ہے یا مردود ہے۔ لیکن کیپٹن صاحب نے از خود یہ بات بنا ڈالی کہ یہ وہ ابو جعفر ہے جس کا نام عبداللہ بن مسور بن جعفر مدنی، مدائنی ہے۔ چنانچہ مسلم شریف کے حوالے سے کیپٹن صاحب نے لکھ دیا کہ ابو جعفر عبداللہ بن مسور مدائنی حدیثیں وضع کرتا تھا۔ اسی طرح نووی شرح مسلم کا حوالہ بھی درج کر دیا کہ ابو جعفر عبداللہ بن مسور ہاشمی مدائنی ضعیف ہے۔ حدیثیں وضع کرتا تھا اسی طرح دوسرے محدثین نے بھی ابو جعفر عبداللہ بن مسور ہاشمی مدائنی پر جرح کی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کی حدیث میں سند کے اندر جو ابو جعفر آیا ہے وہ یہی عبداللہ بن مسور ہاشمی مدائنی ہے جس کی مسلم اور نووی میں تضعیف کی گئی ہے۔ حالانکہ نہ تو حدیث کی کتابوں میں کوئی ایسا قرینہ موجود ہے جس سے اس ابو جعفر عبداللہ بن مسور ہاشمی مدائنی کو متعین کیا جا سکے اور نہ ہی آج تک کسی محدث نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس سند میں ابو جعفر سے مراد عبداللہ بن مسور ہے جن پر امام مسلم اور امام نووی نے شدید جرح کی ہے۔ لیکن حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکرانے کے لئے کیپٹن صاحب نے اپنی طرف یہ بات خود طے کر دی ہے کہ یہاں ابو جعفر سے مراد عبداللہ بن مسور ہے حالانکہ یہ بات خلاف واقع ہے بلکہ کیپٹن صاحب کا دجل و فریب ہے جس کے ذریعہ اس نے سادہ لوح خصوصاً اردو خواندہ حضرات کو دجل وفریب کے ذریعہ دھوکہ میں ڈالا ہے۔

حدیث عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کی سند میں کون سا ابو جعفر ہے؟

بہر حال یہ بات تو یقینی ہے کہ مذکورہ بالا حدیث کی سند میں ابو جعفر عبداللہ مسور مدنی مدائنی نہیں ہے، لیکن اب سوال ہوگا کہ یہ کونسا ابو جعفر ہے؟ تو قرآئن سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مذکورہ بالا حدیث کا راوی عمیر بن یزید ابو جعفر مدنی انصاری و خطمی ہے اور یہ ابو جعفر ثقہ اور عادل ہے چنانچہ تہذیب التہذیب ج ۴ ص ۴۱۲ پر اس کا ترجمہ اور توثیق ملاحظہ فرمائیے کیونکہ احادیث کی جتنی کتابوں میں یہ حدیث با سند مروی ہے وہاں یہ تصریح موجود ہے کہ ابو جعفر خطمی ہے یا خود اس کے نام کی تصریح ہے

چنانچہ امام طبرانی اپنی سند میں ابوجعفر خطمی مدنی کی تصریح کرتے ہیں (معجم الصغیر، ۱/۱۸۳) اور امام ابوبکر بن السنی اس حدیث کی سند میں لکھتے ہیں عن ابی جعفر المدنی وھو الخطمی ۔ عمل الیوم واللیلة، ص: ۲۰۹ مطبوعہ نور محمد کارخانہ، تجارت کتب آرام باغ کراچی اور عمل الیوم واللیلة لابنی السنی کا جو نسخہ دار الفکر بیروت کا مطبوعہ ہے اس میں تصریح موجود ہے عن ابی جعفر عمیر بن یزید بن خراشہ ۔ عمل الیوم واللیلة مطبوعہ بیروت ص: ۲۰۵ ۔ امام احمد بن حنبل معمر اللہ کی سند یہ ہے کہ حدثنا ابوجعفر الخطمی مسند ج ۵ ص ۱۳۸ اسی طرح امام حاکم اور علامہ ذہبی بھی اس کو ابوجعفر المدنی الخطمی نقل کرتے ہیں اور ترمذی شریف مطبوعہ مصر میں بھی لکھا ہے ھو الخطمی یعنی حدیث عثمان رضی اللہ عنہ میں ابوجعفر خطمی مراد ہے اور علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں وسائر العلما قالوا ھو ابو جعفر الخطمی وھو الصواب ۔ یعنی تمام علماء فرماتے ہیں کہ مذکورہ بالا حدیث کا راوی ابوجعفر خطمی ہے اور یہی درست وصواب ہے۔ اور دوسرا قرینہ یہ بھی ہے کہ تمام محدثین جو اس حدیث کو روایت کرتے ہیں ساتھ ساتھ اس کی توثیق اور تصحیح بھی فرماتے ہیں دیکھئے امام ترمذی نے اسکو صحیح کہا اور امام ابن ماجہ نے امام ابواسحاق کے حوالے سے اس کو صحیح کہا اور دیگر محدثین کی رائے بھی پہلے گزر چکی ہے جنہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے تو حضرات محدثین کرام کی تصحیح سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث کا راوی ابوجعفر عبد اللہ بن مسور مدائنی نہیں ہے۔ وہ تو وضاع ہے اگر حدیث کا راوی یہی ہوتا تو محدثین قطعاً اس حدیث کی تصحیح نہ فرماتے لہٰذا ان کی تصحیح دلیل ہے اس بات کی یہ ابوجعفر مدائنی نہیں ہے جب وہ نہیں ہے تو یقیناً ابو جعفر عمیر بن یزید الخطمی ہی ہے جیسا کہ محدثین نے الخطمی اور اس کے نام کی تصریح فرمادی ہے۔

فائدہ:...... ان دونوں راویوں میں اشتباہ اس لئے ہوجاتا ہے کہ بہت نسبتیں ان کے درمیان مشترک ہیں مثلاً ان دونوں کے ناموں کے ساتھ ابوجعفر کی کنیت اور المدنی المدینی کی نسبت لگائی جاتی ہے البتہ نام ہر ایک کا جدا جدا ہے اور الخطمی اور المدائنی ان دونوں میں مابہ الامتیاز ہیں لہٰذا ان کے مکمل نام بمع نسبت ملاحظہ فرمائیں:

۱)۔۔۔ ابوجعفر عبد اللہ بن مسور بن جعفر بن ابی طالب ہاشمی قرشی مدنی، مدینی، مدائنی یہ راوی یقیناً وضاع ہے کہ جیسا کہ مقدمہ مسلم میں تصریح ہے، لیکن یہ حدیث عثمان بن حنیف کا راوی نہیں ہے۔

۲)۔۔۔ ابوجعفر عمیر بن یزید۔ انصاری مدنی اور مدینی و خطمی ہے یہی راوی ہے حدیث عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کا، اور یہ راوی ثقہ وعادل ہے، محدثین نے اس کی حدیث کو صحیح کہا ہے۔ لیکن کیپٹن صاحب کی بددیانتی کا حال دیکھئے کہ نام اور نسبت کے اختلاف ومابہ الامتیاز کے باوجود ابوجعفر خطمی مدنی عمیر بن یزید کو ابوجعفر عبد اللہ مسور مدائنی بتایا تا کہ اس دھوکہ بازی اور دجل وفریب کے ذریعہ اردو خواندہ حضرات کے ایمان کو آسانی سے لوٹا جاسکے۔ العیاذ باللہ۔ یہ ہے بددیانتی اس شخص کی جو توحید کا علمبردار، قرآن کا ٹھیکے دار اور اسلام کا دعوے دار بھی ہے، بددیانتی اس کی ہر بات و ہر کتاب میں موجود ہے۔

ایک غلطی کا ازالہ:

اب یہ بات واضح ہوگئی کہ ابوجعفر کنیت والے راوی کئی ہیں اور حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کی حدیث کا راوی ابوجعفر خطمی ہے جیسا کہ جمہور محدثین نے فرمایا اور ترمذی شریف مطبوعہ مصر ج ۲ ص ۲۷۷ میں بھی تصریح موجود ہے کہ ھو الخطمی

لیکن پاک و ہند میں ترمذی شریف کے جو نسخے طبع ہو رہے ہیں ان میں لکھا ہے کہ هو غير الخطمى یعنی اس حدیث کا راوی ابوجعفر خطمی کے علاوہ کوئی اور ہے۔ تو علماء اسلام نے فرمایا ہے کہ یہاں غیر کا لفظ کتابت کی غلطی ہے کیونکہ مصری مطبوعہ ترمذی میں غیر کا لفظ نہیں ہے اور حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی تصریح ہے کہ یہ ابوجعفر خطمی ہی ہے لہٰذا پاک و ہند کی مطبوعات میں جو غیر کا لفظ موجود ہے اس کو کتابت کی غلطی پر محمول کئے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے اور اگر بالفرض غیر کے لفظ کو درست مان لیا جائے تو ضروری نہیں کہ غیر خطمی سے مراد ابوجعفر مدائنی ہو کیونکہ وہ تو وضاع ہے اگر امام ترمذی کے نزدیک یہی مراد ہوتا تو وہ اس کی تصریح کرتے یا کم از کم حدیث کو صحیح نہ کہتے کیونکہ وضاع کی حدیث کو کوئی صحیح نہیں کہتا۔ لہٰذا اگر یہ غیر خطمی درست ہے تو وہ مدائنی کے علاوہ کوئی اور راوی ہے جس کی کنیت ابوجعفر ہے اور وہ امام ترمذی کے نزدیک معتبر راوی ہے اس لئے اس کی حدیث کو صحیح کہا ہے۔

دلیل نمبر: ۳

ابو امامہ رحمہ اللہ بن سہل رحمہ اللہ بن حنیف اپنے چچا حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ:

«اِنَّ رَجُلاً کَانَ یَخْتَلِفُ اِلٰی عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ فِیْ حَاجَةٍ لَّهٗ فَکَانَ عُثْمَانُ لَایَلْتَفِتُ اِلَیْهِ فَقَالَ: لَهٗ عُثْمَانُ بْنُ حُنَیْفٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ اِیْتِ الْمِیْضَاةَ فَتَوَضَّاءُ ثُمَّ اِیْتِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ فِیْهِ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ قُلْ: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ وَاَتَوَجَّهُ اِلَیْکَ بِنَبِیِّکَ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَبِیِّ الرَّحْمَةِ»

(الحدیث، معجم صغیر للطبرانی ج. ص: ۱۸۳، شفاء الاسقام ص: ۱۲۴، ۱۲۵، وفا الوفا، ص: ۴۲۰، ۴۲۱ ج ۴)

ترجمہ: ''ایک شخص حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس ایک ضروری کام کے سلسلہ میں آیا جایا کرتا تھا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ (غالباً بوجہ مصروفیت) نہ تو اس کی طرف توجہ فرماتے اور نہ اس کی حاجت براری کرتے وہ شخص حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے ملا اور اس کی شکایت کی، تو انہوں نے فرمایا کہ وضو کی جگہ جا اور وضو کر پھر مسجد میں جا کر دو رکعت نماز پڑھ، پھر کہہ اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور بوسیلہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں جو نبی الرحمۃ ہیں الخ۔

اس روایت کے آخر میں اس کی تصریح اس شخص نے ایسا ہی کیا اور اس کی دعا کی برکت سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اس کی تعظیم و تکریم بھی کی اور اس کا کام بھی پورا کر دیا۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ "هذا الحديث صحيح" یعنی یہ حدیث صحیح ہے۔ اور علامہ منذری بھی اس روایت کو نقل کر کے امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول "الحديث صحيح" کی تائید کرتے ہیں۔ الترغیب الترہیب، ج ۱ ص ۴۴۲، اور امام سبکی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ روایت دو سندوں سے روایت کی ہے اور پھر آگے سند بیان کی ہے، شفاء السقام، ص ۱۲۵۔ امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ کی اس روایت سے ثابت ہوا کہ حضور اکرم ﷺ کی وفات کے بعد بھی آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا توسل درست ہے۔ (شفاء السقام، ص: ۱۲۴)

پوچھا جائے گا کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی ہو تو کہا جائے گا کہ ہاں ہے یعنی ہم میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے تو ان کو اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل فتح نصیب ہوگی پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ پوچھا جائے گا کیا تم میں ایسا شخص ہے جس کو کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی ہو تو کہا جائے گا ہاں تو ان کو اس تابعی کے طفیل فتح نصیب ہوگی پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ پوچھا جائے گا کہ کیا تم میں کوئی شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی صحبت والوں کی صحبت پائی ہو تو کہا جائے گا ہاں ہے تو اس کے طفیل فتح نصیب ہوگی۔"

دلیل نمبر: ۷

﴿عَنْ اَبِیْ سَعِیْدِ الْخُدْرِیِّ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ مَاخَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَیْتِہٖ اِلَی الصَّلٰوۃِ فَقَالَ: اَللّٰھُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ بِحَقِّ السَّائِلِیْنَ عَلَیْکَ وَبِحَقِّ ممشائی ھٰذَا فَاِنِّیْ لَمْ اَخْرُجْ اَشَرًا وَّلَابَطَرًا وَّلَارِیَاءً وَّلَاسُمْعَۃً خَرَجْتُ اِتِّقَاءَ سَخَطِکَ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِکَ اَسْئَلُکَ اَنْ تُنْقِذَنِیْ مِنَ النَّارِ وَاَنْ تَغْفِرَلِیْ ذُنُوْبِیْ اِنَّہٗ لَایَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ اِلَّا وَکَّلَ اللّٰہُ بِہٖ سَبْعِیْنَ اَلْفَ مَلَکٍ یَسْتَغْفِرُوْنَ لَہٗ وَاَقْبَلَ اللّٰہُ عَزَّوَجَلَّ عَلَیْہِ بِوَجْھِہٖ حَتّٰی یَفْرُغَ مِنْ

صَلَاتِہٖ. (عمل الیوم واللیلۃ، لابن سنی، ص: ۴۰، ابن ماجہ ص: ۵۷، مسند ابن خزیمہ فی کتاب التوحید طبرانی نووی فی کتاب الاذکار) محدثین نے اس حدیث کی تحسین فرمائی ہے۔

ترجمہ: "حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص نماز کے لئے اپنے گھر سے نکلتے وقت دعا مذکورہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ فرماتے ہیں اور ستر ہزار فرشتوں کو اس کی دعا مغفرت کے لئے مقرر فرماتے ہیں یہاں تک کہ وہ اپنی نماز سے فارغ ہو جائے۔"

قارئین کرام! مسئلہ توسل کے عقلی ونقلی دلائل بکثرت موجود ہیں جن کو علماء اسلام نے اپنی تصانیف میں جمع فرمایا ہے۔ لہٰذا تحقیق مزید کے لئے علماء اسلام کی کتب خصوصاً (انوار الباری، ج ا ص: ۲۰۱ـ۲۳۸، تسکین الصدور، ص ۳۸۷ تا ۳۲۸، خیر الفتاوی ج ا ص: ۱۹۱ـ۱۹۸، مقام حیات، حدایۃ الحیران، احسن الفتاوی ج ا ص: ۳۳۲ـ۳۳۵)

البتہ چند باتیں اس مسئلے سے متعلق ذہن نشین فرمالیں تا کہ کسی قسم کا اشتباہ نہ رہے۔

کیا دعا میں بحق فلاں کہنا مکروہ ہے؟

کیپٹن صاحب نے علماء احناف کی کتابوں کے چند حوالہ جات پیش کر کے سادہ لوح عوام کو یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ خود ائمہ احناف اور فقہاء احناف دعا میں بحق فلاں کو ناجائز اور مکروہ لکھتے ہیں حالانکہ فقہاء اسلام بحق فلاں کو

مکروہ کہہ کر توسل سے منع نہیں فرمار ہے بلکہ ان کا مقصد فرقہ معتزلہ وغیرہ کی تردید کرنا ہے کیونکہ معتزلہ وغیرہ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نیکیوں پر ثواب اور برائیوں پر عذاب دینا اللہ تعالیٰ پر ضروری لازم اور حق ہے ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا تو اس کا عدل باقی نہ رہے گا اور اس کو بخل اور جہل لازم آئے گا جبکہ اہل السنت والجماعت اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ فاعل مختار ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے اس پر کسی کا حق عائد ولازم نہیں ہے ہاں محض اپنے ارادہ اور فضل وکرم سے جس حق کا وعدہ فرمایا ہے وہ بجا ہے اور اس میں نہ تو کلام ہے اور نہ اس سے جبر لازم آتا ہے دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ پر اپنے بندوں کے متعلق کوئی چیز لازم نہیں ہے البتہ محض اپنی مہربانی سے اگر کسی چیز کا اردہ حق کے التزام فرمالیں تو یہ اور بات ہے۔

قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِيْنَ﴾ (سورۃ یونس)

ترجمہ: ”حق ہے ہم پر ہم مومنین کو نجات دینگے۔“

اور حق بھی بحسب وعدہ ہے یعنی از خود التزام ہے نہ کہ الزام ہے اور اس معنی میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہاں یہ سمجھ کر کہنا کہ اللہ تعالیٰ پر کسی کا حق لازم ہے مکروہ ہے تو ہمارے فقہاء اسلام اور ائمہ احناف رحمتہ اللہ علیہ نے اس غلط معنی کی وجہ سے بحق فلاں کہنے کو مکروہ لکھا ہے گویا فقہاء اسلام فرقہ معتزلہ وغیرہ کے غلط نظریہ کی تردید فرمارہے ہیں ورنہ اگر کسی شخص کا عقیدہ صحیح ہے اور حق سے مراد وہ حق ہے جو بحسب وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں اور اسی معنی میں شیخ سعدی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔“

خدایا بحق بنی فاطمہ   کہ برقول ایمان کنی خاتمہ

لہذا فقہاء اسلام کی اس قسم کی عبارت کو نقل کر کے لوگوں کو یہ تاثر دینا کہ فقہائے اسلام توسل کو اور بحق فلاں کو مکروہ لکھتے ہیں ایک قسم کا دھوکہ ہے اور تلبیس ہے۔

کیپٹن صاحب نے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت گرانے کی کوشش کی:

دلیل ۲، میں حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کی حدیث گزر چکی ہے جس میں توسل کا ثبوت ہے۔ لیکن کیپٹن صاحب توسل کے منکر ہیں اس لئے اس حدیث کی حیثیت کو گھٹانے کے لئے لکھتے ہیں:

”یہ واقعہ بعض روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہے اور بعض میں آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی وفات کے بعد کا“

کیپٹن صاحب کا مقصد حدیث کا ناقابل اعتماد بنانا ہے کہ بعض روایتوں میں ہے کہ یہ واقعہ یعنی آپ کے توسل کے ذریعہ دعا مانگنے کا آپ کی زندگی کا واقعہ ہے اور بعض روایتوں میں ہے کہ آپ کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے یعنی خود واقعہ مشکوک ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ دو واقعات ہیں اور دونوں سچے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک نابینا شخص نے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے توسل سے دعا مانگی تو اس کی بینائی واپس آگئی اور آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی وفات کے بعد راوی حدیث عثمان رضی اللہ عنہ بن حنیف نے یہی دعا ایک حاجتمند شخص کو سکھائی تھی اور اس نے یہی توسل والی دعا کے ذریعہ اپنی حاجت مانگی تو اس کی حاجت پوری ہوگئی بہر حال دونوں واقعات درست ہیں اور کوئی ضد والی بات نہیں ہے۔

کیپٹن صاحب کو کسی حدیث پر جرح کرنے کا حق نہیں ہے:

کیپٹن صاحب نے حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کی حدیث پر ابو جعفر راوی کی وجہ سے جرح کی ہے حالانکہ کیپٹن صاحب کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کسی حدیث کو ضعیف اور موضوع کہے، کیونکہ یہ بات پہلے باحوالہ گزر چکی ہے کہ کیپٹن صاحب کہتے ہیں کہ راویوں پر جرح وتعدیل نقل کرنے والے علماء اسماء رجال، حیات وسماع کے قائل ہونے کی وجہ سے کافر ومشرک ہیں۔ تو جب ایک چیز کے راوی اور ناقل ہی ناقابل اعتماد ہیں تو ان کی نقل پر کوئی اعتماد نہیں، لہٰذا خود کیپٹن صاحب کی جرح ہی ناقابل اعتماد ہے اس لئے خوامخواہ رجال کی کتابوں کے حوالہ جات نقل کر کے لوگوں کو دھوکہ میں ڈالتا ہے ورنہ اس کی تو جرح مردود ہے۔

امام احمد بن حنبل سے جرح نقل کرتا ہے:

کیپٹن صاحب ابو جعفر راوی پر جرح کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ امام احمد، ابو جعفر کو وضاع کہتا ہے۔ دیکھئے، یہ حرار پہ ملے ص ۳۷، حالانکہ کیپٹن صاحب اپنی کتابوں اور رسالوں میں جا بجا امام احمد بن حنبل کو عقیدہ حیات وسماع کی وجہ سے معاذ اللہ کافر کہتا ہے اور پھر اسی کافر کی باتوں سے راویوں پر جرح کرتا ہے کیا کافر کی بات معتبر ہے، کافر کی جرح تو خود غلط ہے کیپٹن صاحب کو کچھ سمجھ نہیں آتا ایک شخص کو کافر بھی کہتا ہے اور اس کے اقوال بھی اپنی تائید میں نقل کرتا ہے کیونکہ مقصد لوگوں کو دھوکے میں ڈالنا ہے۔

توسل کو شرک کہنا شرک کی حقیقت سے جہالت کی دلیل ہے

اسلام کی چودہ سو سالہ تاریخ میں آج تک کسی مسلمان نے توسل کی کسی صورت کو شرک نہیں کہا اور نہ ہی شرک کی تعریف اس پر صادق آتی ہے۔ کیپٹن مسعود پہلا شخص ہے جس نے ایک ثابت شدہ حقیقت کا انکار کر دیا اور اس کو شرک کہہ ڈالا حالانکہ اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کرنا اے اللہ اپنے فلاں نبی یا ولی کے طفیل یا ان کے وسیلے سے میری مغفرت فرما اس میں کونسا شرک آ گیا جبکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے کو اللہ تعالیٰ کی کسی صفت میں شریک نہیں بنایا گیا بلکہ ان کی محبت وعقیدت کی وجہ سے اس کا صرف وسیلہ دیا گیا لہٰذا توسل کو شرک کہنا جہالت ہی جہالت ہے باقی رہا یہ سوال کہ فلاں نبی یا فلاں صحابی نے دعا میں وسیلہ کیوں نہیں دیا تو عرض ہے کہ یہ وسیلہ کوئی فرض وواجب نہیں ہے لہٰذا اگر کسی نے وسیلہ نہیں دیا تو بھی جائز ہے اگر کسی نے دیا تو یہ بھی ثابت ہے، بہر حال سب انبیاء واولیاء سے توسل کا ثبوت مانگنا بھی جہالت ہے جتنا ثابت ہے جواز کے لئے کافی ہے۔

مسئلہ: ۔ ۵

الاستشفاع عندالقبر الشریف

یعنی

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس دعائے مغفرت وغیرہ کی درخواست کرنا

تمہید:..... حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں بہ تعلق روح بجسد ہ زندہ ہیں آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی قبر مبارک جنت کا باغ ہے یہ زندگی ایک غیب کی چیز ہے جس کو ہم اپنے حواس سے محسوس نہیں کر سکتے چونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ

علیہ وسلم نے اس زندگی کی اطلاع دی ہے اس لئے اس غیب پر ایمان لانا ضروری ہے اور قبر شریف میں روح اور جسد کے تعلق کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زائرین کا سلام سنتے ہیں اور جواب مرحمت فرماتے ہیں۔ اس عقیدے پر کتاب وسنت ناطق ہیں اور اجماع امت مستزاد ہے دلائل کی تفصیل بندہ عاجز کی کتاب "الحیات بعد الوفات" یعنی قبر کی زندگی میں ملاحظہ فرمائیے، بہر حال قبر کی یہ زندگی حق وسچ مسلم حقیقت ہے اور اسی زندگی کی وجہ سے بعد از اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ درخواست کرنا بھی جائز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لئے دعا مغفرت فرمائیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری سفارش فرمائیں کہ ہماری فلاں حاجت کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائے وغیرہ وغیرہ اسی طرح اگر کسی شخص نے زائر کو کہا کہ بوقت زیارت حاضری میری طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کرنا تو اس کی طرف سے سلام بھی پیش کرے اور یہ سب باتیں کتاب وسنت اور اجماع امت سے ثابت ہیں چنانچہ چند دلائل ملاحظہ فرمائیں:

دلیل نمبر: ۱

﴿وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا﴾

(سورہ نساء، آیت: ۶۴)

ترجمہ: "اور اگر جس وقت اپنا نقصان کر بیٹھے تھے اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوجاتے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے تو اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا رحمت کرنے والا پاتے۔"

حضرت مولانا مفتی محمد شفیعؒ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ:

"یہ آیت اگرچہ خاص واقعہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے لیکن اس کے الفاظ سے ایک عام ضابطہ نکل آیا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوجائے اور آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) اس کے لئے دعائے مغفرت کردیں اس کی مغفرت ضرور ہوجائے گی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیوی حیات کے زمانہ میں ہوسکتی تھی اسی طرح آج بھی روضہ اقدس پر حاضری اسی حکم میں ہے۔ (تفسیر معارف القرآن ص: ۴۵۹ ج ۲)

مندرجہ ذیل تفسیروں اور کتابوں میں اس آیت کی بنیاد پر یہی لکھا ہے کہ حیات دنیوی کے بعد بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب شفاعت جائز ہے کیونکہ آیت مذکورہ کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی باقی ہے۔ (تفسیر مدارک ص: ۳۹۹۔ تفسیر البحر المحیط از علامہ ابوحیان اندلسی ج ۱ ص ۲۸۲۔ تفسیر قرطبی ج ۵ ص ۲۶۵۔ تفسیر ابن کثیر ص ۵۲۰ جذب القلوب فارسی ص ۱۹۶۔ وفا الوفا للسمہودی۔ آب حیات ص ۳۰، نشر الطیب ص ۲۱۹، اعلاء السنن ج ۱۰ ص ۳۳۰، فتاوی رشیدیہ، قسطلانی شرح بخاری، ابن عساکر، کتاب الاذکار للنووی، ۱۸۵، رسائل الارکان، شعائر اسلام، ص ۶۱۔ المواہب اللدنیہ مع الزرقانی ج ۸ ص ۳۰۶ تطہیر الفواد من دنس الاعتقاد، ص: ۵۱، ۵۲ تحریرات حدیث، ص: ۲۵۶، مصباح الاسلام۔ احسن الفتاوی ج ۳ ص: ۵۵۱، فضائل حج، ص: ۹۱۹، ۹۲۰)

دلیل نمبر:۲

وقد ذکر جماعة منهم الشیخ ابومنصور الصباغؒ فی کتابه الشامل الحکایة المشهورة عن العتبی قال كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ اَعْرَابِيٌّ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِسَمِعْتُ اللّٰهَ يَقُوْلُ: وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْظَّلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ جَاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوْا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَلَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُ اللّٰهَ تَوَّابًا رَحِيْماً. وَقَدْجِئْتُ مُسْتَغْفِرًا لِذَنْبِي مُسْتَشْفِعاً اِلَى رَبِّي. (تفسیر ابن کثیر، ج ۱ ص: ۵۲۰، کتاب الاذکار، ص: ۱۸۵، تفسیر مدارک ج ۱، ص: ۳۲۶، شفا الاسقام ص: ۴۲، جذب القلوب، ص: ۱۹۵، رسائل الارکان، ص: ۲۸۰، فضائل حج ص: ۹۰۳، وفا الوفا ج۲ ص: ۲۱۱، المواهب مع الزرقانی ج۸ ص: ۳۰۶، تطهیر الفواد من دنس الاعتقاد، ص: ۵۱)

ترجمہ: ایک جماعت نے عتبی سے یہ مشہور حکایت نقل کی ہے جس جماعت میں شیخ ابومنصور بھی ہیں یہ واقعہ انہوں نے اپنی کتاب "الشامل" میں بیان کیا ہے، عتبی فرماتے ہیں کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک اعرابی آیا اور اس نے کہا السلام علیک یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) میں نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد سنا ہے اور "اگر بے شک وہ لوگ جب کہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تیرے پاس آتے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے اور ان کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے، تو وہ ضرور اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پاتے"۔ اس لئے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لئے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارشی پیش کرنے آیا ہوں۔

قارئین کرام! یہ حکایت مشہور ہے اس کو تلقی بالقبول کا درجہ حاصل ہے اور جس روایت کو تلقی بالقبول کا درجہ حاصل ہو جائے اس کی سند کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی وہ روایت خود بخود قابل قبول بن جاتی ہے۔

دلیل نمبر:۳

رواه البیهقی عن طریق الاعمش عن ابی صالح عن مالک الدار رضی الله عنه رواه ابن ابی شیبة بسند صحیح عن مالک الدار رضی الله عنه قال اصاب الناس قحط فی زمان عمر بن الخطاب رضی الله عنه فجاء رجل الی قبر النبی صلی الله علیه وسلم فقال یارسول الله! استق الله تعالیٰ لامتک فانهم قد هلکوا فاتاه رسول الله صلی الله علیه وسلم فی المنام فقال ایت عمر رضی الله عنه فاقرئه السلام واخبره انهم مستقون وقل له علیک الکیس، الکیس فاتی الرجل عمر رضی الله عنه فاخبره فبکی عمرؓ رضی الله عنه ثم قال یارب ماالوا الاّما عجزت عنه رواه سیف فی الفتوح ان الذی رای المنام

جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بیان کیا اور فرمایا کہ بلاشبہ بلال بن حارث رضی اللہ عنہ، ایسا اور ایسا خیال کرتا ہے تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ بلال بن حارث رضی اللہ عنہ، صحیح کہتا ہے۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے استشفاع عند القبر الشریف کو بلانکیر قبول فرمایا اور ان کے خواب کو سچ قرار دیا۔

دلیل نمبر: ۴

قاضی عیاض رحمہ اللہ صحیح سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں کہ ابو جعفر منصور نے امام مالک رحمتہ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کے وقت جب دعا مانگوں تو منہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کروں یا قبلہ کی طرف کروں تو امام مالک رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا:

﴿بل استقبله واستشفع به فيشفعه الله، قال الله تعالى: ولو انهم اذظلموا انفسهم. الآية﴾۔ (الشفاء ج ۲ ص: ۳۲، ۳۳)

علامہ عبد الکافی السبکی فرماتے ہیں۔ وہو اسناد جید، شفاء السقام، ص: ۱۱۵۔ علامہ سمہودیؒ نے بھی یہ واقعہ نقل فرما کر کہا ہے کہ یہ سند جید ہے۔ (وفا الوفا، ص: ۱۳۲۳، نسیم الریاض ج ۳ ص: ۳۹۸)

ترجمہ: ''بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارشی بنا اللہ تعالیٰ آپ کی سفارش قبول فرمائے گا۔''

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ. الآية﴾

اس روایت سے معلوم ہوا کہ امام مالک رحمتہ اللہ استشفاع کے قائل تھے اور ان کا استدلال قرآن مجید کی مذکورہ بالا آیت سے ہے اور بالکل استدلال درست اور صحیح ہے، کہ آیت مذکورہ کا حکم بعد از وفات بھی باقی ہے۔

دلیل نمبر: ۵

مسئلہ استشفاع پر اجماع امت ہے اور اجماع امت بھی ایک شرعی دلیل اور حجت ہے چنانچہ فقہا ائمہ اربعہ سب کے سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضری اور سلام کے وقت استشفاع کا مشورہ دیتے ہیں چنانچہ مندرجہ ذیل کتب میں استشفاع اور اس کا طریقہ لکھا ہوا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ اور حنبلیہ حضرات اس استشفاع کے قائل ہیں۔ (دیکھئے، نور الایضاح، ص: ۱۹۱، فتح القدیر ج ۳ ص: ۳۳۸۔ فتاوی عالمگیریہ ج ۱ ص: ۲۸۲۔ رسائل الارکان، ص: ۳۸۱، وفاء الوفاء ج ۲ ص: ۱۳۳۳، معلم الحجاج ص: ۳۲۵، طحطاوی، ص: ۴۰۶، مجمع الانہار، ص: ۳۱۳، کتاب الاذکار، ص: ۱۸۴، الایضاح فی المناسک، ص: ۴۹۸، لباب المناسک مع شرح المسلک المتقسط فی المنسک المتوسط، ص: ۳۳۹، المحجۃ الوجیۃ ص: ۱۲، شامی ج ۲ ص: ۳۵۳، شرح شفاء ج ۳ ص: ۵۲۰، زبدۃ المناسک، ص: ۱۴۰، ۱۴۱)

الغرض تمام علماء اسلام نے اس پر اجماع کیا ہے کہ بوقت زیارت استشفاع جائز ہے اور اگر کسی نے اجماع منعقد ہوجانے کے بعد اجماع کے خلاف کوئی قول کیا ہے تو اس کے قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے کیونکہ اجماع کے خلاف ہے۔

ازالۂ شبہ:

توسل اور استشفاع کے منکر ہیں عوام الناس کے دلوں میں وساوس پیدا کرتے ہیں کہ یہ مسائل فلاں فلاں صحابی سے ثابت نہیں ہیں، وہ صحابی فلاں موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک پر کیوں نہ گیا اور فلاں کیوں گیا؟ تو درحقیقت یہ وساوس ہیں، کیونکہ یہ توسل اور استشفاع فرض و واجب نہیں ہے اور چند ایک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اس کا اثبات و جواز کافی ہے ورنہ کتنے مستحبات اور جواز ہیں جن کو فرداً فرداً تمام صحابہ کرام سے ثابت نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی فرداً فرداً صحابہ کرام سے اثبات ضروری ہے، بلکہ کوئی عمل اگر کسی ایک صحابی سے ثابت ہوجائے تو اگر تعارض کی صورت پیدا نہ ہوتی ہو تو استحباب کے لئے کافی ہے۔ لہذا استشفاع حضرت بلال بن حارث رضی اللہ عنہ مزنی اور ایک اعرابی اور امام مالکؒ سے ثابت ہے۔ تو استحباب و جواز کے لئے کافی ہے۔ جبکہ دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان کے اس عمل پر نکیر نہیں فرمائی بلکہ سکوت فرمایا اور پھر پوری امت نے تسلیم کیا تو اس مسئلہ کو مزید تقویت حاصل ہوگئی۔

کیپٹن کو احادیث کے ضعیف کہنے کا کوئی حق نہیں ہے:

یہ بات کئی دفعہ باحوالہ گزر چکی ہے کہ کیپٹن صاحب خود لکھ چکے ہیں، کہ اسماء رجال کے علماء حیات وسماع کے قائل ہونے کی وجہ سے کافر ومشرک ہیں، تو جب کیپٹن صاحب جرح وتعدیل کے ناقلین کو مشرک وکافر کہتا ہے تو ان کی نقل پر کیا اعتماد رہ جاتا ہے۔ لہذا کیپٹن صاحب کا بعض روایات حدیث کے متعلق جرح کے الفاظ نقل کرنا ان کو ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کرنا خطرناک دھوکہ اور بہت بڑی تلبیس ہے کیونکہ

جب جرح نقل کرنے والے خود مجروح بلکہ کافر ومشرک ہیں تو ان کی نقل سے حدیث کیسے ضعیف ثابت ہوگی، لیکن کیپٹن صاحب اپنے مطالب کو حاصل کرنے کے لئے اور اردو خواندہ حضرات کو دھوکہ دینے کے لئے کئی حوالے دے ڈالتا ہے کہ فلاں راوی کو فلاں نے کذاب کہا، فلاں نے ضعیف کہا وغیرہ لیکن درحقیقت کیپٹن صاحب خود ضعیف اور کذاب کہنے والوں کو کافر ومشرک کہہ چکا ہے، تو کافروں اور مشرکوں کی بات کا کیا اعتبار ہے۔

استشفاع قطعاً شرک نہیں بن سکتا:

شرک تو یہ ہے کہ مخلوقات میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں یا اس کے مخصوص کاموں میں شریک اور حصہ دار بنایا جائے جبکہ استشفاع یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاکر یہ درخواست کی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے یا ہمارا فلاں کام کردے تو یہاں دعا کرائی جارہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں کام کردے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا نہیں مانگی جارہی ہے نہ ہی آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو اختیارات کا مالک سمجھا جارہا ہے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے تو صرف دعا کرائی جارہی ہے اور یہی دعا تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی حیات دنیوی میں بھی کرائی جاتی تھی اور اب حیات قبر و برزخ میں بھی کرائی جارہی ہے۔ اگر دعا کا یہ طریقہ شرک ہوتا تو حیات دنیوی میں بھی شرک ہوتا حالانکہ حیات دنیوی میں سب لوگ استشفاع کے قائل ہیں اور صحیح حدیثوں سے ثابت بھی ہے لہذا جب حیات دنیوی میں استشفاع شرک نہیں تھا تو اب حیات قبر میں بھی شرک نہیں بن سکتا اور کوئی ایسا فعل ہے ہی نہیں تو حیات دنیوی میں تو مشرک نہ ہو لیکن حیات قبر میں جاکر مشرک بن جائے بہر حال استشفاع من القبر

الشـــریف کو شرک کہنا درحقیقت شرک کی تعریف اور ان کی حقیقت سے ناواقفی کی دلیل ہے۔

باقی رہے مشرکین مکہ تو وہ شفاعت جبری اور قہری کے قائل تھے، نیز وہ اپنے سفارشیوں کی عبادت کرتے تھے، لہذا اسلامی سفارش یعنی توسل اور استشفاع کو مشرکین مکہ کی شفاعت قہری سمجھنا قرآن پاک کی تحریف ہے اور اردو خواندہ حضرات کو تلبیس میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ العیاذ باللہ۔

مسئلہ:۔ ٦

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء والمرسلین ہیں

تمہید:۔

کتاب وسنت سے یہ عقیدہ ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم اور افضل الانبیاء والمرسلین ہیں۔ اور اسی پر اجماع امت ہے، کیونکہ ختم نبوت کا تاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنایا گیا۔ بیت المقدس میں امام الانبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا قیامت تک کے جن وانس کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے ساتھ سابقہ انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں کو منسوخ قرار دیا گیا۔ شفاعت کبریٰ کا مقام محمود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا۔ عالم ارواح میں تمام انبیاء کرام سے آپ کی تائید ونصرت کا وعدہ لیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت خیر الامم ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید دیا گیا جو تمام آسمانی کتابوں سے افضل

ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ افضل الانبیاء ہیں۔ تمام انبیاء کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنائی اس لئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے لیکن کیپٹن صاحب کو ماننے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام سے افضل وبرتر ماننے کو تیار نہیں ہیں چنانچہ منور سلطان لکھتا ہے کہ:

> "جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غلو کا شکار ہو کر لوگ یہ بھی کہہ بیٹھتے ہیں کہ ہمارا اور ہمارے مشائخ کا یہ عقیدہ ہے کہ سیدنا ومولانا وحبیبنا وشفیعنا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق سے افضل اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہتر ہیں اللہ تعالیٰ سے قرب ومنزلت میں کوئی شخص آپ کے برابر تو کیا قریب بھی نہیں ہو سکتا آپ سردار ہیں جملہ انبیآء ورسل کے اور خاتم ہیں سارے بزرگوں اور نبیوں کے جیسے کہ نصوص سے ثابت ہے اور یہی ہمارا عقیدہ ہے اور یہی دین اور ایمان ہے اسی کی تصریح ہمارے مشائخ بہترین تصانیف میں کر چکے ہیں"۔

(عقائد علمائے دیوبند، ص: ۲۳، اسلام یا مسلک پرستی، ص: ۱۱۶)

قارئین کرام! مذکورہ بالا اقتباس علماء دیوبند کے عقائد کی دستاویز کتاب "المهند على المفند" کا ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام سے افضل وبرتر کہا گیا ہے لیکن منور سلطان کا اس پر ایمان نہیں ہے اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل الانبیاء تسلیم نہیں کرتا ہے۔ اس لئے علماء اسلام کے اس اجماعی عقیدہ کو غلو قرار دیتا ہے، حالانکہ غلو نہیں ہے بلکہ پوری امت کا اجتماعی عقیدہ ہے۔ آج تک کسی مسلمان نے اس کا انکار نہیں کیا لیکن کیپٹن صاحب کو ماننے والے اس کا

انکار کرتے ہیں اور دلیل میں قرآن مجید کی آیت:

﴿لانُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ﴾ (بقرہ آیت ٢٨)

کو پیش کرتے ہیں۔

منور سلطان آیت قرآنی کا غلط مطلب پیش کرتا ہے:

اولاً: آپ منور سلطان کا عقیدہ پھر اس کا آیت قرآنی سے غلط استدلال ملاحظہ فرمائیں بعدہ ان کے استدلال کی غلطی واضح کی جائے گی چنانچہ لکھا ہے:

> "لیکن ہمیں اس فضیلت و برتری کی یقین کا اختیار! ہمارا کیا حق اور استحقاق کہ ہم ان پاکیزہ ہستیوں کے درجے متعین کرتے پھریں، مقام مقرر کریں، ایک کو دوسرے سے افضل بتائیں، کسی کی حیثیت دوسرے سے بڑھائیں، ہمارا تو وہ انداز ہونا چاہیے جو اللہ نے قرآن میں ایمان والوں کی صفات بیان کرتے ہوئے بتایا کہ:
>
> ﴿لانُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ﴾۔ (بقرہ، آیت ١٣٦، آل عمران ٨٤)
>
> ﴿لانُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ﴾۔ (البقرہ آیت: ٢٨٥)
>
> "ہم ان رسولوں میں کسی میں کوئی فرق نہ کریں"۔
>
> کسی بھی قسم کی تفریق سے دور رہیں، کسی کے درجے، حیثیت، رتبے، منصب و مقام کا تعین نہ کریں، وہ سارے کے سارے افضل الخلائق تھے، اللہ کے پسندیدہ، محبوب، مصطفیٰ بندے تھے، لاکھوں کروڑوں انسانوں میں سے اللہ نے صرف انہیں ہی ایک عظیم کام کے لئے منتخب کیا، ان سب کا اللہ کے یہاں اپنا اپنا ایک مقام ہے۔ جو صرف اللہ ہی کو معلوم ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم ان سب پر ایمان لائیں۔ قرآن و حدیث نے جس فضیلت کا ذکر کیا ہے اس پر اتنا ہی ایمان لازم ہے، اس میں مبالغہ کرتے ہوئے انبیاء علیہم السلام کی فضیلت کا تقابلی جائزہ نہ لیں، نہ ان کی فضیلت کی کھوج لگائیں، نہ اپنی طرف سے کچھ طے کریں"۔ (اسلام یا مسلک پرستی ص: ١١٨)

محترم قارئین! اپنی اس لمبی چوڑی لفاظی میں منور سلطان یہی کچھ کہنا اور منوانا چاہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء نہیں ہیں اور اپنی تائید میں جن آیات سے استدلال کیا ہے ان کا غلط مطلب بیان کیا ہے اور اردو خواندہ طبقے کو دھوکہ میں رکھا ہے کیونکہ لَانُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ. کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شان میں سب رسول برابر ہیں ہم کسی کو دوسرے پر فضیلت نہیں دیتے جیسا کہ منور سلطان نے سمجھ رکھا ہے۔ بلکہ ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں ان کے درمیان میں فرق نہیں کرتے کہ بعض رسولوں پر ایمان لائیں اور بعض پر ایمان نہ لائیں، جیسا کہ قوم یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتی تھی ہم ایسا نہیں کرتے، بلکہ تمام رسولوں پر ایمان رکھتے یعنی ایمان میں فرق نہیں کرتے، تو معلوم ہوا کہ آیات مذکورہ میں لَا نُفَرِّقُ سے مراد ایمان کا فرق ہے، نہ کہ شان کا فرق، لیکن منور سلطان نے آیات کا غلط مطلب بیان کر کے انبیاء کرام علیہم السلام کے درمیان شان و فضیلت کی نفی کر دی ہے، حالانکہ حضرات انبیاء کرام کے مابین شان و فضیلت کا فرق تو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ﴾ (سورہ

بقرہ، آیت ۲۵۳)

ترجمہ: ''یہ حضرات مرسلین ایسے ہیں ہم نے ان میں سے بعضوں کو بعضوں پر فوقیت بخشی ہے۔''

﴿وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّيْنَ عَلٰى بَعْضٍ﴾ (سورۃ بنی اسرائیل. آیت:۵۵)

''ترجمہ: اور ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی۔''

تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں، نبیوں کے درمیان درجات و شان کا فرق ہے بعض پیغمبر بہ نسبت دوسروں سے افضل ہیں اور ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے افضل و برتر ہیں۔ لیکن منور سلطان نے آیات قرآنی کا ایسا غلط مطلب بیان کیا ہے جو دوسری آیات کے صریح خلاف ہے اور ایسے لوگوں کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ کچھ ایسے گمراہ لوگ آئیں گے جو قرآن مجید کی آیات کا ایسا مطلب بیان کریں گے جو دوسری آیات کے متصادم ہوگا، بہرحال آیات قرآنی میں یہ نہیں کہا گیا حضرات انبیاء کرام کے مابین ان کی شان کا فرق نہ کیا جائے کیونکہ یہ مطلب تو دوسری آیات کے خلاف ہے بلکہ کہا یہ گیا ہے کہ ان کے مابین ایمان کا فرق نہ کیا جائے۔

منور سلطان کی منطق کی رو سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کی شان میں بھی فرق نہیں کرنا چاہیے

منور سلطان کا یہ معنی اتنا غلط ہے کہ اگر اس کو تسلیم کرلیا جائے تو آدمی ایمان سے بھی خارج ہو جائے گا چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّنَكْفُرُ بِبَعْضٍ﴾ (نساء، آیت: ۱۵۱)

ترجمہ: ''جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ اور یوں چاہتے ہیں کہ اللہ کے اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق رکھیں اور کہتے ہیں کہ بعضوں پر ایمان لاتے ہیں اور بعضوں کے منکر ہیں۔''

دیکھئے، اس آیت میں فرمایا گیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں یعنی بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض پر ایمان نہیں لاتے ہیں وہ کافر ہیں تو معلوم ہو گیا کہ فرق سے مراد ایمان کا فرق ہے نہ کہ شان کا فرق، ورنہ لازم آئے گا کہ اللہ اور اس کے رسولوں میں شان و فضیلت میں کوئی فرق نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول شان میں برابر ہیں حالانکہ یہ عقیدہ کفر ہے تو ثابت ہوا کہ **لا نفرق** سے مراد ایمان کا فرق ہے کہ آدمی بعض کو مانے اور بعض کو نہ مانے جیسا کہ مذکورہ بالا آیت میں تصریح موجود ہے: ﴿نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّنَكْفُرُ بِبَعْضٍ﴾.

بہرحال منور سلطان نے آیت کا غلط مطلب بیان کیا ہے جو قرآن مجید کی دوسری آیات کے بھی خلاف ہے درحقیقت منور صاحب نے قرآن مجید کی تحریف معنوی کی ہے جو کہ نرا کفر و الحاد ہے۔

منور سلطان کا بیان کردہ مطلب ایک دوسری آیت کے خلاف ہے

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَلَمْ يُفَرِّقُوْا بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ

﴿أُولٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ﴾ (نساء، آیت: ۱۵۲)

"ترجمہ: اور جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور اسکے سب رسولوں پر اور ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ضرور ان کے ثواب دے گا۔"

اس آیت میں ان لوگوں کو ایماندار کہا گیا ہے اور ثواب دینے کا وعدہ بھی کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں اور کسی میں فرق نہیں کرتے تو ظاہر ہے کہ فرق کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کو مانے، اس کے رسولوں کو مانے یا بعض رسولوں کو مانے اور بعض کو نہ مانے اگر اس آیت میں منور سلطان والا معنی مراد لیا جائے تو کفر لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں میں شان کا فرق نہ کیا جائے بلکہ اللہ اور اس کے رسولوں کو شان وفضیلت میں برابر سمجھا جائے تو یہ سارا بگاڑ اس لئے لازم آتا ہے کہ منور سلطان نے قرآن مجید کا غلط مطلب بیان کیا ہے کہ شان وفضیلت کا فرق مراد لے لیا ہے حالانکہ ایمان کا فرق مراد ہے۔

قارئین کرام! یقین جانئے گمراہ لوگ اور ملحد فرقے جب تک قرآن مجید کی آیات کی تحریف نہ کریں اس وقت تک ان کا من مانا مطلب اور دل بھاتا مقصد حاصل نہیں ہوتا، اس لئے یہ لوگ قرآنی تحریف اور الحاد فی آیات اللہ میں مجبور ہو جاتے ہیں اور ایسا کرنے سے خود بھی گمراہ بنتے ہیں اور سادہ لوح عوام کو بھی گمراہ کرتے ہیں اور اس فعل بد کا نام قرآن، اسلام اور توحید رکھتے ہیں حالانکہ ان کا یہ سارا عمل غیر قرآن اور غیر اسلام ہوتا ہے یعنی اتنے گمراہ ہو چکے ہیں کہ ان کو قرآن اور غیر قرآن، اسلام اور غیر اسلام اور توحید اور غیر توحید کا بھی پتہ نہیں ہے۔

شان حبیب الرحمٰن فی آیات القرآن:

چونکہ کیپٹن کو ماننے والا منور سلطان، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل الانبیاء تسلیم نہیں کرتا، اس لئے قرآن وحدیث سے چند دلائل آپ کی خدمت میں پیش کئے جاتے ہیں، جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان وفضیلت بلکہ افضلیت ثابت ہوتی ہے اور آیات پھر احادیث ملاحظہ فرمائیں۔

آیت نمبر ۱:

﴿وَإِذْ أَخَذَ اللّٰهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ؟ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ﴾ الآیۃ آل عمران آیت: ۸۱)

ترجمہ: "اور جب کہ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا انبیاء سے کہ جو کچھ تم کو کتاب اور علم دوں پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آوے جو مصدق ہو اس کا جو تمہارے پاس ہے تو ضرور اس رسول پر اعتقاد بھی لانا اور اس کی طرفداری بھی کرنا۔"

فائدہ:...... حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں جن کی تائید و نصرت کا سارے پیغمبروں سے وعدہ لیا گیا اور اسی عہد کی تکمیل کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام اور شریعت محمدیہ کی تائید ونصرت کرینگے۔

آیت نمبر ۲:

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾۔

(اعراف، آیت ۱۵۸)

ترجمہ: ''آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو! میں تم سب کی طرف اس
اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔''

فائدہ:...... معلوم ہوا کہ صرف اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لئے نبی و رسول بن کر شریعت لائے اور یہ فضیلت کسی دوسرے نبی کو نہیں ملی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہیں۔

آیت نمبر۳:

﴿لَقَدْ جَاءَ كُمْ رَسُوْلٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُفٌ رَحِيْمٌ﴾۔ (توبہ، آیت ۱۲۸)

''ترجمہ: تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس سے ہیں جن کو تمہاری نفرت کی بات نہایت گراں گزرتی ہے، جو تمہاری منقبت کے بڑے خواہشمند رہتے ہیں ایمانداروں کے ساتھ بڑے شفیق و مہربان ہیں۔''

فائدہ:...... یہ آیت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور افضلیت کی دلیل ہے خصوصاً جبکہ انفسکم کو فا کے فتح کے ساتھ پڑھا جائے جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی قرأت ہے، جس کا معنی ہے کہ سب سے افضل و اشرف رسول۔

آیت نمبر۴:

﴿عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا﴾۔ (بنی اسرائیل، آیت: ۷۹)

''ترجمہ:۔ امید ہے کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا رب آپ کو مقام محمود میں جگہ دے گا۔''

فائدہ:...... یہ مقام محمود اللہ تعالیٰ اپنے ایک خاص بندے کو عطا فرمائیں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ وہ مقام اللہ تعالیٰ مجھے ہی عطا فرمائیں گے۔

آیت نمبر۵:

﴿وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ﴾۔ (حج، آیت: ۱۰۷)

''ترجمہ: اور ہم نے آپ کو کسی بات کے واسطے نہیں بھیجا مگر دنیا جہاں کے لوگوں پر مہربانی کرنے کے لئے۔''

آیت نمبر۶:

﴿تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا﴾۔ (فرقان، آیت..)

''ترجمہ: بڑی عالی شان والی ذات ہے جس نے یہ فیصلہ کی کتاب اپنے بندہ خاص پر نازل فرمائی تاکہ وہ تمام دنیا جہاں والوں کے لئے ڈرانے والا ہو۔''

فائدہ:...... مذکورہ بالا دونوں آیات سے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا تمام دنیا جہاں والوں کے لئے نبی اور رسول ہونا ثابت ہوتا ہے اور یہ فضیلت صرف آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہی کی ہے۔

آیت نمبر۷:

﴿یٰاَیُّھَا النَّبِیُّ اِنَّا اَرْسَلْنٰکَ شَاھِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِیْرًا وَّدَاعِیًا اِلَی اللّٰہِ بِاِذْنِہٖ وَسِرَاجًا مُّنِیْرًا﴾۔

(احزاب، آیت ۴۶)

’’ترجمہ: اے نبی! (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم نے بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شان کا رسول بنا کر بھیجا ہے کہ آپ لوگوں کو بشارت دینے والے ہیں اور ڈرانے والے ہیں اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روشن چراغ ہیں۔‘‘

آیت نمبر۸:

﴿اِنَّ اللّٰہَ وَمَلٰٓئِکَتَہٗ یُصَلُّوْنَ عَلَی النَّبِیِّ ط یٰاَیُّھَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَیْہِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِیْمًا﴾ (احزاب، آیت: ۵۶)

’’ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں اس پیغمبر پر اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجا کرو۔‘‘

آیت نمبر۹:

﴿وَمَآ اَرْسَلْنٰکَ اِلَّا کَآفَّۃً لِّلنَّاسِ بَشِیْرًا وَّنَذِیْرًا وَّلٰکِنَّ اَکْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ﴾ (سباء آیت: ۲۸)

ترجمہ: ’’اور ہم نے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو تمام لوگوں کے واسطے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا

لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔‘‘

آیت نمبر۱۰:

﴿وَلَسَوْفَ یُعْطِیْکَ رَبُّکَ فَتَرْضٰی﴾۔ (سورۃ الضحیٰ، آیت: ۵)

ترجمہ: ’’اور عنقریب اللہ تعالیٰ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو دے گا سو آپ خوش ہو جاویں گے۔‘‘

آیت نمبر۱۱:

﴿وَرَفَعْنَا لَکَ ذِکْرَکَ﴾۔ (سورۃ الم نشرح آیت ۴)

ترجمہ: ’’اور ہم نے آپ کی خاطر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا ذکر بلند کیا۔‘‘

یہ گیارہ آیات آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں درحقیقت سارا قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، فضیلت اور افضلیت سے بھرا ہوا ہے اور اب چند احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا افضل الانبیاء، خاتم الانبیاء اور سید الانبیاء ہونا معلوم ہوتا ہے۔

حدیث نمبر۱:

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا حتی کنت من القرن الذی کنت منہ

(مشکوۃ، ص: ۵۱۱ بخاری، ج ۱ ص: ۵۰۳)

ترجمہ:۔ ’’حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں بنی آدم کے بہترین طبقوں میں پیدا کیا گیا ہوں ایک صدی کے بعد دوسری صدی گزرگئی یہاں تک کہ میں اس صدی میں پیدا ہوا جس میں پیدا ہوا ہوں۔"

حدیث نمبر ۲:

عن واثلہ بن الاسقع قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل و اصطفیٰ من قریش بنی ہاشم و اصطفانی من بنی ہاشم ۔ (مشکوۃ، ص: ۵۱۱ بحوالہ مسلم ج۲ ص: ۲۴۵ ترمذی)

ترجمہ: "حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اولاد اسمٰعیل سے کنانہ کو چن لیا کنانہ سے قریش کو چن لیا اور قریش سے بنو ہاشم کو چن لیا اور بنو ہاشم سے مجھ کو چن لیا۔"

حدیث نمبر ۳:

٭عن ابی ھریرۃ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامۃ واول من ینشق عنہ القبر واول شافع واول مشفع٭ (مشکوۃ، ص: ۵۱۱ بحوالہ مسلم ج۲ ص: ۲۴۵، جامع

صغیر ج ۱ ص: ۱۰۶ بحوالہ ابن ماجہ وابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میں اولاد آدم کا سردار ہونگا اور میں پہلا شخص ہوں جس سے قبر کھلے گی اور میں پہلا شفاعت کرنے والا ہوں اور میں پہلا ہوں جس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔

حدیث نمبر ۴:

عن انس رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اکثر الانبیاء تبعا یوم القیامۃ و انا اول من یقرع باب الجنۃ ۔ (مشکوۃ ص: ۵۱۱ بحوالہ مسلم ج: ۱ ص: ۸۶ جامع صغیر ج: ۱ ص: ۱۰۶ بحوالہ مسلم)

ترجمہ: ۔ "حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب نبیوں سے بڑھ کر میرے تابعدار ہونگے اور میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤنگا۔"

حدیث نمبر ۵:

عن انس رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتی باب الجنۃ یوم القیامۃ فاستفتح فیقول الخازن من انت؟ فاقول محمد فیقول بک امرت ان لا افتح لاحد قبلک ۔ (مشکوۃ ص: ۵۱۱

بحوله مسلم، جامع صغیر ج ص:)

ترجمہ: ''حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میں جنت کے دروازہ پر آؤنگا اور اس کو کھلواؤنگا، جنت کا خازن کہے گا کہ تو کون ہے؟ میں جواب دونگا، میں محمد ہوں، (صلی اللہ علیہ وسلم) وہ کہے گا کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے سوا کسی کے لئے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے پہلے دروازہ نہ کھولوں۔''

حدیث نمبر ۶:

عن ابی هریرة رضی الله عنه ان رسول اللّٰہ صلی الله علیه وسلم قال فضلت علی الانبیاء بست، اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب احلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطهورا وارسلت الی الخلق کافة وختم بی النبیون. (مشکوة ص: ۵۱۲ بحواله مسلم ج ۱ ص: ۱۹۹)

ترجمہ: ''حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چھ باتوں میں مجھے دوسرے انبیاء کرام پر فضیلت دی گئی ہے میں جوامع الکلم دیا گیا ہوں، رعب کے ذریعے مری مدد کی گئی ہے، غنائم مرے لئے حلال کر دی گئی ہے، زمین میرے لئے مسجد بنا دی گئی ہے،

میں سب لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، میرے ساتھ انبیاء کرام ختم کئے گئے ہیں۔''

حدیث نمبر ۷:

عن العباس رضی الله عنه انه جاء الی النبی صلی الله علیه وسلم فکانه سمع شیئا فقام النبی صلی الله علیه وسلم علی المنبر فقال: من انا فقالوا انت رسول اللّٰہ قال انا محمد بن عبد اللّٰہ بن عبد المطلب ان اللّٰہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرهم ثم جعلهم فرقتین فجعلنی فی خیرهم فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلنی فی خیرهم قبیلة ثم جعلهم بیوتا فجعلنی فی خیرهم بیتا فانا خیرهم نفسا وخیرهم بیتا. (مشکوة ص: ۵۱۳ بحواله ترمذی، ج ۲ ص: ۲۰۱)

ترجمہ: ''حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا گویا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے دشمنوں سے کوئی طعن سن رکھا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے فرمایا میں کون ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں فرمایا میں محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب ہوں، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا مجھ کو بہترین خلقت میں پیدا کیا پھر ان کے دو گروہ بنا دیئے مجھ کو ان کے بہترین فرقہ میں پیدا کیا پھر ان کو قبائل میں تقسیم کر دیا مجھ کو بہترین قبیلہ میں کر دیا پھر ان کے گھرانے بنائے مجھ کو بہترین

گھرانے میں پیدا کیا تو میں ذات اور گھر کے لحاظ سے تمام لوگوں سے بہترین ہوں۔"

حدیث نمبر ۸:

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قالوا یارسول اللّٰہ متی وجبت لک النبوۃ قال آدم بین الروح والجسد

(مشکوٰۃ ص ۵۱۳ بحوالہ ترمذی ج ۲ ص: ۲۰۱)

ترجمہ: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے لئے نبوت کب ثابت ہوئی؟ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا: آدم اس وقت روح اور بدن کے درمیان تھے۔ (یعنی ان کے تن میں جان بھی نہ آئی تھی)

(ف) ...... امام احمد اور امام بخاری نے اپنی تاریخ میں اور ابونعیم نے حلیہ میں اسکو روایت کیا ہے اور امام حاکم نے اس کی تصحیح کی ہے۔

حدیث نمبر ۹:

عن العرباض بن ساریۃ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال انی عند اللّٰہ مکتوب خاتم النبین وان آدم لمنجدل فی طینۃ، الحدیث۔

(مشکوۃ ۵۱۳ بحوالہ شرح السنۃ واحمد) اور امام حاکم نے اس کو صحیح الاسناد کہا ہے۔

"ترجمہ:۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بے شک میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک خاتم النبین لکھا جا چکا تھا اور ہنوز آدم علیہ السلام اپنے خمیر میں ہی تھے۔ (یعنی ان کا پتلا ابھی تیار نہ ہوا تھا)

(ف) ...... حضرت آدم علیہ السلام کے پتلہ تیار ہونے سے پہلے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا نبی اور خاتم النبین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی روح اقدس کو یہ مقام اور عہدہ دیا گیا تھا در حقیقت آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) اولاد آدم میں سے ہیں لہٰذا اس قسم کی احادیث سے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے اولاد آدم ہونے کی نفی سمجھنا کم عقلی ہے بہر حال آپ سید ولد آدم ہیں۔

حدیث نمبر ۱۰:

عن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال: قال رسو اللّٰہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامۃ ولا فخر وبیدی لواء الحمد ولا فخر ومامن نبی یومئذ آدم فمن سواہ الا تحت لوائی وانا اول من تنشق عنہ الارض ولا فخر (مشکوۃ ص: ۵۱۳، بحولہ ترمذی ج ۲ ص ۲۰۲، جامع صغیر ج ۱ ص: ۱۰۶، بحوالہ احمد، ترمذی، ابن ماجۃ)

ترجمہ: حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور یہ فخر نہیں ہے اور میرے ہاتھ میں تعریف کا جھنڈا ہوگا اور کوئی فخر نہیں ہے آدم اور اس کے علاوہ سب نبی میرے

جھنڈے کے نیچے ہونگے اور میں پہلا ہونگا جس سے قبر کھلے گی اور کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔

حدیث نمبر ۱۱:

عن ابن عباس رضی الله عنهما قال جلس اناس من اصحاب رسول اللّٰه صلی الله علیه وسلم فخرج حتی اذادنی منهم سمعهم یتذاکرون قال بعضهم ان اللّٰه اتخذ ابراهیم خلیلا وقال آخر موسیٰ کلّمه اللّٰه تکلیما وقال آخر فعیسیٰ کلمة الله وروحه وقال آخر آدم اصطفاه الله فخرج علیهم رسول اللّٰه صلی الله علیه وسلم وقال قد سمعت کلامکم وعجبکم ان ابراهیم خلیل اللّٰه وهو کذالک وموسیٰ نجی الله وهو کذلک وعیسیٰ روحه وکلمته وهو کذلک وآدم اصطفاه الله وهو کذالک الا انا حبیب اللّٰه ولافخر وانا حامل لواء الحمد یوم القیامة تحته آدم فمن دونه ولافخر وانا اول شافع اول مشفع یوم القامة ولافخر وانا اول من یحرک حلق الجنة فیفتح اللّٰه لی فیدخلنیها ومعی فقراء المؤمنین و لافخر وانا اکرم الاولین والاخرین علی الله ولافخر۔ (مشکوة ص: ۵۱۴ بحوالہ ترمذی ج ۲ ص: ۲۰۲، دارمی ج ص)

ترجمہ: ”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم

بیٹھے ہوئے تھے آپ باہر تشریف لائے ان کے نزدیک ہوئے سنا کہ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے ایک کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا اور دوسرا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا ایک کہہ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا کلمہ اور اس کی طرف سے روح ہیں ایک نے کہا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر نکلے اور فرمایا جو کچھ تم نے کہا ہے میں نے سن لیا ہے اور تم تعجب کا اظہار کر رہے تھے کہ ابراہیم خلیل اللہ ہیں یہ درست ہے اور موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرنے والے ہیں یہ بھی درست ہے اور عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں یہ بھی درست ہے خبردار میں حبیب اللہ ہوں اور فخر سے نہیں کہتا قیامت کے دن حمد کا جھنڈا اٹھانے والا میں ہوں اور فخر سے نہیں کہتا آدم علیہ السلام اور دوسرے نبی اس کے نیچے ہونگے قیامت کے دن میں پہلا سفارش کرنے والا ہوں اور پہلا ہوں جس کی سفارش قبول کی جائے گی اور فخر سے نہیں کہتا اور میں پہلا ہوں جو جنت کے حلقہ کو ہلاؤں گا تو میرے لئے وہ کھولا جائے گا اللہ تعالیٰ مجھ کو اس میں داخل فرمائے گا میرے ساتھ فقراء مومنین ہونگے اور کوئی فخر نہیں ہے میں اگلوں اور پچھلوں میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہوں کوئی فخر نہیں ہے۔“

حدیث نمبر۱۲:

عن جابر رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه و سلم قال اناقائدالمرسلین ولا فخرو اناخاتم النبین ولافخروانااول شافع ومشفع ولافخر .(مشکوۃ ص:۵۱۴بحواله دارمی)

ترجمہ: ”حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں انبیاء ومرسلین کا قائد ہوں اور یہ بات فخر یہ نہیں کہہ رہا اور میں خاتم النبین ہوں اور یہ بات فخر یہ نہیں کہہ رہا میں پہلا سفارش کرنے والا ہوں اور پہلا ہوں جس کی سفارش قبول کی جائے گی اور یہ بات فخر یہ نہیں کہہ رہا۔“

حدیث نمبر۱۳:

عن انس رضی الله عنه قال:قال رسول اللّٰه صلی الله علیه وسلم انااول الناس خروجااذابُعثوا واناقائدهم اذاوفدوا واناخطیبهم اذاانصتوا وانامستشفعهم اذاحُبسوا وانامبشّرهُم اذاایسوا،الکرامةوالمفاتیح یومئذبیدی ولواء الحمدیومئذبیدی وانااکرم ولد آدم علی ربی یطوف علی الف خادم کانهم بیض مکنون اولؤلؤمکنون .(مشکوۃ ص:۵۱۴ بحواله ترمذی ودارمی وقال الترمذی هذاحدیث غریب،ترمذی ج۲ص:۲۰۱)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب لوگ اٹھائیں جائیں گے میں پہلا قبر سے نکلنے والا ہوں جب وہ آئیں گے میں ان کا قائد ہونگا جب وہ دربار خداوندی تعالیٰ میں حاضر ہونگے میں ان کا خطیب ہونگا جب وہ چپ ہوجائیں گے میں ان کا شفیع ہونگا جب وہ روک دیئے جائیں گے میں ان کو خوشخبری دینے والا ہونگا جب وہ مایوس ہوجائیں گے کرامت اور جنت کی چابیاں اس روز میرے ہاتھ میں ہونگی حمد کا جھنڈا میرے پاس ہوگا میں اپنے رب کے ہاں اولاد آدم میں سے سب سے زیادہ عزت والا ہوں میرے اردگرد اس روز ہزار خادم پھرینگے گویا کہ وہ پوشیدہ انڈے ہیں یا بکھرے ہوئے موتی ہیں۔

حدیث نمبر۱۴:

عن ابی هریرةرضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه وسلم قال فاکسی حلةمن حلل الجنةثم اقوم عن یمین العرش لیس احد من الخلائق یقوم ذلک المقام غیری .(رواه الترمذی وفی روایة جامع الاصول عنه، "آنااول من تنشق عنه الارض فاکسیٰ“ . مشکوۃ،ص:۵۱۴،ترمذی ج۲ ص: ۲۰۱)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے جوڑوں میں سے مجھے

ایک جوڑا پہنایا جائے گا میں عرش کی دائیں جانب کھڑا ہونگا مخلوقات میں سے میرے سوا کوئی اس مقام پر کھڑا نہ ہوگا روایت کیا اس کو ترمذی نے اور جامع الاصول کی روایت میں ہے انہیں سے ہے میں پہلا ہونگا جس سے زمین کھلے گی مجھے لباس پہنایا جائے گا۔"

حدیث نمبر ۱۵:

عن ابن عباس رضی الله عنهما قال: ان الله تعالیٰ فضل محمدا صلی الله علیه وسلم علی الانبیاء وعلی اهل السماء. الحدیث. (مشکوة، ص: ۵۱۵ بحواله دارمی)

ترجمہ: "حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء اور آسمان کے رہنے والوں پر فضیلت بخشی ہے۔"

حدیث نمبر ۱۶:

عن النبی صلی الله علیه وسلم قال اذا کان یوم القیامة کنت امام النبیین وخطیبهم وصاحب شفاعتهم غیر فخر. (ترمذی ج ۲ ص: ۲۰۱)

ترجمہ: "حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میں انبیاء کرام کا امام اور صاحب شفاعت ہونگا اور میں یہ بات فخر سے نہیں کہہ رہا۔"

حدیث نمبر ۱۷:

عن ابی بکر بن ابی موسیٰ الاشعری عن ابیه قال خرج ابوطالب الی الشام وخرج معه النبی صلی الله علیه وسلم ... حتی جاء فاخذ بید رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال هذا سیدالعالمین هذا رسول رب العالمین. (ترمذی ج ۲ ص: ۲۰۲)

ترجمہ: "حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سردار ابوطالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر شام روانہ ہوئے تو بحیرا راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاقات سے پہچان کر کہا کہ یہ سید العالمین ہے اور یہ رسول رب العالمین ہے۔"

حدیث نمبر ۱۸:

ترجمہ: سفر معراج کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام نے بیت المقدس میں خطبات دیئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ دیگر انبیاء کرام کے خطبات سے فائق تھا جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں فرمایا تھا انہی فضائل اور کمالات کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے فضیلت میں بڑھ گئے۔ (خصائص کبریٰ، ۱۷۳/۱)

حدیث نمبر ۱۹:

عن عبدالله بن مسعود رضی الله عنه قال اذا صلیتهم

علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحسنوا الصلوۃ علیہ فانکم لاتدرون لعل ذلک یعرض علیہ قال: فقالوا لہ فعلمنا قال قولوا. اللھم اجعل صلوتک ورحمتک وبرکاتک علی سید المرسلین وامام المتقین وخاتم النبیین محمد عبدک ورسولک امام الخیر وقائد الخیرورسول الرحمۃ اللھم ابعثہ مقاما محمودا یغبط بہ الاولون والآخرون. الحدیث. (ابن ماجہ ص: ۶۵، مصنف عبد الرزاق ج ۲ ص: ۲۱۳. فضل الصلوۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم للامام اسماعیل القاضی، ص: ۲۶)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو تعلیم دیا کرتے تھے کہ تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو تو اسکو خوبصورت بنا کر پڑھا کرو پھر وہ ان کو مذکورہ بالا الفاظ میں درود شریف سکھایا کرتے تھے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے القاب مذکور ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت ہی افضلیت ثابت ہوتی ہے حتی کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو سید المرسلین بھی کہا ہے۔

حدیث نمبر ۲۰:

ترجمہ: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک طویل حدیث میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انا سید الناس

یوم القیامۃ". (مصنف ابن ابی شیبہ ج ۷ ص: ۳۱۵)

"یعنی میں قیامت کے دن لوگوں کا سردار ہونگا۔" (بخاری ج ۲ ص: ۶۸۴، ج ۱ ص: ۴۷۰)

حدیث نمبر ۲۱:

ترجمہ: "حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: "سید ولد آدم یوم القیامۃ" یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اولاد آدم کے سردار ہونگے۔

حدیث نمبر ۲۲:

قال عبد اللہ ان اللہ اتخذ ابراھیم خلیلاً وان صاحبکم خلیل اللہ وان محمداً اکرم الخلق علی اللہ (الحدیث)

ترجمہ: "حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں بے شک اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا اور تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالی کا خلیل ہے اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی ساری مخلوق سے اللہ تعالی کے نزدیک زیادہ مکرم ہیں۔

حدیث نمبر ۲۳:

ترجمہ: "حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو "یا سیدی" کہہ کر خطاب فرمایا اسی طرح

> دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بھی "سیدی" اور "سیدنا" کہنا کتاب مذکورہ میں ثابت ہے۔"

قارئین کرام! یہ ہیں چند احادیث جن سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات انبیائے کرام علیہم السلام سمیت تمام مخلوقات سے افضل و برتر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم اور امام الانبیاء والمرسلین ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اکرم الخلائق یعنی تمام مخلوق سے زیادہ عزت وشان والے ہیں لیکن کیپٹن صاحب کو ماننے والے منور سلطان ان سب احادیث کو رد کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام سے افضل ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں حالانکہ پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) افضل الانبیاء اور سید المرسلین ہیں چنانچہ مشکوۃ شریف میں ایک باب ہے جس کا نام ہے فضائل سید المرسلین اور مسلم شریف میں ایک باب قائم کیا گیا ہے جس کا نام ہے "باب تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم على جميع الخلائق" اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے استاد امام ابوبکر ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب "المصنف" میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا جو باب قائم کیا ہے اس سے پہلے یہ درود لکھا ہے صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔

مسلک پرستی کے نام پر دین اسلام کی عمارت گرانے کی کوشش:

آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ قرآن اور حدیث اور اقوال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے یہ مسئلہ متفقہ طور پر ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افضل الخلائق اور سید المرسلین ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تحدیث نعمت کے اپنے آپ کو سید ولد آدم فرمایا ہے۔ صحابہ کرام اور خیر القرون کے لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدی، سیدنا اور سید الانبیاء والمرسلین کہا ہے اور سید کے معنی سردار، سرمد اور آقا کے ہیں لیکن منور سلطان کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سردار دو جہاں، سرور عالم وغیرہ کہنے کو مسلک پرستی کہنا حالانکہ یہ خالصتاً قرآن وحدیث اور دین اسلام کی تعلیم ہے جس کو خواہش پرست اور نفس کے پجاری، مسلک پرستی سے تعبیر کرتے ہیں۔ چنانچہ منور سلطان لکھتا ہے کہ:

> "یہ لوگ اللہ کو مالک کائنات تو لکھتے ہیں لیکن ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی سرور کائنات، سرور عالم، سرور دو عالم، سرور دو جہاں، سرور کونین، سرور کون ومکان، شاہ دو عالم، شاہ عرب وعجم، شہنشاہ کون ومکاں، سرکار دو عالم، سرکار دو جہاں، آقائے دو جہاں، سید دو جہاں، سید کونین، سید الکائنات، سید دو عالم، دو عالم کے آقا، دو عالم کے مولیٰ، مولائے کل وغیرہ جیسے القاب استعمال کرتے ہیں۔" (اسلام یا مسلک پرستی ص ۱۱۰)

دیکھئے کیپٹن صاحب کا چیلہ کیسی گستاخی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے القاب کا انکار کر رہا ہے، حالانکہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے یہ القابات گزشتہ احادیث سے ثابت ہیں۔ باقی رہا کیپٹن صاحب کے چیلے کا یہ دھوکہ دینا کہ اللہ تعالیٰ بھی مالک اور سید وغیرہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مالک یا سید وغیرہ گویا شرک لازم آتا ہے، تو یقین جانئے یہ بھی منور سلطان کا دھوکہ اور فریب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معنی میں سید الکائنات نہیں کہا جاتا، جس معنی میں اللہ تعالیٰ کو کہا جاتا ہے، جو صرف لفظی مشارکت کی وجہ سے شرک کا فتویٰ جڑنے کو جائز کہہ دینا تو جہالت وحماقت ہے۔ دیکھئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت انسان کو سمیع،

بصیر کہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وجعلناہ سمیعا بصیرا﴾

ترجمہ: اور ہم نے انسان کو سمیع بصیر بنایا۔''

جبکہ سمیع وبصیر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے تو کیا صرف اس لفظی مشارکت کی وجہ سے قرآن مجید پر شرک کا فتویٰ لگایا جائے گا کہ اس نے انسان کو سمیع وبصیر بنادیا اور اللہ بھی سمیع وبصیر ہے نہیں نہیں ہرگز نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ جس معنی میں سمیع وبصیر ہے انسان اس معنی میں سمیع وبصیر نہیں ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ اور معنی میں سید ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور معنی میں سید ہیں لیکن افسوس کی بات ہے کہ مسعودی لوگ مسلک پرستی کے نام پر دین اسلام کو گرانے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں اور اسلام کے نام پر کفر کی ترویج [illegible]ے ہیں۔

افضلیت کی ممانعت کی حدیثوں کا جواب:

ایک طرف ایسی احادیث صحیح موجود ہیں، جن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام مخلوق پر افضلیت ثابت ہوتی ہے جیسا کہ گزشتہ اوراق میں آپ نے پڑھ لیا اور دوسری طرف وہ روایات بھی موجود ہیں جن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت دینے کی نفی معلوم ہوتی ہے تو ایسے مواقع پر علماء اسلام دونوں قسم کی احادیث کو سامنے رکھ کر ان کے مابین تطبیق دینے کی کوشش کرتے ہیں تا کہ کسی حدیث کو رد کر دینے کے بجائے دونوں میں مطابقت کی صورت پیدا کر کے دونوں پر عمل کیا جائے اور دونوں پر عقیدہ رکھا جائے لیکن مسعودیوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی خواہش نفس سے ایک قسم کی حدیثوں کو لے کر دوسری جانب کی حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں حالانکہ یہ طریق کار خود غلط ہے اور بے اصولی ہے چنانچہ علماء اسلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت والی حدیثوں کو سامنے رکھ کر افضلیت سے ممانعت والی احادیث کے جواب دیئے ہیں تا کہ تعارض کی صورت رفع ہو جائے اور مطابقت کی صورت پیدا ہو جائے چنانچہ مسلم شریف کے شارح امام شرف الدین نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

> وھذا الحدیث دلیل تفضیلہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الخلق لان مذھب اھل السنۃ ان الآدمیین لھذا الحدیث وغیرھم واو الحدیث الآخر لاتفضلوا بین الانبیاء۔ فجواب من خمسۃ اوجہ احدھا: انہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قبل ان یعلم انہ سید ولد آدم فلماعلم اخبربہ۔ والثانی، قالہ اَدَباً وتواضعاً ۔ والثالث ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انماھو عن التفضیل یؤدی الی تنقیص المفضول ۔ والرابع انما نھی عن تفضیل یؤدی الیٰ الخصومۃ والفتنۃ کماھو المشھور فی سبب الحدیث۔ والخامس، ان النھی مختص بالتفضیل فی نفس النبوۃ فلاتفاضل فیھا وانما التفاضل بالخصائص وفضائل الاخریٰ ولابد من اعتقاد تفضیل فقد قال اللہ تعالیٰ: تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَھُمْ عَلٰی بَعْضٍ۔ (شرح نووی علی المسلم ج ۲ ص: ۲۲۵)

ترجمہ: ''اور یہ حدیث (اَنَا سَیِّدُ وَلَدِ آدَمَ) اس بات کی دلیل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوق پر فضیلت وفوقیت حاصل ہے اس لئے کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ آدمی ملائکہ سے

افضل ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام آدمیوں سے افضل ہیں جیسا کہ اس حدیث اور اس کے علاوہ دوسری احادیث سے ثابت ہے باقی رہیں۔ دوسری قسم کی احادیث جن میں فضیلت دینے سے منع کیا گیا ہے تو اسکے پانچ طریقوں سے جواب دیئے گئے ہیں پہلا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت دینے سے اس وقت منع فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے متعلق فضیلت کا علم نہیں دیا گیا تھا تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدولد آدم ہیں تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اس فضیلت کی اطلاع اپنی امت کو کردی یعنی فضیلت کی ممانعت "سید ولد آدم" کے علم سے پہلے کی ہے"

دوسرا جواب:

یہ ہے کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے تواضعاً و ادباً ممانعت فرمائی درحقیقت آپ سید ولد آدم ہیں۔

تیسرا جواب:

یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کی فضیلت دینے سے منع نہیں فرمایا بلکہ ایسی فضیلت دینے سے منع فرمایا ہے جس سے دوسرے انبیاء کرام کی تنقیص لازم آئے ظاہر ہے کہ تمام انبیاء کرام کا احترام لازمی ہے اور کسی کی تنقیص جائز نہیں۔

چوتھا جواب:

یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی فضیلت سے منع فرمایا جو جھگڑے

اور فتنے کا ذریعہ بن جائے جیسا کہ حدیث ممانعت کے سبب میں واقعہ مشہور ہے یعنی ہر قسم کی فضیلت منع نہیں البتہ جو فضیلت جھگڑے کا باعث بنے وہ منع ہے۔

پانچواں جواب:

یہ ہے کہ حدیث میں فضیلت دینے سے منع کیا گیا ہے وہ نفس نبوت میں فضیلت دینے کے ساتھ مختص ہے کیونکہ نفس نبوت میں تفاضل نہیں ہے کیونکہ تفاضل دوسرے خصائص وفضائل کی وجہ سے ہوتا ہے اور بہر حال حضرات انبیاء کرام خصوصا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا اعتقاد ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں:

﴿ تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰی بَعْضٍ ﴾

اور اس بحث کے اختتام پر حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر معارف القرآن سے ایک اقتباس بھی پڑھ لیجئے جو یقیناً اطمینان مزید کا باعث بنے گا، حضرت مفتی صاحب لکھتے ہیں:

﴿ تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰی بَعْضٍ ﴾

یہاں یہ اشکال پیش آسکتا ہے کہ یہ آیت صراحۃً اس بات پر دلالت کررہی ہے کہ بعض انبیاء بعض سے افضل ہیں حالانکہ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "لاتفضلوا بين انبياء الله" یعنی انبیا کے درمیان تفضیل نہ کیا کرو۔ نیز فرمایا: لاتخيروني على موسیٰ. یعنی مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو۔ اور فرمایا: "لااقول ان احدا افضل من يونس بن متى " یعنی میں نہیں کہہ سکتا کہ کوئی یونس بن متی سے افضل ہے۔ ان احادیث میں بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دینے کی ممانعت وارد ہوئی ہے؟ جواب یہ ہے کہ احادیث کا مطلب یہ ہے کہ دلیل

کے بغیر اپنی رائے سے بعض کو بعض پر فضیلت نہ دو اس لئے کہ کسی نبی کے افضل ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کے یہاں ان کا مرتبہ بہت زیادہ ہے اور ظاہر ہے کہ اس کا علم رائے اور قیاس سے حاصل نہیں ہو سکتا لیکن قرآن وسنت کی کسی دلیل سے اگر بعض انبیاء کی بعض پر فضیلت معلوم ہوگئی تو اس کے مطابق اعتقاد رکھا جائے گا رہا آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا یہ ارشاد کہ:

﴿لااقول ان احدا افضل من یونس بن متی
اور لاتخیرونی علی موسیٰ﴾.

تو یہ اس وقت سے متعلق ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم نہیں دیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں اور بعد میں بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتلادی گئی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار بھی فرمادیا۔ (تفسیر مظہری، معارف القرآن ج ا ص: ۵۵۴)

یہاں سے آپ اندازہ لگالیں کہ علماء اسلام اور مسعودیوں کی سوچ میں کتنا فرق ہے علماء اسلام کے تمام متعلقات پر گہری نظر رکھتے ہیں اور یوں وہ بات کی تہہ تک پہنچ جاتے ہیں لیکن مسعودی لوگ ہمیشہ مسئلہ کے ایک پہلو کو لے کر باقی تمام پہلوؤں کو نظر انداز کر دیتے ہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ہمیشہ بات کی تہہ تک پہنچنے میں ناکام رہ جاتے ہیں بلکہ گمراہ ہو جاتے ہیں تمام مسائل میں ان کا یہی حال ہے ایک آیت کا ایک حدیث یا ایک قول لے کر بقیہ آیات، احادیث اور اقوال کو جھٹلا دیتے ہیں، رد کر دیتے ہیں بلکہ انکار کر دیتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ سوجھ بوجھ کے لحاظ سے ایک چشم بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں خود ایسے زیر بحث مسئلہ کو دیکھ لیجئے کہ بے شمار احادیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سید، سیدنا اور سید المرسلین کہا گیا ہے لیکن ان یک چشموں

نے ممانعت والی احادیث کو دیکھ کر ان سب کا انکار کر دیا جبکہ علماء اسلام نے اس قسم کی تمام احادیث کو جمع فرما کر ہر ایک کو اپنے موقع محل اور وقت پر محصول فرما کر سب کو تسلیم کیا اور تطبیق پیدا کر دی۔

ضروری انتباہ:

کیپٹن اور اس کے ماننے والوں کو قطعاً یہ حق نہیں کہ وہ اسماء رجال کے علماء کے اقوال کو لے کر کسی حدیث کو ضعیف یا موضوع کہیں کیونکہ کیپٹن صاحب اسماء جال کے علماء کو عقیدہ حیات وسماع کی وجہ سے کافر ومشرک کہہ چکے ہیں لہذا ایسے لوگوں کے اقوال اور نقل پر کیا اعتقاد ہو سکتا ہے جو عقیدہ کے لحاظ سے خود کافر ومشرک ہوں لہذا مسعودی فرقہ کے لوگ کسی حدیث کو ضعیف اور موضوع نہیں کہہ سکتے کیونکہ راویوں پر جرح کرنے والے ان کے نزدیک خود مجروح اور بدعقیدہ ہیں لیکن عوام الناس کو دھوکہ دینے اور تلبیس میں ڈالنے کیلئے راویوں پر جرح نقل کر دیتے ہیں اس لئے میں نے یہ تکرار یہ بات لکھی ہے تاکہ ان کی جرح ہرگز قبول نہ کی جائے بلکہ جرح ان کے منہ پر ماری جائے ہاں اگر یہ لوگ کسی حدیث کو ضعیف یا موضوع کہنا چاہتے ہیں تو اس کا ثبوت قرآن وحدیث سے پیش کریں کہ اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے ورنہ اقوال اور وہ بھی ایسے لوگوں کے جن پر خود کفر وشرک کا فتویٰ لگایا ہے قطعاً درست نہیں ہے لہذا ہوشیار رہیں۔

مسئلہ: ۷

اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو سیدنا ومولانا کہنا جائز ہے یا نہیں

تمہید: مسعودی فرقے کے لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور شخص کے لئے سیدنا و

مولانا کے الفاظ کا استعمال جائز نہیں سمجھتے بلکہ وہ ان الفاظ کو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ کیلئے مخصوص سمجھتے ہیں حالانکہ ان لوگوں کی کم عقلی اور کوتاہ فہمی ہے کیونکہ یہ الفاظ جن معانی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے لئے استعمال ہوتے ہیں وہ اور ہیں اور جب یہ الفاظ اللہ کے سوا اور دوسرے لوگوں کے لئے استعمال ہوتے ہیں تو اور معانی کے لحاظ سے ہوتے ہیں صرف یہ دیکھنا کہ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے لئے استعمال ہوتے ہیں لہذا دوسروں کے لئے ان الفاظ کا استعمال جائز ہی نہیں خواہ معانی مختلف ہی کیوں نہ ہوں یہ غلط سوچ ہے۔

دیکھیے، قرآن مجید میں جا بجا اللہ تعالیٰ کو رؤف ورحیم کہا گیا ہے لیکن قرآن مجید میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُفٌ الرَّحِيْمٌ کہا گیا ہے دیکھیے سورہ البینہ۔ جس معنی میں اللہ تعالیٰ رَءُوْفٌ رَحِيْمٌ ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس معنی میں رؤف رحیم نہیں ہیں لیکن لفظ کا استعمال تو دونوں پر ہوا ہے البتہ معنی میں تفاوت ہے۔

اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کو مالک کہا گیا ہے اور خود قرآن مجید میں جہنم کے دربان فرشتے کو بھی مالک کہا گیا ہے لیکن معنی کا فرق ہے ہاں علماء اسلام نے کتاب وسنت کی روشنی میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض صفاتی نام ہیں جن کا اطلاق سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی دوسرے پر جائز نہیں ہے مثلاً رحمان، خالق، رزاق، الحی القیوم وغیرہ اور بعض صفاتی نام ایسے بھی ہیں جن کا اطلاق اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں پر بھی ہوتا ہے مثلاً: سمیع، بصیر، رؤف، رحیم، مالک وغیرہ اور سید ومولا بھی انہیں ناموں میں سے ہیں، جن کا اطلاق اوروں پر بھی ہوتا ہے البتہ استعمال کے وقت معانی کا فرق مدنظر ہونا چاہیے تو چونکہ سید اور مولا کا اطلاق دوسروں پر جائز ہے لہذا

چند دلائل ملاحظہ فرمایئے جن سے جواز ثابت ہوتا ہے پہلے سید کے لفظ کو لیجئے بعد میں مولا کے لفظ کے دلائل بیان کئے جائیں گے۔ ایک بار گزشتہ احادیث پر نظر ڈالتے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سید کہا گیا ہے اب یہاں یہ ثابت کیا جائے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اوروں پر سید کے لفظ کا استعمال جائز اور قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔

دلیل نمبر۱:

اللہ تعالیٰ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے:

﴿وَسَيِّدًا وَّحَصُوْرًا وَّنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ﴾

”یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام سید یعنی سردار اور پاکدامن اور نبی صالحین میں سے ہونگے۔“

تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو سید یعنی سردار کہا ہے

دلیل نمبر۲:

اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ:

﴿وَاَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ﴾

”یعنی جب یوسف علیہ السلام اور عزیز مصر کی عورت دروازے کی طرف دوڑے تو انہوں نے عورت کے سید یعنی شوہر کو دروازے پر پایا۔ یہاں عزیز مصر کو سید کہا گیا ہے

دلیل نمبر۳:

اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے:

﴿قَالُوْا رَبَّنَا اِنَّا اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَ كُبَرَاَنَا ۝

”یعنی کفار کہیں گے ہم نے اپنے سرداروں اور وڈیروں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔“

تو یہاں سادات کا لفظ استعمال ہوا ہے جو سید کی جمع ہے یعنی کفار نے اپنے بڑوں کو اپنا سید یعنی سردار کہا ہے اور قرآن مجید میں ان کے مقولہ کو بلا نکیر نقل کیا ہے نکیر نہ کرنا استعمال کے جواز کی دلیل ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی لفظ کو غیر اللہ پر استعمال فرمایا ہے جیسا کہ سابقہ دو آیتوں میں مذکور ہے۔

دلیل نمبر۴:

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے متعلق ارشاد فرمایا: ” اِبْنِیْ ھٰذَا سَیِّدٌ “ یعنی میرا یہ بیٹا سید ہے۔ (بخاری ج ۱ص ۵۳۰)

دلیل نمبر۵:

بخاری شریف میں ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

﴿اَبُوْبَكْرٍ سَيِّدُنَا اَعْتَقَ سَيِّدَنَا يَعْنِيْ بِلَالًا﴾

یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمارے سید ہیں اور ہمارے سید حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کیا۔ (بخاری ج ۱ص ۵۳۱)

اس حدیث میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو سید کہا گیا ہے۔

دلیل نمبر۶:

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے استقبال کے لئے انصار مدینہ کو فرمایا: قُوْمُوْا اِلٰی سَيِّدِكُمْ ۔ یعنی اپنے سردار کے لئے

کھڑے ہو جاؤ۔

اسی طرح ایک دوسری حدیث میں بھی آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو سید کہا۔ (بخاری ج ۱ص ۵۳۷)

دلیل نمبر۷:

امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اپنی صحیح بخاری اور الادب المفرد میں ایک باب یوں قائم کیا ہے: ”باب العبد اذا احسن عبادۃَ ربہ عزوجل ونصح عبد سیدہ“ یعنی یہ باب ہے کہ غلام جب اپنے رب کی اچھے طریقے سے عبادت کرے اور اپنے سردار کی خیر خواہی کرے پھر امام بخاری اس باب کے تحت یہ حدیث لائے ہیں۔

﴿العبد اذا نصح سیدہ واحسن عبادۃ ربہ عزوجل کان لہ اجرہ مرتین﴾. (بخاری ج ۱ ص: ۳۴۶ الادب المفرد ص: ۳۲)

ترجمہ: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غلام جب اپنے سردار کی خیر خواہی کرے اور اپنے رب کی اچھے طریقے سے عبادت کرے تو اس کو دوہرا اجر ملے گا۔

دلیل نمبر۸:

﴿عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لا یقل احدکم اطعم ربک وضیء ربک اسق ربک ولیقل سیدی ومولائی﴾. (بخاری، ۱/ ۳۴۶)

ترجمہ: ”حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے غلام کو یوں نہ کہے کہ اپنے رب یعنی مالک کو

کھانا کھلا، اپنے رب یعنی مالک کو وضو کرا، اپنے رب یعنی مالک کو پانی پلا، بلکہ یوں کہے میرے سردار، میرے مولا۔"

دلیل نمبر ۹:

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

﴿وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلٰی مَالِ سَیِّدِہٖ﴾

"یعنی غلام اپنے سردار کے مال پر ذمہ دار ہے۔"

دلیل نمبر ۱۰:

﴿قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعم مالاحدھم یحسن عبادۃ ربہ وینصح لسیدہ﴾ (بخاری ج ا ص: ۳۴۶)

ترجمہ: "حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے غلام کی یہ کیا اچھی بات ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرے اور اپنے سردار کی خیر خواہی کرے۔"

دلیل نمبر ۱۱:

بخاری شریف میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنوسلمہ سے دریافت فرمایا: مَنْ سَیِّدُکُمْ. کہ تمہارا سردار کون ہے؟ پوری حدیث امام بخاری کی "الادب المفرد" میں ہے۔

دلیل نمبر ۱۲:

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کے لئے سید کے

استعمال کو جائز کہتے ہیں مذکورہ بالا دلائل سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا اور قرآن مجید کی اس آیت سے بھی استدلال کیا یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے رہا ہونے والے قیدی کو فرمایا تھا "وَاذْکُرْنِیْ عِنْدَ رَبِّکَ" کہ اپنے رب کے ہاں میرا ذکر کرنا یعنی سفارش کرنا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ربک کا معنی سید کیا ہے یعنی اپنے سردار کے پاس میرا ذکر کرنا تو معلوم ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سمیت پوری امت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور لوگوں کو سید کہنا جائز ہے اور قرآن وحدیث کی تصریحات سے ثابت ہے البتہ یہ فرق ملحوظ خاطر رہے کہ جس معنی میں اللہ تعالیٰ سید ہیں اس معنی میں کسی اور کو سید نہیں کہا جاتا صرف لفظی مشارکت ہے ورنہ حقیقی سیادت اور کامل واکمل سیادت تو صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے لیکن مجازی طور پر اور لوگوں کو سید کہنا بھی چونکہ قرآن وحدیث سے ثابت ہے لہذا جائز ہے۔

دلیل نمبر ۱۳:

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو "سَیِّدَۃُ نِسَاءِ اَھْلِ الْجَنَّۃِ" فرمایا۔ (بخاری ج ا ص: ۵۱۶۳)

دلیل نمبر ۱۴:

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ﴿سَیِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُھُمْ﴾۔ (جامع صغیر ج ۲، ۳۴ بحوالہ ابونعیم فی اربعین الصوفیہ. حاکم فی تاریخہ، بیھقی)

دلیل نمبر ۱۵:

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سید الشھدا حمزہ بن

عبدالمطلب۔ (جامع صغیر ج ۲ ص: ۳۴ بحوالہ حاکم ایضاً طبرانی)

دلیل نمبر ۱۶:

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: **سید کھول اھل الجنۃ ابوبکر و عمر۔** (جامع صغیر ج ۲ ص: ۳۴ بحوالہ خطیب بغدادی فی تاریخہ)

دلیل نمبر ۱۷:

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: **اِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَیْنَ سَیِّدَا شَبَابِ اَھْلِ الْجَنَّۃ۔** (ترمذی ج ۲، ص: ۲۱۸)

مذکورہ احادیث میں قوم کے خادم کو حضرت حمزہ، حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہم کو "سید" کہا گیا ہے لیکن مسعودی صاحب ان سب حدیثوں کا انکار کر کے منکر حدیث بن رہے ہیں۔

حدیث ممانعت کا جواب:

ابوداؤد شریف کی ایک حدیث سے غیر اللہ کو "سید" کہنے کی ممانعت معلوم ہوتی ہے جس کی وجہ سے مسعودیوں نے غیر اللہ کو سید کہنے سے منع کر دیا حالانکہ احادیث کثیرہ میں غیر اللہ کو سید کہنا ثابت ہے چنانچہ علماء اسلام نے فرمایا کہ حقیقی سیادت کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے اور وہی کامل، مکمل بلکہ اکمل طور پر سید ہے البتہ غیر اللہ پر سید کا اطلاق جائز و ثابت ہے اسی لئے علماء اسلام نے ممانعت والی حدیث کے جوابات دیئے ہیں چنانچہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں:

> ''ابوداؤد شریف میں ایک صحابی ابو مطرف رضی اللہ عنہ سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ میں ایک وفد کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

> کی خدمت میں حاضر ہوا ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اَنْتَ سَیِّدُنَا آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہمارے سردار ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اَلسَّیِّدُ اللّٰہُ۔ یعنی حقیقی سید تو اللہ ہی ہے اور یہ ارشاد عالی بالکل صحیح ہے یقیناً حقیقی سیادت اور کمال سیادت اللہ ہی کیلئے ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر سیدنا کا بڑھانا ناجائز ہے بالخصوص جب کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد جیسا کہ مشکوٰۃ شریف میں بروایت شیخین (بخاری و مسلم) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ میں لوگوں کا سردار ہونگا قیامت کے دن اور دوسری حدیث میں مسلم کی روایت سے نقل کیا ہے کہ میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہونگا نیز بروایت ترمذی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور کوئی فخر کی بات نہیں۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاک ارشاد کا مطلب جو ابوداؤد شریف کی روایت میں گزرا وہ کمال سیادت مراد ہے جیسا کہ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ مسکین وہ شخص ہے جس کو ایک ایک دو دو لقمے در بدر پھراتے ہوں بلکہ مسکین وہ ہے جس کے پاس نہ وسعت ہو، نہ لوگوں سے سوال کرے، اسی طرح مسلم شریف میں حضرت عبد

اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ تم پچھاڑنے والا کس کو سمجھتے ہو (یعنی وہ پہلوان جو دوسرے کو زیر کر دے) صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس کو سمجھتے ہیں جس کو کوئی دوسرا پچھاڑ نہ سکے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہلوان نہیں بلکہ پچھاڑنے والا (یعنی پہلوان) وہ ہے جو غصہ کے وقت میں اپنے نفس پر قابو پائے اسی حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سوال بھی نقل کیا گیا ہے کہ تم رقوب (یعنی لا اولاد) کس کو کہتے ہو صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا جس کی اولاد نہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لا اولاد نہیں بلکہ لا اولاد وہ ہے جس نے کسی چھوٹی اولاد کو ذخیرہ آخرت نہ بنایا ہو (یعنی اس کے کسی معصوم بچہ کی موت نہ ہوئی ہو) اب ظاہر ہے کہ جو مسکین بھیک مانگتا ہو اس کو مسکین کہنا کون ناجائز کہہ دے گا اسی طرح جو پہلوان لوگوں کو پچھاڑ دیتا ہو لیکن اپنے غصہ پر اس کو قابو نہ ہو تو وہ بہر حال پہلوان ہی کہلائے گا، اسی طرح سے ابوداؤد شریف میں ایک صحابی کا واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر مہر نبوت دیکھ کر یہ درخواست کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر (جو ابھرا ہوا گوشت ہے) مجھے دکھلایئے کہ میں اس کا علاج کر دوں کیونکہ میں طبیب ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طبیب تو اللہ تعالیٰ شانہ ہی ہیں، جس نے اس کو پیدا کیا الی آخر القصہ۔ اب ظاہر ہے کہ اس حدیث پاک سے معالجوں کو طبیب کہنا کون حرام کہہ دے گا بلکہ صاحب مجمع البحار نے تو یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے طبیب نہیں ہے اور اسی طرح احادیث میں بہت کثرت سے یہ مضمون ملے گا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع میں کمال کے اعتبار سے نفی فرمائی ہے حقیقت کی نفی نہیں۔ (فضائل درود ص ۱۲۳۔۱۲۴)

حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ مزید لکھتے ہیں:

> ''لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار احتمال رکھتا ہے کہ تواضع ہو یا منہ پر تعریف کرنے کو پسند نہ کیا ہو یا اس وجہ سے کہ یہ زمانہ جاہلیت کا دستور تھا یا اس وجہ سے کہ انہوں نے مبالغہ بہت کیا چنانچہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہمارے باپ ہیں، آپ ہم سے فضیلت میں بہت زیادہ بڑھے ہوئے ہیں، آپ ہم پر بخشش کرنے میں سب سے بڑھے ہوئے ہیں اور آپ جفنۃ الغرا ہیں یہ بھی زمانہ جاہلیت کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ وہ اپنے اس سرداروں کو جو بڑا کھلانے والا ہو اور بڑے بڑے پیالوں میں لوگوں کو دنبوں کی چکتی اور گھی سے لبریز پیالوں میں کھلاتا ہو اور آپ ایسے ہیں اور آپ ایسے ہیں تو ان سب باتوں کے مجموعہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمایا تھا اور فرمایا تھا کہ شیطان تم کو مبالغہ میں نہ ڈالدے۔ (فضائل درود ص: ۱۲۵)

تو معلوم ہوا کہ حقیقی ''سید'' اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے اور کمال سیادات اسی کو زیبا ہے اور جس جامعیت اور کمال کے ساتھ سید کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لئے استعمال ہوتا ہے اس معنی میں کسی دوسرے کے لئے جائز نہیں ہے لیکن یہ بھی مسلمہ حقیقت ہے کہ قرآن وحدیث میں سید کا لفظ اور لوگوں کے لئے بھی استعمال ہوا ہے لہذا ورجہ بدرجہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو سید کہا ہے بے شک وہ سید ہی ہیں البتہ حقیقی اور کامل طور پر سید اللہ تعالیٰ ہے۔ علماء اسلام اس طریقہ

تطبیق سے دونوں قسم کی حدیثوں پر ایمان رکھتے ہیں لیکن مسعودی فرقہ کے لوگ ایک حدیث کو لے کر دوسری قسم کی احادیث کو ٹھکرا دینے کے عادی مجرم ہیں، یاد رکھنا اس فرقہ کے لوگ کسی حدیث پر جرح کرنے کے حقدار نہیں ہیں۔

لفظ مولیٰ کے معنی اور اطلاق

تمہید:...... فرقہ مسعودیہ کے فریب خوردہ لوگ لفظ سید کی طرح لفظ مولیٰ کو بھی غیر اللہ کیلئے کہنا ناجائز کہتے ہیں درحقیقت یہ بھی ان لوگوں کی کوتاہ فہمی ہے بے شک حقیقی مولا اللہ تعالیٰ ہے اور کمال ولایت اسی کو زیبا ہے اور جس معنی میں اللہ تعالیٰ کو مولیٰ اور ولی کہا جاتا ہے اس معنی میں غیر اللہ کو مولیٰ اور ولی کہنا جائز نہیں ہے لیکن دوسرے معنی کے لحاظ سے دوسروں کو بھی مولیٰ اور ولی کہنا جائز ہے کیونکہ قرآن وحدیث میں یہ دونوں لفظ اور لوگوں پر بھی استعمال کئے گئے ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو مولیٰ اور ولی کہنا جائز نہیں قرآن وحدیث کے خلاف ہے اور غلط خیال ہے۔

قرآن وحدیث اور لغت عرب میں مولیٰ کے کئی معنی وارد ہوئے ہیں مثلاً مولیٰ بمعنی رب، مالک، مددگار، کارساز، آقا، سردار، آزاد کرنے والا، غلام، آزاد کردہ غلام اور دوست وغیرہ استعمال ہوتا ہے۔

اب مولیٰ بھی بمعنی رب یا حقیقی مالک اور حقیقی کارساز تو صرف اللہ تعالیٰ کے لئے استعمال ہوتا ہے اور اس معنی کے لحاظ سے غیر اللہ پر اس کا اطلاق جائز نہیں ہے لیکن دوسرے معانی کے لحاظ سے غیر اللہ پر بھی اس لفظ کا استعمال ہوا ہے لہٰذا جائز ہے۔ بہرحال یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ جس معنی میں اللہ تعالیٰ مولیٰ ہے اس معنی میں کوئی بھی مولیٰ نہیں اور دوسرے معنی کے لحاظ سے سب کو مولیٰ کہا جا سکتا ہے نہ اس میں

قباحت ہے نہ ممانعت اور نہ ہی اس پر شرک کی تعریف صادق آتی ہے۔ بے شک قرآن وحدیث میں بکثرت اللہ تعالیٰ کو مولیٰ کہا گیا ہے لیکن اس سے یہ سمجھ لینا کہ یہ لفظ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی دوسرے معنی کے لحاظ سے کسی شخص کے لئے استعمال کرنا غلط ہے یہ خود غلط فہمی ہے بلکہ نادانی ہے۔

اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو مولا اور مولانا کہنا:

اب چند دلائل قرآن وحدیث کے ملاحظہ فرمائیے جن میں اور لوگوں کو بھی مولیٰ اور مولانا کہا گیا ہے:

دلیل نمبر ۱:

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُوْنَ﴾

ترجمہ: ''اور ہر ایسے مال کے لئے جس کو والدین اور رشتہ دار لوگ چھوڑ جائیں ہم نے وارث مقرر کر دیئے ہیں۔''

(ف)...... اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے میت کے وارثوں کو موالی فرمایا جو مولیٰ کی جمع ہے معلوم ہوا غیر اللہ کو مولیٰ اور موالی کہنا درست ہے۔

دلیل نمبر ۲:

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ اَحَدُهُمَآ اَبْكَمُ لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ وَّهُوَ كَلٌّ عَلٰى مَوْلٰهُ﴾ (النحل آیت: ۷۶)

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ ایک اور مثال بیان فرماتے ہیں کہ دو شخص ہیں جن میں ایک تو گونگا ہے کوئی کام نہیں کرسکتا اور وہ اپنے مولیٰ (مالک) پر ایک وبال جان ہے۔

(ف)...... اس آیت میں غلام کے مالک کو مولیٰ کہا گیا ہے جو جواز کی دلیل ہے۔

دلیل نمبر۳:

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا نقل فرمائی ہے:

﴿اِنِّیْ خِفْتُ الْمَوَالِیَ مِنْ وَّرَآئِیْ﴾ (مریم آیت ۵)

ترجمہ: "اور اپنے بعد رشتہ داروں سے اندیشہ رکھتا ہوں۔"

(ف)...... اس آیت میں رشتہ داروں کو موالی کہا گیا ہے جو مولیٰ کی جمع ہے۔

دلیل نمبر۴:

اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں:

﴿فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْٓا اٰبَآءَ هُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِی الدِّیْنِ وَمَوَالِیْكُمْ﴾ (احزاب آیت ۵)

ترجمہ: "اور اگر تم ان کے باپوں کو نہ جانتے ہو تو وہ تمہارے دین کے بھائی اور تمہارے دوست ہیں۔"

(ف)...... اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جن کو تم بلانا چاہتے ہو تو ان کو ان کے باپوں کی طرف منسوب کر کے بلاؤ اور اگر تم ان کے باپوں کو نہیں جانتے تو ان کو بھائی دوست اور مولیٰ کہہ کر بلاؤ یہاں بھی دوست کو مولیٰ کہنے کی تعلیم دی گئی ہے۔

دلیل نمبر۵:

اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے:

﴿مَاْوٰكُمُ النَّارُ هِیَ مَوْلٰكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِیْرُ﴾ (حدید آیت ۱۵)

ترجمہ: "تم سب (کافروں) کا ٹھکانہ دوزخ ہے وہی تمہارا رفیق ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔"

(ف)...... اس آیت میں کافروں کو کہا گیا ہے کہ دوزخ کی آگ تمہارا مولیٰ ہے یعنی رفیق ہے۔

دلیل نمبر۶:

اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں:

﴿فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلٰهُ وَجِبْرِیْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِیْرٌ﴾ (تحریم آیت ۴)

ترجمہ: "تو بے شک پیغمبر کا رفیق اللہ ہے اور جبریل علیہ السلام ہے اور نیک مسلمان ہیں اور ان کے علاوہ فرشتے مددگار ہیں۔"

(ف)...... اس آیت میں اللہ تعالیٰ کو اور جبرئیل علیہ السلام کو اور نیک مسلمانوں کو پیغمبر اسلام کا مولیٰ یعنی دوست فرمایا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جبرئیل علیہ السلام اور نیک مسلمانوں کو مولا اور مولانا کہنا درست ہے۔

دلیل نمبر۷:

بخاری شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی مروی ہے:

﴿عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مولیٰ القوم من انفسھم﴾

”یعنی قوم کا آزاد کردہ غلام انہیں میں سے شمار ہوگا یہاں قوم کے آزاد کردہ غلام کو قوم کا مولی کہا گیا ہے۔ (بخاری ج ۲ ص ۱۰۶۳)

دلیل نمبر ۸:

بخاری شریف میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مروی ہے:

﴿کان سالم مولیٰ ابی حذیفة یؤمُّ المھاجرین الاولین و اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم﴾

”یعنی سالم مولی ابی حزیفہ مہاجرین اولین اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو نماز کی امامت کرایا کرتے تھے۔“ (بخاری ج ۲ ص ۱۰۶۴)

اس حدیث میں حضرت سالم کو مولی ابی حزیفہ کہا گیا ہے۔

دلیل نمبر ۹:

بخاری شریف میں ایک باب یوں قائم کیا گیا ہے مناقب بلال بن رباح مولی ابی بکر۔ اس میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مولی کہا گیا ہے۔ (بخاری ج ۱ ص ۵۳۰)

دلیل نمبر ۱۰:

بخاری شریف کی حدیث پہلے گزر چکی ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ غلام کو چاہیے کہ اپنے آقا کو ”سیدی“ میرا سردار۔ ”مولای“ میرا مولا، میرا مالک کہے۔ (بخاری ج ۱ ص ۳۴۶)

دلیل نمبر ۱۱:

بخاری شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا: ”انت اخونا ومولانا“ تو ہمارا بھائی ہے اور ہمارا مولا ہے یعنی آزاد کردہ غلام۔ (بخاری ج ۱ ص ۵۲۸)

دلیل نمبر ۱۲:

ترمذی شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی موجود ہے:

﴿عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کنت مولاہ فعلی مولاہ. ھذا الحدیث حسن صحیح غریب﴾ (ترمذی ج ۲ ص: ۲۱۳)

”ترجمہ: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اس کا مولا ہے۔“

ترمذی شریف کی مذکورہ بالا حدیث صحیح ہے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مشہور کہا ہے اور اس پر درج ذیل حاشیہ لکھا ہے:

قال صاحب تحفة الاحوذی لحدیث الترمذی اخرجه احمد و النسائی و الضیاء و فی الباب عن بریدة اخرجه احمد و عن البرا بن عازب، اخرجه احمد و ابن ماجه و عن سعد بن ابی وقاص اخرجه ابن ماجه و عن علی اخرجه احمد الخ، و قال القاری بعد ذکر تخریجه و الحاصل ان ھذا حدیث صحیح لامریة فیه بل بعض الحفاظ عدّہ متواتر اذ فی روایة

لاحمد انه سمعه من النبی صلی الله علیه وسلم ثلاثون صحابیا وشهدوا به لعلی لما نوزع فی خلافته اهـ. (فضائل درود شریف، ص: ۱۲۸)

تو معلوم ہوا کہ یہ حدیث صحیح ہے بلکہ بعض محدثین نے اس کو حدیث متواتر بھی کہا ہے، لہذا کیپٹن صاحب کے چیلے منور سلطان کا یہ کہنا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، غلط ہے ویسے مسعودیوں کو حق ہی نہیں ہے کہ وہ اسماء رجال کے حوالے سے کسی حدیث کو ضعیف کہیں کیونکہ ان کا روحانی باپ مسعود الدین عثمانی نے علماء رجال کو کافر و مشرک کہہ دیا ہے تو کافروں و مشرکوں کی نقل پر کیا اعتماد ہو سکتا ہے۔ (دیکھئے، ایمان خالص دوسری قسط ص ۳۰)

دلیل نمبر ۱۳:

شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

"ملا علی قاریؒ نے بروایت احمد حضرت رباح سے نقل کیا ہے کہ ایک جماعت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس کوفہ میں آئی انہوں نے آ کر عرض کیا، السلام علیک یا مولانا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تمہارا مولا کیسے ہوں، تم عرب ہو انہوں نے عرض کیا ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ جب وہ جماعت جانے لگی تو میں ان کے پیچھے لگا اور میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں تو مجھے بتایا گیا یہ انصار کی جماعت ہے جس میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ (فضائل درود، ص: ۱۳۰)

حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں:

"حافظ ابن حجرؒ فتح الباری میں اس سلسلہ میں بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مولی کا اطلاق سید کے بنسبت اقرب الی عدم الکراہیۃ ہے اس لئے کہ سید کا لفظ تو اعلیٰ ہی پر بولا جاتا ہے لیکن لفظ مولیٰ تو اعلیٰ اور اسفل دونوں پر بولا جاتا ہے"۔ (فضائل درود، ص: ۱۳۰)

پس ثابت ہوا کہ حقیقی مولیٰ تو صرف اللہ ہے اور وہی کامل و اکمل مولا ہے اور اس معنی خاص میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک و سہیم نہیں ہے کیونکہ کمال سیادت کی طرح کمال ولایت بھی اسی کا حق ہے لیکن اس کے باوجود قرآن وحدیث میں لفظ سید کی طرح مولیٰ کا اطلاق اوروں پر بھی کیا گیا ہے لہذا فرقہ مسعودیہ کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو مولیٰ کہنا ناجائز ہے قرآن وحدیث کے خلاف ہے۔

ایک ضروری تنبیہ:

لغت عرب کے لحاظ سے لفظ مولا، ادنیٰ سے اعلیٰ کے لئے بولا جا سکتا ہے لیکن ہمارے عرف میں مولانا کا لفظ علماء دین پر اتنی کثرت سے استعمال ہوا ہے کہ ان کے ساتھ مختص ہو گیا ہے حتیٰ کہ جب کسی شخص کے لئے مولانا کا لفظ بولا جاتا ہے تو ذہن فوراً اس طرف چلا جاتا ہے کہ وہ عالم دین ہوگا تو یہ ہمارا عرف ہے کہ غیر عالم کیلئے مولانا استعمال نہیں ہوتا جیسا کہ علیہ السلام حضرات انبیاء کیلئے کہتے، رضی اللہ عنہ صحابہ کے لئے اور رحمۃ اللہ علیہ بزرگان دین کے لئے مختص ہے۔ اسی طرح عرفاً مولانا، علماء کے لئے مختص ہو چکا ہے۔ شرعاً اور لغۃً کسی عالم کے لئے مولانا کے لفظ کی ممانعت نہیں ہے۔ جبکہ مسعودیوں نے "رضی اللہ عنہ" کا کلمہ صرف کیپٹن مسعود الدین کے لئے

مخصوص کر رکھا ہے، حالانکہ ہر مسلمان کے لئے یہ دعائیہ کلمہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔

ہوئی پرستی کی انتہاء:

اتنے سارے دلائل کے باوجود ہوئی پرست مسعودی، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو مولا اور مولانا کہنے کو جائز نہیں سمجھتے حالانکہ قرآن و حدیث اور اجماع امت سے مولانا کہنے کا جواز ثابت ہوتا ہے لیکن خواہش پرستی کی انتہا دیکھئے، کہ یہ لوگ قرآن و حدیث کو جھٹلا رہے ہیں اجماع امت کو چھوڑ رہے ہیں لیکن خواہش پرستی پر اڑے اور ڈٹے ہوئے ہیں۔

﴿اعاذنا الله من اتباع الهوىٰ واهل الهوىٰ.﴾

مسئلہ ۸:

جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت یا حضور کہنا جائز ہے

تمہید: ...... حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں اور انسانیت کے محسن اعظم ہیں آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو شرک، کفر، جہالت اور غفلت سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کی تعلیم دی حلال و حرام کی تمیز عطا فرمائی، شرافت، دیانت، امانت اور شرم و حیا کا سبق پڑھایا۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے نام کے انسان کو صحیح معنی میں انسان اور مسلمان بنایا، دنیا کو امن و امان کا پیغام دیا، محبت و اخوت اور ہمدردی کی مثالیں پیش کیں۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تشریف آوری سے لوگوں کو اسلام، ایمان، قرآن اور کلمہ کی دولت نصیب ہوئی تو ایسے عظیم محسن کا ادب، احترام اور تعظیم و تکریم ہم مسلمانوں پر فرض اور لازم ہے لہذا احترام و تکریم کے جذبہ سے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے نام مبارک کے شروع میں ادب کے کلمات مثلاً حضرت، حضور، جناب، سید المرسلین، سیدنا و مولانا اور امام الانبیاء، خاتم الانبیاء وغیرہ لکھنا جائز ہے اور آج تک کسی مسلمان عالم دین نے اس استعمال پر نکتہ چینی نہیں فرمائی گویا اس پر اجماع امت ہے اور آداب کے ان کلمات کے لئے ثبوت ضروری نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ادب و احترام کی تعلیم دی ہے لہذا ہر زبان اور ہر زبان میں جو بھی ادب اور احترام کا کلمہ ہے وہ اکابر کے لئے استعمال کرنا جائز ہے بشرطیکہ اس میں غلو نہ ہو اور شرعی اصولوں کے خلاف نہ ہو دیکھئے قرآن مجید کے اندر کسی پیغمبر کے نام کے ساتھ "علیہ السلام" کا لفظ استعمال نہیں ہوا، اور حضرت زید ؓ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کا کلمہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اور حدیث پاک میں کسی بزرگ کے نام کے ساتھ "رحمۃ اللہ" کا لفظ استعمال نہیں ہے لیکن آج تک کسی مسلمان نے اس پر اعتراض نہیں کیا کہ قرآن و حدیث سے یہ الفاظ ثابت نہیں، لہذا ناجائز ہیں کیونکہ اگرچہ فرداً فرداً کسی کے نام کے ساتھ ان کا استعمال ثابت نہیں ہے لیکن مجموعی طور پر ثابت ہے جیسے سلام علی المرسلین لہذا اس سے فرداً فرداً بھی استعمال کا جواز معلوم ہوتا ہے اسی طرح "رضی اللہ عنہ" اور "رحمۃ اللہ" کا حال ہے اور یہی حال حضرت و حضور کا ہے باقی کوئی مسلمان ان الفاظ کو استعمال کرتے وقت آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے حاضر و ناظر کا عقیدہ تو کیا تصور بھی نہیں کرتا بلکہ محض ادب و احترام کے لئے یہ کلمات استعمال کئے جاتے ہیں چنانچہ لغت کی تمام کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ حضرت اور حضور ادب و احترام اور تعظیم و تکریم کے کلمات ہیں اور بزرگوں کے ناموں کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں چنانچہ لغت کی مشہور

کتاب المنجد میں لکھا ہے:

﴿الحضرة والحضور تطلق الحضرة عند اهل الرسل على كل كبير بحضرة عند الناس كقولهم. الحضرة العالية تأمر بكذا﴾. (المنجد، ص: ۱۲۹)

"یعنی حضرت کا لفظ ہر بڑے آدمی کے لئے استعمال ہوتا ہے جس کے پاس لوگ حاضر ہوتے ہوں جیسے وہ کہتے ہیں حضرت عالی (جناب عالی) فلاں کام کا حکم فرماتے ہیں۔

اور مصباح اللغات میں لکھا ہے "حضرت کا اطلاق ہر ایسے بڑے آدمی پر ہوتا ہے جس کے پاس لوگ حاضر ہوتے ہوں جیسے الحضرة العالیہ تأمر بکذا۔ جناب عالی فلاں کام کا حکم دیتے ہیں۔ (مصباح اللغات، ص: ۱۶۰)

غیاث اللغات میں لکھا ہے۔ حضرت، کلمہ تعظیم برائے اسامی بزرگاں شارح فاضل نوشتہ کہ حضرت بمعنی حضور است و در عرف کلمہ تعظیم شدہ کہ بر ہماں شخص اطلاق کنند از غایت شہرت بر سامعہ گرانی ندارد و شارحی نوشتہ کہ حضرت کلمہ است مشعر بر عظمت مسمّی کہ پیش از اسمائے ابرار آرند۔ (غیاث اللغات، ص: ۱۷۸)

ترجمہ: "حضرت" بزرگوں کے ناموں کے لئے تعظیم کا کلمہ ہے، شارح فاضل نے لکھا کہ حضرت بمعنی حضور ہے عرف میں تعظیم کا کلمہ ہے کہ ایسے لوگوں کے لئے استعمال ہوتا جو بے حد شہرت یافتہ ہیں۔ اسی وجہ سے کانوں پر گرانی نہیں ہوتی۔

مزید لکھتے ہیں کہ "حضرات جمع حضرت کہ بزرگان و مخدوماں

چرا کہ لفظ حضرت دریں زمان برائے تعظیم مستعمل میشود۔"

"ترجمہ: حضرات، حضرت کی جمع ہے بزرگوں اور مخدوموں سے کنایہ ہے کیونکہ حضرت کا لفظ اس زمانہ میں تعظیم کے لئے استعمال ہوتا ہے۔"

مزید لکھتے ہیں: حضور...... در عرف کلمہ تعظیم است کہ بر ذوات مخدوماں اطلاق کنند۔ یعنی حضور عرف میں تعظیم کا کلمہ ہے مخادیم کی ذوات مقدسہ پر اس کا اطلاق کرتے ہیں۔ غیاث اللغات۔

فیروز اللغات میں لکھا ہے حضرات، حضرت کی جمع، بزرگ، مخدوم، حضرت، درگاہ، جناب، حضور، قبلہ، تعظیم عزت کا لقب، فیروز الغات، ص۵۷۰ اور کریم الغات میں لکھا ہے۔ حضرات، جمع حضرت کی، مراد بزرگ لوگ۔ (کریم الغات ص: ۱۱۳)

القاموس الجدید میں لکھا ہے۔ حضرات معززین، حضرات السادۃ۔ معززین کرام، معزز حضرات۔ حضرتکم (تعظیمی لقب) آپ جناب۔ (القاموس الجدید، ص: ۱۸۴)

اور لغات کشوری میں لکھا ہے۔ حضرت، کلمہ تعظیم کا بزرگوں کیلئے ہے، حضرات جمع حضرت، کی مراد بزرگ لوگ۔ (لغات کشوری، ص: ۱۵۵)

قارئین کرام! مندرجہ بالا کتب لغت کے حوالہ جات سے معلوم ہوا کہ حضرت، حضور اور حضرات کے الفاظ اس دور کے عرف میں تعظیم و تکریم کے کلمات ہیں انبیاء، اولیاء، بزرگان دین، اکابر، اور بڑے لوگوں سے استعمال ہوتے ہیں۔ علماء اہل حق غیر اللہ کو قطعاً ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں سمجھتے ہیں اور نہ اس عقیدہ سے ان الفاظ کو استعمال کرتے ہیں ان الفاظ سے صرف اور صرف تعظیم ہی مقصود ہوتی ہے لہذا فرقہ

مسعودیہ کا ان الفاظ سے حاضر وناظر کا عقیدہ نکال کر ان کو ناجائز کہنا ان کی کوتاہ فہمی اور قلت تدبر کا نتیجہ ہے۔

مسئلہ ۹:

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقصد کائنات

تمہید:...... پوری امت مسلمہ کا اجماع واتفاق ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ اور مقصد کائنات ہیں لیکن فرقہ مسعودیہ اس اجماعی عقیدہ کا انکار کرتا ہے اور دلیل یہ پیش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن اور انسانوں کو اپنی عبادت ہی کے لئے پیدا فرمایا ہے لہذا جن وانس کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے تو معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقصد کائنات نہیں ہیں حالانکہ یہ نرا مغالطہ اور دھوکہ ہے بلکہ دینی لحاظ سے مسعودیوں کی یک چشمی کی بلکہ کور چشمی کی مثال ہے کیونکہ ایک چیز کے کئی اسباب وعلل ہوتے ہیں نیز اسباب الاسباب بھی ہوتے ہیں اور اسباب وعلل کی اقسام بھی ہوتی ہیں اور کچھ اسباب تکوینی ہوتے ہیں اور اسباب قریبی بھی ہوتے ہیں اور بعیدی بھی ہوتے ہیں لیکن فرقہ مسعودیہ نے ان سب باتوں سے کور چشمی اختیار کر رکھی ہے صرف اس ایک آیت کو دیکھ کر غلط نتیجہ اخذ کر لیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقصد کائنات نہیں ہیں حالانکہ اس آیت کے علاوہ دو آیتیں اور بھی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ تخلیق کائنات کے کچھ اور مقاصد بھی ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا﴾ .(سورہ بقرہ، آیت ۲۹)

یعنی: "پیدا کیا تمہارے فائدہ کے لئے جو کچھ بھی زمین میں

موجود ہے سب کا سب۔"

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی ہر چیز انسان کے لئے پیدا فرمائی تاکہ وہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھائے یہاں انسان کو تخلیق کائنات کا سبب فرمایا گیا ہے ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿وَلَا يَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ إِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ ط وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ﴾ .(ھود، آیت: ۱۱۹)

"ترجمہ: اور ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے مگر جس پر آپ کے رب کی رحمت ہو اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اسی واسطے پیدا کیا ہے یعنی اختلاف اور رحمت کیلئے ان کو پیدا فرمایا ہے۔"

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اختلاف اور رحمت کے لئے پیدا فرمایا ہے یعنی انسانوں کی تخلیق کا مقصد اختلاف اور رحمت ہے۔ اس آیت پر مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حاشیہ لکھتے ہیں:

> یعنی دنیا کی آفرینش سے غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کی صفات جمالیہ اور قہریہ کا ظہور ہو اس لئے مظاہر کا مختلف ہونا ضروری ہے تاکہ رحمت وکرم اور رضوان وغفران کا مظہر بنے جو اِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ کی مصداق ہے اور دوسری جماعت اپنی بغاوت اور غداری سے اس کی صفت عدل وانتقام کا مظہر بن کر جس دوام کی سزا بھگتے جس پر اللہ کی یہ بات پوری ہو۔ ﴿لَأَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ﴾.

بہر حال آفرنش عالم کا تشریعی مقصد عبادت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ

الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْن. وَالذَّارِيَات. آیت ۵۶، اور تکوینی غرض یہ ہے کہ تشریعی مقصد کو اپنے کسب و اختیار سے پورا کرنے اور نہ کرنے والے دو گروہ ایسے موجود ہوں جو حق تعالیٰ کی صفات جلالیہ اور جمالیہ یا بالفاظ دیگر لطف و قہر کے مورد و مظہر بن سکیں۔ در کارخانہ عشق از کفر ناگریز است دوزخ کرا بسوزد اگر ابولہب نباشد۔ پھر لطف و کرم کے مظاہر بھی اپنے مدارج، استعداد اور عمل کے اعتبار سے مختلف ہونگے۔

گلہائے رنگ رنگ سے ہے رونق چمن
اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے

(تفسیر عثمانی ص:)

تو ثابت ہو گیا کہ تخلیق انسانی اور تخلیق کائنات کے کئی مقاصد ہیں اور کہیں سے ایک مقصد دیکھ کر دیگر مقاصد کا انکار کر دینا حماقت، جہالت ہے لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقصد کائنات کہنے سے عبادت والے مقصد کی نفی نہیں ہوتی۔ قرآن مجید سے ثابت ہو گیا کہ عبادت حضرت انسان اور اختلاف و رحمت سب آفرینش دنیا کے مقاصد ہیں اور کسی ایک مقصد کو دیکھ کر دیگر مقاصد کی نفی کر دینا کوتاہ فہمی اور کم علمی کی دلیل ہے اب آپ چند دلائل کتاب و سنت کے ملاحظہ فرمائیں جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کائنات ہونا معلوم ہوتا ہے۔

دلیل نمبر ۱:

اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں: خَلَقَ لَكُمْ مَافِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی ساری نعمتیں حضرت انسان

کے لئے بنائی ہیں تو حضرت انسان مقصد کائنات ٹھہرا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسان نہیں بلکہ سید الانس و جن ہیں آپ سید ولد آدم ہیں لہذا آپ بطریق اولی مقصد کائنات ہیں۔

دلیل نمبر ۲:

عن عمر رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لما اذنب آدم الذنب الذی اذنبه رفع رأسه الی السماء فقال اسألک بحق محمد صلی الله علیه وسلم الا غفرت لی فاوحی الله الیه من محمد؟ فقال تبارک اسمک لما خلقتنی رفعت راسی الی عرشک فاذا فیه مکتوب "لا اله الا الله، محمد رسول الله". فعلمت انه لیس احدٌ اعظم عندک قدرا عمن جعلت اسمه مع اسمک فاوحی الله الیه یا آدم انه آخر النبیین من ذریتک ولولاهو ماخلقتک. (معجم طبرانی صغیر، ج ۲ ص: ۸۳ طبرانی اوسط، طبرانی کبیر، حاکم ابونعیم فی الدلائل، بیهقی فی الدلائل ابن عساکر مجمع الزوائد)

ترجمہ: "حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام سے بھول صادر ہو گئی (جس کی وجہ سے جنت سے دنیا میں بھیج دیئے گئے تو ہر وقت روتے تھے اور دعا و استغفار کرتے رہتے تھے ایک مرتبہ آسمان کی طرف منہ کیا اور عرض

کیا یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں وحی نازل ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں (جن کے وسیلہ سے تم نے استغفار کی) عرض کیا جب آپ نے مجھے پیدا کیا تھا تو میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا تھا" لا اله الاالله محمدرسول الله" (صلی اللہ علیہ وسلم) تو میں سمجھ گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی ہستی کوئی نہیں جن کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ رکھا وحی نازل ہوئی کہ وہ خاتم النبیین ہیں تمہاری اولاد میں سے ہیں لیکن وہ نہ ہوتے تو تم کو بھی پیدا نہ کرتا۔"

اس حدیث کے آخری ٹکڑے سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقصد کائنات ہیں امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو شفاالسقام میں نقل کیا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے ابوجعفر منصور سے گفتگو کرتے ہوئے اس حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو خصائص کبری میں نقل کیا ہے۔ براہین الکتاب والسنۃ میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔

دلیل نمبر۳:

﴿فقدروی الدیلمی عن ابن عباس رضی الله عنهما مرفوعااتانی جبریل فقال یا محمد!لولاک ماخلقت الجنةولولاک ماخلقت النار وفی روایةابن عساکر لولاک ماخلقت الدنیا﴾ (موضوعات کبیر،ص:۱۰۱)

ترجمہ: دیلمی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت نقل کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نہ ہوتے تو میں جنت کو پیدا نہ کرتا اور اگر آپ نہ ہوتے تو میں آگ کو پیدا نہ کرتا اور ابن عساکر کی روایت میں ہے اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا کو پیدا نہ کرتا۔

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) مقصد کائنات ہیں اگر اللہ تعالیٰ آپ کو پیدا نہ فرماتا تو دنیا کائنات کو پیدا نہ فرماتا۔

دلیل نمبر۴:

علامہ برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

﴿وذکر صاحب کتاب شفاء الصدور فی مختصره عن علی بن ابی طالب کرم الله وجهه عن النبی صلی الله علیه وسلم عن الله عزوجل قال یا محمد وعزتی وجلالی لولاک ماخلقت ارضی ولاسمائی ولارفعت هذه الخضرأ ولابسطت هذه الغبراء﴾.

(انسان العیون ج ا ص:۳۵۷،نزهة المجالس ج۲ص:۱۱۹)

(بروز بدھ ۲۳ صفر ۱۴۲۵ھ)

ترجمہ: صاحب شفاء الصدور نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے روایت کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد! صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی عزت وجلال کی قسم اگر آپ نہ ہوتے تو

میں اپنی زمین اور آسمان پیدا نہ کرتا نہ یہ نیلگوں چھت بلند کرتا نہ یہ خاکی فرش بچھاتا۔

دلیل نمبر ۵:

﴿لَوْ لَاکَ لَمَا خَلَقْتُ الْاَفْلَاکَ. قال الصنعانی موضوع کذا فی الخلاصة لکن معناه صحیح﴾. (موضوعات کبیر، ص: ۱۰۱)

ترجمہ: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! اگر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نہ ہوتے تو میں افلاک کو پیدا نہ کرتا صنعانی نے کہا اس حدیث کے اندر افلاک کا لفظ موضوع ہے لیکن اس کے معنی صحیح ہے کیونکہ اس کا معنی دوسری احادیث سے ثابت ہے۔

دلیل نمبر ۶:

﴿واخرج الحاکم عن ابن عباسؓ قال: اوحیٰ الله الیٰ عیسیٰ علیه السلام آمن بمحمد (صلی الله علیه وسلم) ومر من ادرکه من امتک ان یؤمنوا به فلولا محمد ما خلقت آدم ولا الجنة ولا النار﴾.

(الحاوی للفتاویٰ ج ۲ ص: ۱۳۵، بحواله حاکم)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آ اور اپنی امت کو حکم کر کہ جو شخص بھی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پائے اس

پر ایمان لے آئے اگر وہ نہ ہوتا تو میں آدم کو پیدا نہ کرتا نہ جنت کو نہ جہنم کو اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مقصد کائنات ہیں۔

دلیل نمبر ۷:

اسی مسئلہ پر اجماع امت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مقصد کائنات ہیں اور اجماع امت بھی ایک شرعی حجت ہے لہٰذا اجماع امت سے بھی آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا مقصد کائنات ہونا ثابت ہے۔

چنانچہ علامہ سید محمود آلوسی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر روح المعانی میں حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ نے اپنی مکتوبات میں، شیخ سعدی رحمہ اللہ نے اپنی بوستان میں حضرت مولانا عبدالحئی لکھنوی رحمہ اللہ نے "الآثار المرفوعة" میں احمد قسطلانی رحمہ اللہ نے "المواهب اللدنیه" میں، شیخ عبدالحق دہلوی رحمہ اللہ نے "مدارج النبوة" میں اور حضرت مولانا ذوالفقار علی دیوبندی رحمہ اللہ نے "عطر الوردہ، شرح قصیدہ بردہ" میں اسی طرح امام بیہقی اور امام حاکم نے اپنے دلائل میں اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ بلکہ اس سے استدلال و استشہاد کیا ہے۔ اور علامہ ملا علی قاری رحمہ اللہ کی طرح اس کو معنی اور مطلب کے لحاظ سے صحیح قرار دیا ہے۔

گر ارض و سماء کی محفل میں لولاک لما کا شور نہ ہو
یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں یہ نور نہ ہو سیاروں میں
ترا عز لولاک تمکین بس است
ثنائے تو طٰہٰ و یٰسین بس است

مسئلہ:۔ ۱۰

اللہ تعالیٰ کو ''خدا تعالیٰ'' کہنا

تمہید:...... کیپٹن صاحب کو ماننے والے لوگوں میں ذہنی انتشار پیدا کرنے کے لئے ایک یہ مسئلہ بھی چھیڑتے ہیں کہ علماء اسلام اللہ تعالیٰ کو خدا تعالیٰ کیوں کہتے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ میں خدا کا لفظ شامل نہیں ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ لفظ اللہ تعالیٰ اسم ذات ہے اور اسم ذات کا ترجمہ نہیں ہوا کرتا ہے اسم ذات ہر زبان میں یکساں رہتا ہے لہذا لفظ خدا کو لفظ اللہ کا ترجمہ سمجھنا صحیح نہیں ہے۔ نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو خدا کہنا صحیح نہیں ہے۔

بندہ عاجز عرض گزار ہے کہ ان لوگوں کے سارے دلائل اس غلط فہمی پر مبنی ہیں کہ انہوں نے سمجھ رکھا ہے کہ لفظ خدا لفظ اللہ کا ترجمہ ہے حالانکہ یہ ان لوگوں کی کوتاہ فہمی ہے درحقیقت لفظ خدا لفظ اللہ کا ترجمہ نہیں ہے بلکہ اسم ذات کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے کئی صفاتی نام ہیں مثلاً الرحمٰن، بے حد مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا، رزاق، رزق دینے والا، رب العالمین، پروردگار عالم، پالن ہار، تو لفظ خدا، رب یا مالک کا فارسی ترجمہ ہے اردو، فارسی، سرائیکی، زبان میں بکثرت استعمال ہوتا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابرین علماء اسلام نے اس لفظ کو متراجم وغیرہ میں خوب استعمال کیا ہے اور صفاتی نام کا ترجمہ بالاتفاق جائز ہے اس میں کوئی دانشمند اختلاف نہیں کرتا لہذا اللہ تعالیٰ کے دیگر صفاتی ناموں کا جس طرح ترجمہ جائز ہے اسی طرح رب اور مالک کا ترجمہ لفظ خدا کے ساتھ جائز ہے چنانچہ خود کیپٹن مسعود الدین عثمانی نے اپنے رسائل میں اللہ تعالیٰ کو پروردگار کہا ہے۔ (دیکھئے، یہ مزار یہ میلے ص: ۹)

اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی صفاتی نام کا ترجمہ کرنا غلط ہے تو یہ غلطی کیپٹن صاحب نے خود کی ہے۔ پروردگار یقیناً فارسی زبان کا لفظ ہے اور رب العالمین کا فارسی ترجمہ ہے اور اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے اسی طرح لفظ خدا، رب یا مالک کا فارسی زبان میں ترجمہ ہے اور اس ترجمہ پر اعتراض کرنا ایک فضول سی بات ہے البتہ لفظ اللہ چونکہ عربی زبان میں ہے اور لفظ اللہ کے استعمال میں نسبتاً زیادہ فضیلت ہے لیکن لفظ خدا کے استعمال میں کسی قسم کا گناہ اور ممانعت نہیں ہے بہر حال جواز کے اندر اختلاف کرنا ایک قسم کا غلو ہے۔

مسئلہ:۔ ۱۱

مردوں اور عورتوں کی نماز کا فرق

تمہید: کیپٹن مسعود کے ماننے والے غیر مقلدین لوگ علماء اسلام سے اس مسئلہ میں بھی اختلاف کرتے ہیں کہ مرد و عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے بلکہ دونوں کی نماز کا یکساں طریقہ ہے اور ایک ہی شکل وصورت ہے حالانکہ احادیث مبارکہ میں واضح فرق موجود ہے اور اس فرق پر اجماع امت ہے اور فقہ کے چاروں ائمہ کرام اس بات پر متفق ہیں کہ بعض امور میں مرد و عورت کی نماز کا فرق ہے لیکن مسعودی اور غیر مقلدین، اجماع امت کی مخالفت میں اور فرق بیان کرنے والی احادیث کو نظر انداز کر رہے ہیں حالانکہ بعض فرق ایسے ہیں جن کو مسعودی وغیرہ، غیر مقلدین خود بھی تسلیم کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود کوئی فرق نہیں کی رٹ بھی لگاتے ہیں۔

اتفاقی فرق:

(۱)...... مرد کے لئے مسجد میں نماز ادا کرنا بہتر ہے جبکہ عورت کے لئے بہ نسبت مسجد کے گھر میں نماز ادا کرنا بہتر ہے۔ (دیکھئے مسند احمد، ج۶ ص ۳۷۱)

(۲)...... نماز میں مردوں کے لئے پہلی صف بہتر ہے اور عورتوں کے لئے آخری صف بہتر ہے۔ (بخاری ج۱ ص ۱۲۰۔ ترمذی ج۱ ص ۳۱)

(۳)...... نماز کے دوران اگر کوئی شخص نمازی کے آگے سے بے خبری میں گزرنے لگے تو مرد تسبیح کے ذریعے روکے اور عورت تصفیق یعنی ہاتھ پر ہاتھ مار کر روکے۔ (ترمذی ج۱ ص ۴۸)

(۴)...... مرد کے لئے نماز میں پگڑی اور ٹوپی افضل ہے" بخاری ج۱ ص ۵۶" جبکہ عورت کی نماز بغیر دوپٹہ نہیں ہوتی۔ (ترمذی ج۱ ص ۵۰)

(۵)...... مرد اگر ننگے سر نماز پڑھ لے تو علماء فرماتے ہیں کہ نماز مع الکراہت ادا ہوجائے گی اور اگر عورت نے ننگے سر نماز پڑھی تو خود نماز جائز نہیں ہوگی۔

(۶)...... مرد امام بن سکتا ہے جبکہ علماء فرماتے ہیں عورت کی امامت مکروہ ہے۔

(۷)...... مرد اگر مردوں کا امام ہو تو اسے چاہیے کہ صفوں سے آگے مصلی پر کھڑا ہو اور عورت مردوں کی امام تو نہیں بن سکتی اگر عورتوں کی امامت کرا رہی ہے تو اگرچہ مکروہ ہے لیکن اس کو چاہیے کہ اگلی صف کے درمیان میں کھڑی ہو۔

(۸)...... مرد کے لئے ہر حال میں خصوصاً نماز میں ٹخنے ڈھکنا حرام اور ممنوع ہے جبکہ عورت کے لئے ہر حال میں خصوصاً نماز میں ٹخنے ڈھکنا لازمی و ضروری ہے۔

(۹)...... مرد نماز کی اذان و تکبیر کہہ سکتا ہے لیکن عورت اذان و تکبیر نہیں کہہ سکتی۔

(۱۰)...... نماز با جماعت میں مرد مرد کے ساتھ ایک صف میں کھڑا ہو سکتا ہے جبکہ

عورت کو مردوں کی صف میں کھڑا ہونے کی اجازت نہیں ہے۔

(۱۱)...... علماء احناف کے نزدیک نماز میں آمین مرد و عورت سب کے لئے آہستہ کہنے کا حکم ہے لیکن جو لوگ آمین اونچی آواز میں کہنے کے قائل ہیں وہ یہ حکم صرف مردوں کے لئے مخصوص کرتے ہیں اور عورتوں کو اونچی آواز سے آمین کہنے کی اجازت نہیں دیتے۔

قارئین کرام! آپ انصاف فرمائیں کہ مرد و عورت کی نماز کے کتنے سارے واضح فرق ہیں اور سب کے سب صحیح حدیثوں سے ثابت ہیں اور پھر اتنے سارے فرق کے باوجود یہ رٹ لگائے رہنا کہ مرد و عورت کی نماز ایک جیسی ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے دوپہر کے سورج کو جھٹلانے کے مترادف ہے چند مزید دلائل بھی ملاحظہ فرمائیں۔

فرق کے دلائل:

حدیث نمبر ۱:

﴿عن یزید بن ابی حبیب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی امراتین تصلیان فقال اذا سجدتما فضما بعض اللحم الیٰ الارض. والمرأۃ لیست فی ذالک کالرجل﴾. (مراسیل ابی داؤد، ص: ۵۵، تحفۃ الاشرف (۱۳: ۱۹ ۴۱۹) بیہقی ج۲ ص: ۲۲۳)

ترجمہ: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دو عورتوں پر گزر ہوا جو نماز پڑھ رہی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دونوں سجدہ کرو تو اپنے جسم کو زمین سے ملا دو کیونکہ عورت اس میں مرد کی طرح نہیں ہے۔

فائدہ: ...... اس حدیث سے واضح طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ عورت کی نماز بالکل مردوں کی طرح نہیں ہے بلکہ بعض احکام میں فرق ہے۔

حدیث نمبر۲:

﴿عن ابن عمرؓ مرفوعا اذا جلست المراۃ فی الصلوٰۃ وضعت فخذها علی فخذها الاُخریٰ فاذا سجدت الصقت بطنها فی فخذيها كاستر مايكون لها وان الله تعالیٰ ينظر اليها ويقول ياملائكتی اشهدكم انی قدغفرت لها﴾ (کنز العمال ج۴ص: ۱۱۷، بیهقی، کامل ابن عدی)

ترجمہ: ''حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوع روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عورت نماز میں بیٹھے تو اپنی ایک ران دوسری ران پر رکھے اور جب سجدہ کرے تو اپنے پیٹ کو رانوں سے چپکائے کہ اس کے لئے زیادہ سے زیادہ پردہ کا موجب ہو اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھتے اور فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اے فرشتو! تم گواہ رہو میں نے اس عورت کی بخشش کر دی۔''

فائدہ:۔ ...... اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز کے اندر عورت کے لئے ان سب باتوں کا لحاظ رکھا گیا ہے جو اس کے لئے ستر اور پردہ کا موجب بنتے ہیں۔

حدیث نمبر۳:

﴿عن وائل بن حجر بن عدی قال: قال رسول لی

رسول الله صلی الله عليه وسلم ياوائل بن حجر! اذا صليت فاجعل يديك حذا اُذنيك والمراۃ تجعل يديها حذا ثدييها﴾ (مجمع الزوائد، ج۲ ص: ۱۰۳، طبرانی)

ترجمہ: ''حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ سکھلایا تو فرمایا کہ اے وائل بن حجر! جب نماز شروع کرو تو اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھاؤ اور عورت اپنے ہاتھ چھاتیوں تک اٹھائے۔''

حدیث نمبر۴:

﴿عن عبدربه بن سليمان بن عمر قال رايت ام الدرداء يرفع يديها فی الصلوٰۃ حذو منكبيها﴾۔ (جزأ القرأۃ للبخاری، ص۷)

ترجمہ: حضرت عبدربہ بن سلیمان بن عمیر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ام درداء رضی اللہ عنہا کو دیکھا کہ آپ نماز میں اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتی تھیں۔

حدیث نمبر۵:

﴿عن ابن عمر رضی الله عنهما انه سئل كيف كان النساء يصلين علی عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم قال كن يتربعن ثم امرن يحتفزن﴾ (جامع المسانيد ج ۱ ص: ۴۰۰)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں کیسے نماز پڑھتی تھیں انہوں نے فرمایا چہارزانوں بیٹھ کر پھر انہیں حکم دیا گیا کہ وہ خوب سمٹ کر بیٹھا کریں۔

حدیث نمبر ۶:

﴿عن علی وارضاہ قال اذا سجدت المرء ۃ فلیتحتفز ولتقم فخزیھا﴾ .(مصنف ابن ابی شیبہ ج ا ص: ۳۰۲ سنن کبری ،بیھقی، ج ۲ ص: ۲۲)

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب عورت سجدہ کرے تو خوب سمٹ کر کرے اور اپنی دونوں رانوں کو ملائے رکھے۔

حدیث نمبر ۷:

﴿عن ابن عباس انہ سئل عن صلوۃ المراۃ ،فقال تجتمع وتحتفز﴾ .(مصنف ابن ابی شیبہ ج ا ص: ۳۰۲)

''حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے عورت کی نماز کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا کہ اکھٹی ہوکر اور خوب سمٹ کر نماز پڑھے۔''

مزید چند آثارِ تابعین وغیرہ:

(۱) عن ابراھیم قال اذاسجدت المراۃ فلتضم فخذیھا ولتضع بطنھاعلیھا .(مصنف ابی بکربن ابی شیبہ ج ا ص: ۳۰۲)

ترجمہ: ''حضرت ابراہیم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب عورت سجدہ کرے تو اسے چاہیے کہ اپنی رانوں کو ملالے اور ان پر اپنے پیٹ کو رکھ دے۔''

(۲) عن مجاھدانہ کان یکرہ ان یضع الرجل بطنہ علی فخذیہ اذا سجد کما تضع المراۃ .(مصنف ابی بکربن ابی شیبہ ج ا ص: ۳۰۲)

ترجمہ: حضرت مجاہد رحمتہ اللہ علیہ اس بات کو مکروہ سمجھتے تھے کہ مرد سجدہ کے وقت اپنے پیٹ کو اپنی رانوں پر رکھ دے جیسا کہ عورت کرتی ہے۔

(۳) عن الحسن قال المراۃ تضم فی السجود .(مصنف ابی بکربن ابی شیبہ ج ا ص: ۳۰۳)

ترجمہ: ''حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عورت سجدہ میں سمٹ جائے۔''

(۴) عن ابراھیم قال اذاسجدت المراۃ فلتلزق بطنھابفخذیھاولا ترفع عجیزتھاولا تجافی کما یجافی الرجل .(مصنف ابی بکربن ابی شیبہ ج ا ص: ۳۰۳)

ترجمہ: ''حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عورت سجدہ کرے تو چاہیے کہ اپنے پیٹ کو دو رانوں سے ملادے اور اپنی سرین کو اونچا نہ کرے اور مرد کی طرح کھلا سجدہ نہ کرے۔''

(۵) سمعت عطاسئل عن المراۃ کیف ترفع یدیھا فی الصلوۃ قال حذوثدیھا .(مصنف ابی بکربن ابی شیبہ

ج ۱ ص: ۲۷۰)

ترجمہ: حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ عورت نماز میں کس طرح ہاتھ اٹھائے فرمایا کہ اپنے دو پستانوں کے برابر یعنی سینہ تک ہاتھ اٹھائے۔

(۶) عن الزهری قال ترفع یدیها حذو منكبيها (مصنف ابی بکر بن ابی شیبہ ج ۱ ص: ۲۷۰)

ترجمہ: حضرت زہری رضی اللہ عنہ نے فرمایا عورت اپنے کندھوں تک ہاتھ اٹھائے

(۷) عن حماد انه كان يقول فی المرأة اذا استفتحت الصلوٰة ترفع يديها الیٰ ثدیها. (مصنف ابی بکر بن ابی شیبہ ج ۱ ص: ۲۷۰)

ترجمہ: حضرت حماد رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ عورت نماز میں اپنے دو پستانوں تک ہاتھ اٹھائے۔

(۸) عن ابن جريج قلت لعطاء تشير المرأةُ بيديها بالتكبير كالرجل قال لاترفع بذاک يديها كالرجل واشار فخفض يديه جداً وجمعها اليه جدًا وقال ان المرأة هيئةُ ليست للرجل. (مصنف ابی بکر بن ابی شیبہ ج ۱ ص: ۲۷۰)

ترجمہ: ابن جریج سے روایت ہے کہ اس نے حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ کیا عورت نماز میں مردوں کی طرح ہاتھ اٹھائے فرمایا کہ مردوں کی طرح ہاتھ اونچے نہ کرے اور اشارہ

کر کے دکھایا کہ اس طرح اٹھائے ہاتھوں کو بالکل اونچا نہ کیا اور ان کو اپنی طرف جمع کر لیا اور فرمایا کہ عورت کی خاص ہئیت ہے جو مرد کے لئے نہیں ہے۔

(۹) حدثنی عاصم الاحول قال رايت حفصةَ بنت سيرين كبّرت فی الصلوٰة وأومأت حذو ثدیها. الخ. (مصنف ابی بکر بن ابی شیبہ ج ۱ ص: ۲۷۵)

ترجمہ: ''حضرت عاصم الاحول بیان کرتے ہیں کہ میں نے حفصہ بنت سیرین کو دیکھا کہ نماز میں تکبیر کہی اور پستانوں تک یعنی سینے تک ہاتھوں کا اشارہ کیا۔''

قارئین کرام! یہ ہیں وہ احادیث اور آثار تابعین جن کی بنیاد پر فقہاء اسلام نے مرد عورت کی نماز میں فرق کا لحاظ کیا ہے اور یہ سب کچھ اس لئے ہے کہ اسلام کے اندر عورت کی ستر اور پردہ پوشی کی بہت تاکید کی گئی ہے حتیٰ کہ عورت کا معنی ہی ستر کا ہے۔ فقہاء اسلام چونکہ مزاج شناس نبوت ہوتے ہیں اسی لئے تمام فقہاء کرام حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ اور حنبلیہ نے اسی ستر اور پردہ داری کو مدنظر رکھتے ہوئے مرد اور عورت کی نماز کا فرق بیان کیا ہے جیسا کہ مذکورہ بالا احادیث اور اقوال صحابہ و تابعین سے واضح ہے لیکن مسعودی وغیرہ غیر مقلدین چونکہ تفقہ فی الدین کی نعمت سے محروم ہیں اور ان کی نظر صرف الفاظ تک محدود رہتی ہے مغز تک ان کی رسائی نہیں ہے اسی لئے ان لوگوں نے کتاب وسنت کے ان سب فرق کو نظر انداز کر دیا ہے اور الٹا فقہاء کرام پر ناراض ہو گئے ہیں کہ انہوں نے مرد و عورت کا فرق از خود کر لیا ہے حالانکہ یہ فرق خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمائے ہیں۔

ہوئی پرستوں کی ایک دلیل اور اسکا جواب:

مسعودی اور غیر مقلدین وغیرہ ہوئی پرست فرقے جو مرد و عورت کی نماز میں کسی قسم کے فرق کا انکار کرتے ہیں وہ اپنے اس دعویٰ کی دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: صلوا کمارأیتمونی اُصلّی یعنی جس طرح نماز میں پڑھتا ہوں تم اسی طرح نماز پڑھو۔ لہذا مرد و عورت کو ایک جیسی نماز پڑھنی چاہیے لیکن حوئی پرستوں کا یہ استدلال صحیح نہیں ہے کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے یہ ارشاد ایک وفد کو فرمایا تھا جو کہ بیس دن آپ کی خدمت میں رہا تھا لہذا ان لوگوں کا استدلال حدیث کے ایک ایسے ٹکڑے سے جس کو سیاق وسباق سے ہٹایا گیا ہے اگر اس حدیث کے ٹکڑے کو عام بھی رکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ بالکل نماز ایسے پڑھی جائے، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی مرد و عورت سب بالکل اسی طرح نماز پڑھیں کیونکہ اس عمومی ضابطے میں کئی امور مستثنیٰ ہیں مثلاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو مصلی پر کھڑے ہوکر امامت کے فرائض سرانجام دیا کرتے تھے لیکن عورتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مصلی پر کھڑے ہوکر امامت کے فرائض ادا نہیں کرسکتیں اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بوقت امامت قرأت فرمایا کرتے تھے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مرد و عورتیں قرأت نہیں کیا کرتے تھے حالانکہ وہ دیکھ رہے ہوتے تھے کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) قرأت فرما رہے تھے کیونکہ یہ امور اس عمومی ضابطے سے مستثنیٰ ہیں بعینہ اسی طرح مرد و عورت کی نماز کے فرق والے امور مستثنیٰ ہیں اور تقریباً ہر عمومی ضابطے سے کچھ چیزیں مستثنیٰ ہوا کرتی ہیں لہذا استثنائی امور اس سے خارج ہیں۔

ہوئی پرستوں کی ایک اور دلیل:

ہوئی پرست لوگ ام درداءؓ کے عمل سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ وہ نماز میں مردوں کی طرح بیٹھتی تھیں لیکن اس سے بھی ان کا دلیل پکڑنا صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ لوگ ہمیشہ یہی رٹ لگایا کرتے تھے کہ ہم قرآن وحدیث پر چلنے والے ہیں اور ام درداء تو ایک ایسی عورت ہے جس کا صحابیہ ہونا بھی یقینی نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ام درداء کے اس عمل کو اس لئے نقل کیا گیا ہے کہ کیونکہ اس دور میں عورتیں نماز کے اندر مردوں کی طرح نہیں بیٹھا کرتی تھیں بلکہ ان کے بیٹھنے کا طریقہ مخصوص ہے لیکن چونکہ ام درداءؓ عورتوں والے مخصوص طریقہ کو چھوڑ کر مردوں کی طرح بیٹھا کرتی تھیں اس لئے ازراہِ تعجب اس کے طریقہ نشست کو بیان کیا گیا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں عام عورتیں مردوں کی طرح نہیں بیٹھا کرتی تھیں بجز ام درداء کے کہ وہ مردوں کی طرح بیٹھا کرتی تھیں۔

ہوئی پرست منور سلطان کا حدیثوں کے خلاف واویلا:

آپ نے بکثرت حدیث وآثار پڑھے ہیں جن سے مرد و عورت کی نماز کا فرق واضح ہے لیکن حوئی پرستوں کا اس پر ایمان نہیں ہے چنانچہ منور سلطان ان احادیث وآثار کے خلاف واویلا کرتے ہوئے لکھتا ہے "یوسف لدھیانوی صاحب کا اپنی کتاب "اختلاف امت اور صراط مستقیم" میں مستند وصحیح احادیث کے مقابلے میں ضعیف اور مرسل روایات کو بنیاد بنا کر عورتوں کو سجدے میں جسم زمین سے چمٹا دینے کا حکم کرنا ایک باطل فعل ہے۔ (اسلام یا مسلک پرستی، ص: ۱۴۱)

ھوئی پرستوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی حدیث کو ضعیف وغیرہ کہیں:

احادیث وآثار کے پرکھنے کے اصول وضوابط محدثین، فقہاء اسلام اور ائمہ رجال نے وضع کئے ہیں اور ان لوگوں نے ہی روایات پر صحت وضعف وغیرہ کا حکم فرمایا ہے جبکہ ھوئی پرست قرآن وحدیث کے مدعی ہیں اور کسی بزرگ اور امام کی بات ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں تو کسی امام اور بزرگ کے حوالہ سے ان ھوئی پرستوں کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی حدیث کو ضعیف، معلول اور مرسل وغیرہ کہیں ان کے نزدیک ضعیف وہ ہے جسے اللہ یا اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضعیف کہا ہے۔ ائمہ کے کہنے پر کسی حدیث کو ضعیف کہنے کا مطلب تو یہ ہے کہ اماموں کی تقلید وپیروی جائز ہے حالانکہ ائمہ کی تقلید کو تو یہ لوگ ناجائز کہتے ہیں افسوس کے بعض اوقات اماموں کی بات کو تسلیم کرنے اور ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور پھر طرفہ تماشہ یہ کہ انہیں ائمہ رجال پر یہ ھوئی پرست مسعودی شرک وکفر کے فتوے صادر کرتے ہیں کیونکہ یہ سب علماء اصول حدیث جنہوں نے حدیث کی اقسام اور درجے بیان کئے ہیں وہ سب کے سب حیات الانبیاء، عذاب قبر اور سماع موتی کے قائل ہیں ایک طرف ان لوگوں پر فتوے لگانا اور دوسری طرف ان کے حوالہ سے یہ کہنا کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا مرسل ہے یہ مقبول ہے اور یہ ناقابل قبول ہے نہایت ہی دیدہ دلیری ہے حقیقت یہ ہے کہ ان ھوئی پرستوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ائمہ رجال کے کہنے پر کسی حدیث پر کسی قسم کا حکم لگائیں البتہ "مرتا کیا نہ کرتا" کے تحت مجبوراً سب کچھ کرتے ہیں اور بڑی دیدہ دلیری سے کرتے ہیں۔

علماء اسلام کی پیش کردہ روایات صحیح اور مقبول ہیں:

ھوئی پرست لوگ خوامخواہ فرق بیان کرنے والی احادیث کو ناقابل قبول بناتے ہیں ورنہ جن علماء اصول حدیث نے پہچان کے اصول وضع کیے ہیں منجملہ اصول یہ بھی ہے کہ جس حدیث کو تلقی بالقبول کا درجہ حاصل ہو جائے۔ جس حدیث سے کوئی فقہ استدلال کرے اور جو حدیث مختلف سندوں سے مروی ہو تو وہ حدیث مقبول کے درجہ میں شمار ہو جاتی ہے خواہ وہ سند کے لحاظ سے ضعیف بھی ہو لیکن مسعودی گروپ کسی اصول کا پابند نہیں ہے جب ضرورت پڑے تو اصولوں کا سہارا لیا جاتا ہے اور جب ضرورت نہ ہو تو سارے اصول بالائے طاق رکھ دیے جاتے ہیں یہ اسلام نہیں ہے بلکہ ھوئی پرستی ہے۔

مسئلہ ۱۲:

جھاڑ پھونک اور تعویذات وغیرہ

تمہید:۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پہلے عملیات یعنی جھاڑ پھونک، تعویذات اور گلے یا بازو وغیرہ میں پتھر، کوڑی، درخت کی چھیل اور تاگے وغیرہ لٹکانے کے ذریعہ علاج کا عام دستور تھا اور اس زمانہ جاہلیت میں اکثر وبیشتر یہ چیزیں سحر اور شرک پر مشتمل ہوتی تھیں اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امور سے اولاً سب کو روک دیا اور اس معاملہ میں سختی فرمائی اور بعد میں جب لوگوں کی ذہن سازی ہوگئی اور عقائد درست ہوگئے تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے چند اصطلاحات کے بعد اس طریقہ علاج کی اجازت دے دی مثلاً جھاڑ پھونک اور تعویذات وغیرہ میں جادو شامل نہ ہو کیونکہ جادو کرنا اور کرانا حرام ہے

دوسری شرط یہ ہے کہ جھاڑ پھونک اور تعویذات میں شرکیہ کلمات نہ ہوں اور نہ ہی ایسی زبان میں ہوں جس کا معنی ومطلب معلوم نہ ہو اور یہ بھی شرط ہے کہ آدمی جھاڑ پھونک اور تعویذات وغیرہ کو مستقل طور پر موثر بالذات نہ سمجھے بلکہ اس کو علاج اور سبب کی حد تک محدود سمجھے اگر کوئی شخص اس طریقہ علاج کو موثر بالذات سمجھتا ہے تو فساد عقیدہ کی وجہ سے یہ ناجائز ہے۔

ہوئی پرست مسعودیوں کی ایک حماقت:

کیپٹن مسعود الدین عثمانی اور انکا چیلہ منور سلطان اور دیگر پیروکار تعویذات کو شرک کہتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع اسلام والی وہ احادیث مبارکہ پیش کرتے ہیں جن میں آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ان امور سے منع فرمایا ہے اور بعد والی احادیث کو جن میں اصلاح کے بعد ان امور کی اجازت مرحمت فرمائی نظر انداز کرتے ہیں حالانکہ آدمی صحیح نتیجہ پر اس وقت پہنچتا ہے جب تصویر کے دونوں رخ اس کے سامنے ہوں لیکن ہوئی پرست فرقہ ہمیشہ ایک رخ کو دیکھ کر دوسرے رخ کو نظر انداز کردیتا ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ ہمیشہ غلط نتیجہ پر جا پہنچتے ہیں اور راہ راست سے ہٹے رہتے ہیں اور صراط مستقیم سے پرے رہتے ہیں یہ ان لوگوں کی بنیادی غلطی جس کی وجہ سے یہ لوگ گمراہیوں کی وادی میں بھٹکے رہتے ہیں ان کے برعکس علماء اسلام، علماء حق تصویر کے دونوں رخ سامنے رکھتے ہیں اور مسئلہ کے ہر پہلو کو مدنظر رکھتے ہیں اور پھر سلف صالحین کے اقوال واحوال کی روشنی میں بات کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور الحمد اللہ ہمیشہ حق بات تک پہنچتے ہیں اور صراط مستقیم پالینے میں ہمیشہ کامیاب اور کامراں رہتے ہیں۔

ہوئی پرستوں کی دوسری حماقت:

جب یہ بات واضح ہوچکی ہے کہ جھاڑ پھونک اور تعویذات وغیرہ ایک قسم کا علاج اور دفع مضرت کی ایک تدبیر ہے یہی وجہ ہے کہ تمام محدثین کرام نے اپنی حدیث کی کتابوں میں ان امور کو کتاب "الطلب الترقی" میں بیان کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جھاڑ پھونک اور تعویذات بھی ایک قسم کا علاج ہے اور دوا وعلاج کے متعلق یہ اتفاقی فیصلہ ہے کہ علاج کی تمام اقسام جو آجکل رائج ہیں یا آئندہ ایجاد ہونگی اور تجربات کی بنیاد پر جتنے طریقے ایجاد کرینگے وہ سب جائز ہیں البتہ صرف ایک شرط ہے کہ وہ طریقہ علاج شریعت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف نہ ہو اور دین اسلام میں ممنوع نہ ہو۔ اسی ضابطہ کے تحت علاج کا حکم معلوم کیا جاسکتا ہے لہذا دوا وعلاج کے سلسلہ میں یہ سوال اٹھانا کہ اس نسخہ کو قرآن وحدیث سے ثابت کرنا ایک قسم کی حماقت اور جہالت ہے دیکھئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں علاج بالنار اور علاج بالماء بھی کیا جاتا تھا لیکن بعد میں لوگوں نے تجربات کی بنیاد پر قسم وقسم کے علاج ایجاد کئے اور ادویات تیار کئے اور کرتے جارہے ہیں پہلے صرف یونانی طریقہ علاج تھا پھر ایلو پیتھک آئی انگریزی ادویات عام ہوئیں پھر ہومیو پیتھک کے علاج شروع ہوئے اور ہر شعبہ میں ترقی ہوتی جاتی ہے اور روزانہ ہزاروں نسخے تیار ہورہے تو اگر کوئی شخص یہ سوال کرے کہ میرے سامنے انگریزی ادویات کا قرآن وحدیث سے ثبوت پیش کرو، یہ ٹیکہ، یہ گولیاں، یہ کیپسول اور یہ آپریشن کہاں سے ثابت ہے؟ اگر ثبوت پیش نہیں کرسکتے تو یہ علاج بدعت ہے شرک اور ناجائز ہے اسی طرح اگر کوئی شخص یہ سوال کرے کہ میرے سامنے ہومیو پیتھک کا ثبوت پیش کرو قرآن وحدیث سے یہ قطرے اور پڑیاں کہاں سے ثابت ہیں تو یقیناً ایسا شخص احمق تصور کیا

جائے گا کیونکہ علاج اور ادویات جتنے بھی ایجاد ہوں سب جائز ہیں بشرطیکہ خلاف شریعت نہ ہوں اور دین اسلام میں ممنوع نہ ہوں تو جس طرح ایسے معاملات میں ثبوت طلب کرنا حماقت ہے بعینہ جھاڑ پھونک اور تعویذات کے بارے میں ثبوت طلب کرنا بھی حماقت اور جہالت ہے کیونکہ وہ بھی ایک قسم کا علاج اور تدبیر ہے صرف یہی لحاظ رکھا جائے گا وہ خلاف شریعت اور ممنوع فی الاسلام نہ ہو۔

ثبوت کہاں طلب کیا جاتا ہے؟:

ثبوت کا مطالبہ وہاں ہوتا ہے جہاں کرنے والا کسی کام کو نیکی، ثواب اور عبادت سمجھ کر کر رہا ہو اور اس کام کو دین اور شریعت سمجھ کر کر رہا ہو مثلاً جو لوگ اذان کے اول و آخر میں صلوٰۃ وسلام کہتے ہیں ان سے مطالبہ کرو کہ قرآن وحدیث سے ثابت کرو کیونکہ کرنے والے اس کام کو کارثواب اور دین سمجھ کر کر رہے ہیں اسی طرح جو شخص قبر پر اذان دے رہا ہے اس سے مطالبہ کرو کہ قبر کی یہ اذان کہاں سے ثابت ہے کیونکہ قبر پر اذان دینے والا اپنی اذان کو دین وعبادت سمجھ رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔

لیکن جھاڑ پھونک کرنے والا اسی طرح تعویذات لینے دینے والا ان باتوں کو دین عبادت اور کارثواب سمجھ کر نہیں کر رہا ہے بلکہ دونوں کی نیت علاج کی ہے نہ کہ ثواب کی دیکھئے ایک آدمی عامل کو کہہ رہا ہے مجھے سر میں درد ہے مجھے دم کیجئے دوسرا کہہ رہا ہے مجھے بخار کا تعویذ دیجئے اب ظاہر ہے کہ یہ تو علاج ہے نہ کہ عبادت آپ نے کوئی شخص نہ دیکھا ہوگا جو تعویذ مانگ رہا ہو کہ میں پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزر جاؤں یا قبر کے عذاب سے بچ جاؤں یا دوزخ کی آگ سے نجات پاؤں وغیرہ وغیرہ لہٰذا قرآن وحدیث سے ثبوت وہاں مانگا جاتا ہے جہاں کسی عمل کو دین سمجھا جاتا ہے اور جہاں کسی عمل کو دین نہیں بلکہ دنیا سمجھا جا رہا ہو وہاں ثبوت کا مطالبہ ایک فضول

ی حرکت ہے وہ احمق ہوگا جو مطالبہ کرے کہ ریل گاڑی قرآن وحدیث سے ثابت کرو، چائے اور کوکا کولا قرآن وحدیث سے ثابت کرو کیونکہ یہ چیزیں دین نہیں بلکہ دنیا ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: انتم بامر دنیاکم یعنی تم اپنی دنیا کے کام بہتر جانتے ہو۔ (مسلم، ۲/۲۶۴)

تعویذات وغیرہ شرک وبدعت کے زمرہ میں تب داخل ہوتے ہیں جب کرنے والے ان کو دین قرار دیتے ہیں حالانکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ تعویذات وغیرہ دنیاوی مطالب حاصل کرنے کے لئے استعمال کئے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یعنی جو شخص غیر دین کو دین میں داخل کرے تو وہ مردود ہے۔ تو جب تعویذات وغیرہ کر کے دین ہی نہیں سمجھا جاتا بلکہ دنیاوی مقاصد کے لئے استعمال کیا جاتا ہے تو وہ بدعت کے زمرہ نہیں آ سکتا اور اس طرح اگر جھاڑ پھونک اور تعویذات میں شرکیہ کلمات شامل ہیں تو وہ لازماً شرک ہی ہونگے اور اگر شرک پر نہیں بلکہ آیات قرآنیہ اور ادعیہ ماثورہ پر مشتمل ہیں تو ان کو کیسے شرک کہا جائے گا لہٰذا ایسے عملیات کے بارے میں سوال کرنا کہ یہ قرآن وحدیث سے ثابت ہیں ایک غلط سوال ہے البتہ اس قسم کے علاج کی بنیاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ وتابعین ہیں اگرچہ بعد میں اہل اسلام نے تجربات کی بنیاد پر بہت سے طریقہ ہائے علاج لکھے اور بیان کئے ہیں جن سے پوری امت دنیاوی مقاصد حاصل کر رہی ہے۔

عملیات کے اباحت کے دلائل:

جن احادیث میں تعویذات، جھاڑ پھونک وغیرہ عملیات کی ممانعت آئی ہے یا ان کو شرک کہا گیا ہے تو علماء اسلام نے اباحت کے دلائل کے پیش نظر ان کو ایسی صورتوں پر محمول کیا ہے کہ ان میں شرکیہ کلمات ہوں یا غیر اللہ سے مدد لی گئی ہو یا ایسے

کلمات پر مشتمل ہوں جن کا معنی معلوم نہ ہو یا پھر وہ جادو کی قسم سے ہوں یا ان عملیات کو مستقل طور پر موثر بالذات سمجھا گیا ہو وغیرہ وغیرہ۔

لہذا وہ عملیات جو ایسے امور اور فساد وعقیدہ سے مبرا ہوں وہ اس ممانعت میں داخل نہیں ہیں بلکہ وہ مباح ہیں اور اباحت کے چند دلائل ملاحظہ فرمائیں۔

دلیل نمبر ۱:

بخاری شریف وغیرہ کتب وحدیث میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا قافلہ سفر پر تھا جن کا زادِ سفر ختم ہو چکا تھا عرب کے کسی قبیلے کے پاس پڑاؤ کیا انہوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا اتفاق سے ان کے سردار کو سانپ یا بچھو نے کاٹ لیا جس کی وجہ سے وہ لوگ سخت پریشانی کے عالم میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس آئے اور کہا کیا تمہارے پاس کوئی دوا یا عمل ہے جس سے سانپ یا بچھو کے زہر کا اثر ختم ہو جائے ایک صحابی غالباً حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں میرے پاس اس کا عمل ہے لیکن ایک شرط پر عمل کرونگا کہ بکریوں کا ریوڑ ہمیں دیا جائے چونکہ وہ لوگ مجبور تھے انہوں نے یہ شرط منظور کر لی چنانچہ ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا مریض تندرست ہو گیا تو ان لوگوں نے شرط کے مطابق ان کو ایک ریوڑ دے دیا لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا آپس میں اختلاف ہو گیا بعض حضرات کہتے تھے کہ یہ ہمارے لئے حلال اور جائز ہے اور بعض دوسرے حضرات کہتے تھے کہ یہ کتاب اللہ پر اجرت لی گئی ہے لہذا جائز نہیں ہے بالآخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: **ومایدریک انها رقیة ،ثم قد اصبتم اقسموا و اضربولی معکم سهمافضحک النبی صلی الله علیه وسلم** (بخاری، ج ۱ص:۳۰۴)

''یعنی تجھے کیسے معلوم ہوا کہ یہ سورۃ الفاتحہ رقیہ یعنی علاج کا عمل ہے پھر فرمایا تم نے اچھا کیا یہ بکریاں تقسیم کرلو اور میرا حصہ بھی نکالو''۔ اور ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: **ان احق مااخذ تم علیه اجرا کتب الله** . یعنی سب سے زیادہ اجرت لینے کے لائق تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔

(بخاری ج ۲ص:۸۵۴)

(ف)...... اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام نے سورۃ الفاتحہ کا عمل (رقیہ) کیا یعنی قرآن کے ذریعہ علاج کیا مریض ٹھیک ہو گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی کہ یہ علاج بذریعہ قرآن صحیح ہے۔

دلیل نمبر ۲:

امام بخاریؒ نے۔ "**باب الرقیٰ بالقرآن والمعوذات**" قائم فرمایا حدیث لکھی ہے:

> **﴿عن عائشةؓ ان النبی صلی الله علیه وسلم کان ینفث علی نفسه فی المرض الذی مات فیه بالمعوذات﴾**. (الحدیث بخاری ، ج ۲ص: ۸۵۴)
>
> ترجمہ: ''سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرض وفات میں اپنے اوپر دم کرتے تھے یعنی آخری سورتیں اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مارتے تھے اور پھر دونوں ہاتھ اپنے جسم پر پھیر دیتے تھے۔''

(ف)...... اس حدیث سے بھی اس طریقہ علاج کا جواز معلوم ہو گیا کہ قرآن خصوصاً معوذات کے ذریعہ علاج جائز اور ثابت ہے۔

دلیل نمبر ۳:

﴿عن عائشةؓ قالت امرنی النبی صلی الله علیه وسلم اوامران یسترقی من العین﴾. (بخاری ج ۲ ص: ۸۵۴)

ترجمہ: سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا یا مطلقاً حکم فرمایا کہ ہم نظر بد کا علاج رقیہ کے ذریعہ کروائیں یعنی جھاڑ پھونک وغیرہ سے۔

(فائدہ)...... اس حدیث سے بھی کلام حق کے ذریعہ طریق علاج کا حکم خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔

دلیل نمبر ۴:

﴿عن ام سلمةؓ ان النبی صلی الله علیه وسلم رأی فی بیتها جاریةً فی وجهها سفعةً فقال استرقوا لها فان بها النظرة﴾. (بخاری ج ۲ ص: ۸۵۴)

ترجمہ: ”بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے منہ پر زردی چھائی ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رقیہ یعنی کلام کے ذریعہ علاج کراؤ کیونکہ اس پر نظر بد کے اثرات ہیں۔“

(ف)...... آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اس حدیث میں کلام کے ذریعہ علاج کی اجازت دی ہے یعنی جھاڑ پھونک کے ذریعہ نظر بد کے علاج کی اجازت خود آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے دی۔

دلیل نمبر ۵:

قال سألت عائشةؓ عن الرقیة من الحمة فقالت رخص النبی صلی الله علیه وسلم: الرقیة من کل ذی حمة.

(بخاری، ج ۲ ص: ۸۵۴)

”ترجمہ: حضرت اسود بن یزید نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ زہریلے جانوروں کے کاٹنے کا علاج رقیہ کے ذریعے جائز ہے یا نہیں، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سانپ اور بچھو وغیرہ زہریلے جانوروں کے کاٹنے میں رقیہ یعنی علاج بالکلام جھاڑ پھونک وغیرہ کی اجازت دی ہے۔“

(ف)...... معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص کو زہریلا جانور، سانپ بچھو وغیرہ کاٹ کھائے تو اس کا علاج کلام کے ذریعہ جائز ہے۔

دلیل نمبر ۶:

بخاری شریف میں ہے کہ ثابت نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو کہا کہ میں بیمار ہوں تو انہوں نے کہا کہ کیا میں تیرا علاج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے کلام سے نہ کروں؟ میں نے کہا جی ہاں پھر انہوں نے درج ذیل دعا پڑھ کر میرا علاج کیا۔

اللهم رب الناس مذهب البأس اشف انت الشافی لاشافیٌ
إلا انت شفاء لایغادر سقماً. (بخاری، ج ۲ ص: ۸۵۵)

(فائدہ)...... معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مذکورہ دعا و کلام کے ذریعہ مریضوں کا علاج فرمایا کرتے تھے اسی لئے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اس کلام کو

رقیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے یعنی آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا طریقہ علاج بذریعہ کلام حق۔

دلیل نمبر ۷:

﴿عن عائشةؓ ان النبی صلی الله علیه وسلم کان یعوّذ لبعض اهله یمسح بیده الیمنیٰ ویقول: اللهم رب الناس اذهب البأس واشفه انت الشاف لاشفاء الا شفاء ک لایغادر سقماً﴾. (بخاری، ج ۲ ص: ۸۵۵)

ترجمہ: سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض اہل کا کلام کے ذریعہ یوں علاج فرمایا کرتے تھے کہ اپنا دایاں ہاتھ بھی مریض پر پھیرتے تھے اور یہ کلام مذکورہ بالا بھی پڑھتے تھے۔

فائدہ:...... اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مریض پر ہاتھ پھیر کر مذکورہ بالا دعا و کلام کے ذریعہ علاج کیا کرتے تھے اور حدیث میں اس طریقہ علاج کو تعویذ کہا گیا ہے دیکھئے: "یعوّذ بعض اهله" کا لفظ موجود ہے۔

دلیل نمبر ۸:

﴿عن عائشةؓ ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یرقی یقول امسح البأس رب الناس بیدک الشفاء لا کاشف له الاانت﴾. (بخاری، ج ۲ ص: ۸۵۵)

ترجمہ: "سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مذکورہ بالا کلام و دعا پڑھ کر رقیہ یعنی علاج بالکلام فرمایا کرتے تھے۔"

دلیل نمبر ۹:

﴿عن عائشةؓ قالت کان النبی صلی الله علیه وسلم یقول فی الرقیة تربة ارضنا وریقة بعضنا یشفیٰ سقیمنا باذن ربنا﴾. (بخاری ج ۲، ص: ۸۵۵)

ترجمہ: سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مریض کا علاج بالکلام فرماتے وقت اپنے لعاب دہن کو مٹی سے ملا کر متاثرہ جگہ پر ہاتھ پھیرتے تھے اور مذکورہ بالا دعا و کلام پڑھتے تھے۔

دلیل نمبر ۱۰:

﴿عن عائشةؓ زوج النبی صلی الله علیه وسلم انها قالت کان اذا اشتکیٰ رسول الله صلی الله علیه وسلم رقاه جبریلؑ قال بسم الله یبریک ومن کل داء یشفیک، ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین﴾. (مسلم شریف، ج ۲ ص: ۲۱۹)

ترجمہ: "سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام مذکورہ بالا دعا و کلام پڑھ کر آپ کا علاج کرتے تھے۔"

دلیل نمبر ۱۱:

﴿عن ابی سعیدؓ ان جبریلؑ اتی النبی صلی الله علیه

وسلم فقال یا محمد! اشتکیت قال نعم قال . بسم الله ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس اوعین حاسد یشفیک بسم الله ارقیک﴾ . (مسلم جلد ۲ ص: ۲۱۹)

ترجمہ: ”حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور کہا کہ آپ کو کوئی تکلیف ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی ہاں تو جبرئیل علیہ السلام نے مذکورہ بالا دعا پڑھ کر آپ کا علاج کیا۔“

دلیل نمبر ۱۲:

﴿عن انس ؓ ان رسول الله صلی الله علیه وسلم رخص فی الرقیة من الحمة والعین والنملة﴾ . (ترمذی ج ۲ ص: ۲۷)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زہریلے جانوروں کے کاٹنے اور نظر بد اور پھوڑے کے لئے رقیہ کا علاج بالکلام کی اجازت دی۔

دلیل نمبر ۱۳:

﴿عن ابن عباس ؓ قال کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یعوذ الحسن والحسین ، یقول اعیذ کما

بکلمات الله التامة من کل شیطان وهامة ومن کل عین لامة ویقول هکذا کان ابراهیم یعوذ اسحاق واسماعیل﴾ . (ترمذی، ج ۲، ص: ۲۷)

ترجمہ: ”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کو مذکورہ بالا دعا و کلام پڑھ کر علاج بالکلام فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسحاق اور اسماعیل علیہما السلام اسی طرح کلام پڑھ کر علاج فرمایا کرتے تھے۔“

فائدہ:...... اسی حدیث میں غور فرمائیں کہ یہاں علاج بالکلام کو تعویذ کہا گیا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ علاج بالکلام کو تعویذ اور رقیہ کہتے ہیں۔

دلیل نمبر ۱۴:

﴿عن جابر ؓ قال کان لی خال یرقی من العقرب فنهی رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الرقیٰ قال فاتاه فقال: یارسول الله انک نهیت عن الرقیٰ وانا ارقی من العقرب فقال: من استطاع منکم ان ینفع اخاه فلیفعل﴾ . (مسلم ج ۲ ص: ۲۲۴)

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میرا ماموں بچھو کے کاٹے کا رقیہ یعنی علاج بالکلام کرتا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے علاج سے منع فرمایا تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی

اللہ علیہ وسلم آپ نے رقیہ سے منع فرمایا اور میں بچھو کے کاٹے کا علاج رقیہ سے کرتا ہوں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو حسب استطاعت نفع پہنچا سکتا ہے پہنچائے یعنی جس طرح سے نفع دے سکتا ہے دے۔

فائدہ:...... یہ حدیث جھاڑ پھونک اور تعویذات وغیرہ تمام طریقہائے علاج بالکلام کو عام اور شامل ہے۔

دلیل نمبر ۱۵:

﴿عن عوف بن مالک الاشجعی قال کنا نرقی فی الجاهلية فقلنا يارسول الله! كيف ترىٰ فی ذلک فقال اعرضوا علیّ رقاكم لاباس مالم يكن فيه شرک﴾ . (مسلم: ج ۲، ص: ۲۲۴)

ترجمہ: ''حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم زمانہ جاہلیت میں رقیہ یعنی کلام کے ذریعہ علاج کیا کرتے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا فرماتے ہیں۔''
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنا طریقہ علاج میرے سامنے پیش کرو جب تک اس میں شرک نہیں ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

دلیل نمبر ۱۶:

﴿عن ابی خزامة عن ابیہؓ قال: سالت رسول الله صلی الله عليه وسلم قلت يارسول الله! ارايت رقی نسترقيها ودواءً نتداوى به وتقاةً نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا قال هی من قدر الله﴾ . (ترمذی ج ۲ ص: ۲۸)

ترجمہ: ''ابوخزامہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایئے کہ ہم جو رقیہ کے ذریعے علاج کراتے ہیں یا دوائی کے ذریعے علاج کرتے ہیں یا بطور علاج کے کسی چیز سے پرہیز کرتے ہیں کیا یہ امور اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو رد کر سکتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ امور بھی تقدیر میں ہی ہیں۔''

دلیل نمبر ۱۷:

﴿عن شفاء بنت عبد الله قالت دخل علیّ النبی صلی الله عليه وسلم وانا عند حفصة فقال لی الا تعلمين رقية النملة كما علمتيها الكتابة﴾ . (ابوداؤد ج ۲ ص: ۱۸۶)

ترجمہ:۔ ''بی بی شفا بنت عبد اللہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور جبکہ میں ام المومنین بی بی حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھی تو فرمایا کہ تو نے جس طرح حفصہ کو کتاب یعنی لکھنا سکھایا اسی طرح اس کو پھوڑے کا رقیہ یعنی کلام العلاج کیوں نہیں سکھاتی؟''

دلیل نمبر ۱۸:

خارجہ بن صلت تمیمی کا چچا کہتا ہے کہ ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے واپس جا رہے تھے ہمارا گزر عرب کے ایک قبیلہ سے ہوا اس قبیلہ کا ایک شخص پاگل ہو گیا تھا جس کو انہوں نے زنجیروں سے باندھ رکھا تھا تو وہ لوگ ہمارے پاس آئے اور کہا کہ تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس سے بھلائی لے کر واپس آ رہے ہو کیا تمہارے پاس کوئی دوائی یا کلام ہے؟ ہم نے کہا جی ہاں تو وہ لوگ اپنے پاگل کو باندھ کر لائے تو میں نے تین دن صبح و شام سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اس پر پھونک ماری تو وہ ٹھیک ہو گیا اور ان لوگوں نے مجھے انعام دیا تو میں نے کہا نہیں جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

﴿كل لعمرى من اكل برقية باطل لقد اكلت برقية حق﴾ (ابوداؤد، ج ۲ ص: ۱۸۸)

ترجمہ: ”یعنی جو شخص باطل رقیہ سے کھائے تو وہ اس کے لئے وبال ہوگا اور تو نے تو حق کے رقیہ سے کھایا ہے لہٰذا تو کھالے تیرے لئے حلال و جائز ہے۔“

فائدہ:...... معلوم ہوا کہ رقیہ یعنی علاج با کلام دو قسم پر ہے ایک حق اور ایک باطل بہر حال حق حق ہے اور باطل باطل ہے، لہٰذا سب رقیہ کا ایک حکم نہیں ہے بلکہ کچھ رقیہ صحیح ہیں اور کچھ غلط۔ حق اور باطل میں فرق نہ کرنا بلکہ خلط ملط کر دینا صرف اور صرف ہوٰی پرستوں کا کام ہے ورنہ حق و باطل کا فرق تو واضح ہے۔

وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ.

دلیل نمبر ۱۹:

﴿عن عمر مولىٰ ابى اللحم قال عرضت على النبى صلى الله عليه وسلم رقية كنت ارقى بها من الجنون فامرنى ببعضها ونهانى ببعضها و كنت ارقى بالذى امرنى به رسول الله صلى الله عليه وسلم﴾.

(طحاوی ج ۲ ص: ۳۶۱)

ترجمہ: حضرت عمر مولی ابی اللحم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا رقیہ پیش کیا جس کے ذریعہ میں جنون کا علاج کیا کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بعض کلام کی اجازت دی اور بعض سے منع کر دیا تو میں اس کلام سے علاج کیا کرتا تھا جس کی مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی۔

فائدہ:...... اس روایت سے بھی صاف طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ بعض کلام کے ذریعہ علاج جائز ہے اور بعض کے ذریعہ منع ہے لہٰذا سب کا حکم ایک نہیں ہے بلکہ حکم جدا جدا ہے۔

دلیل نمبر ۲۰:

﴿عن جابر بن عبد الله ان النبى صلى الله عليه وسلم قال لاسماء بنت عميس مالى ارىٰ اجسام نبى اخى نحيفة ضارعة اتصيبهم الحاجة قالت لا ولكن العين تسرع اليهم فارقيهم قال بماذا فعرضت عليه

کلاما لا باس به فقال ارقیهم» (طحاوی ج ۲ ص: ۳۶۱)

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی اسماء بنت عمیر رضی اللہ عنہما سے پوچھا کیا ہوا ہے کہ میں اپنے بھائی (حضرت جعفر رضی اللہ عنہ) کے بیٹوں کے اجسام کو کمزور اور دبلا دیکھتا ہوں کیا ان کو فاقہ پہنچتا ہے اس نے کہا نہیں لیکن ان کو نظر بد جلد لگتی ہے اور میں کلام کے ذریعہ ان کا علاج کرتی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون سا کلام ہے؟ تو بی بی اسماء بنت عمیس فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسا کلام پیش کیا جس میں کوئی حرج نہیں تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلام کے ذریعہ تو ان کا علاج کر۔

ایک ضروری توضیح:

احادیث مبارکہ میں سے یہ بیس دلائل ہیں جن سے معلوم ہو رہا ہے کہ صحیح اور حق کلام کے ذریعہ بہت سی بیماریوں کا علاج کرنا ثابت اور جائز ہے اور ان کے علاوہ بھی بیسیوں دلائل کتب حدیث میں موجود ہیں۔ کما لا یخفیٰ علی العالم اللعاقل۔

لیکن ایک وضاحت ضروری ہے تاکہ آدمی کسی مغالطہ ڈالنے والے کے مغالطہ میں مبتلا نہ ہو جائے اور وہ مغالطہ یہ ہے کہ اکثر ھوئی پرست فرقے جو صحیح تعویذات کا انکار کرتے ہیں تو جب ان کے سامنے یہ دلائل پیش کئے جاتے ہیں کہ

رقیہ یعنی کلام حق سے بہت سے مرضوں کا علاج خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی اجازت سے ثابت ہے تو وہ لوگ یہ کہہ کر گلو خلاصی کر لیتے ہیں کہ رقیہ کا معنی جھاڑ پھونک ہے لہٰذا جھاڑ پھونک تو جائز ہے لیکن تعویذ ثابت نہیں ہے لہٰذا تعویذات کا ثبوت پیش کرو۔

درحقیقت یہ ھوئی پرستوں کا دھوکہ اور مغالطہ ہے کیونکہ اردو استعمال میں و کچھ پڑھ کر دم کرنے کو جھاڑ پھونک اور کچھ لکھ کر گلے وغیرہ میں ڈالنے کو تعویذ کہتے ہیں گویا ان ان پڑھ لوگوں نے اردو اور سرائیکی زبان سے استدلال کر کے رقیہ اور تعویذ کو دو الگ الگ چیزیں بنا کر دونوں میں تفریق کر ڈالی چنانچہ ایک جائز اور دوسرے کو ناجائز قرار دے دیا جب کہ عربی لغت کے لحاظ سے رقیہ کا لفظ ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے اور اس کے مفہوم میں جھاڑ پھونک اور تعویذات دونوں داخل ہیں اور رقیہ کا لفظ جہاں بھی حدیث اور لغت عرب میں وارد ہوا ہے اس سے ایسا کلام مراد ہے جس کے ذریعہ علاج کیا جائے خواہ پڑھ کر دم کیا جائے خواہ کسی چیز پر پڑھ کر یا دم کر کے مریض پر چھڑکا کر مریض کو کھلایا یا پلایا جائے یا کسی چیز پر پڑھ کر یا کاغذ، چمڑے وغیرہ پر لکھ کر مریض کے گلے یا بازو وغیرہ پر باندھ دیا جائے یہ سب رقیہ کا اطلاق ومصداق ہیں بہر حال ایسا کلام جس کے ذریعہ مریض کا علاج کیا جائے وہ رقیہ ہے خواہ وہ کسی صورت میں بھی ہو اور اب اس کے چند دلائل وشواہد ملاحظہ فرمائیے۔

تعویذ کے ثبوت کیلئے دلائل وشواہد

رقیہ: رُقیٰ کے مفہوم میں تعویذ شامل ہے جن احادیث میں رقیہ اور رقیٰ کی اجازت دی گئی ہے درحقیقت انہیں جائز تعویذات کی بھی اجازت ہے کیونکہ رقیہ

صرف جھاڑ پھونک یعنی دم درود کو نہیں کہتے بلکہ تعویذات وغیرہ کو بھی کہتے ہیں۔

شاہد اول:

لغت کی مشہور کتاب، مصباح اللغات میں اَلرُّقْیَۃُ کا معنی لکھا ہے الراقیہ، منتر، افسوں، تعویذ، جمع رُقیٰ ورُقْیات ورُقُیات۔ (مصباح اللغات، ص: ۳۱۰)

القاموس الجدید میں لکھا ہے، الرقیہ، جھاڑ پھونک کرنا، تعویذ گنڈا کرنا، آسیب زدہ کا اثر، زائل کرنا، مادہ۔ ر۔ ق۔ ی۔ (القاموس الجدید عربی، اردو ص ۳۵۸)

القاموس الجدید اردو۔ عربی میں لکھا ہے۔ تعویذ گنڈے کا کام کرنا۔ حرفۃ التمائم والتعاویذ والرقیہ ۔ تعویذ گنڈے کرنا۔ عمل التائم والتعاویذ. رقیٰ، رقیہ. (القاموس الجدید اردو، عربی ص ۲۷۳)

المنجد میں لکھا ہے: العوذۃُ جمع عوذ. والتعویذ جمع تعاویذ. اسمان بمعنی الرقیۃ وھی التی تکتب وتعلق علی الانسان لتقیتہ فی زعمھم من الجنون والعین۔ (المنجد، ص: ۵۳۷)

''یعنی عوذہ اور تعویذ دونوں اسم ہیں، ان کا معنی رقیہ ہے اور یہ لکھ کر آدمی کے اوپر لٹکائے جاتے ہیں تا کہ اس کو ان کے گمان کے مطابق جنون اور نظر بد سے حفاظت کرے۔''

شاہد دوم:

بخاری شریف کے حاشیہ پر لکھا ہے کہ رقیہ بمعنی تعویذ ہے۔ (بخاری ج ۲ ص ۸۵۴)

اسی طرح اوجز المسالک میں لکھا ہے رقیہ بمعنی تعویذ ہے۔ (اوجز المسالک ج ۴

ص ۳۰۱)

شاہد سوئم:

مصنف ابوبکر ابن ابی شیبہ میں روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نے اپنی بیوی کے گلے میں دھاگہ دیکھا اور وہ بیمار تھیں پوچھا یہ کیا ہے؟ بیوی نے جواب دیا کہ: شَیْءٌ رُقِیَ لِیْ فِیْہِ۔ یعنی یہ ایسی چیز ہے جس میں میرے لئے رقیہ کیا گیا ہے۔ (المصنف ابن ابی شیبہ ج ۵ ص ۴۲۷)

اسی طرح ایک واقعہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا بھی لکھا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کے بازو میں دھاگہ دیکھا، پوچھنے پر اس نے کہا: خَیْطٌ رُقِیَ لِیْ فِیْہِ. اگر چہ ان حضرات نے دھاگہ پہننے سے منع فرمایا کیونکہ ان کے نزدیک وہ ممنوع قسم کا رقیہ تھا لیکن بندہ عاجز کا استدلال تو اس چیز سے ہے کہ اس روایت میں دھاگہ کو رقیہ کہا گیا ہے جس سے معلوم ہوا کہ صرف جھاڑ پھونک کو رقیہ نہیں کہتے بلکہ اس کا مفہوم تعویذات وغیرہ کو بھی شامل ہے۔

شاہد چہارم:

فقہاء کرام نے اپنی کتابوں میں ایک جزئیہ لکھا ہے اور وہ یہ ہے:

"رقیۃ فی غلاف مجاف لم یکرہ دخول الخلاءبہ والاحتراز افضل"

یعنی اگر تعویذ کاغذ کپڑے وغیرہ میں محفوظ ہو تو اس کے ساتھ بیت الخلاء میں جانا مکروہ نہیں ہے لیکن پرہیز کرنا افضل ہے۔ اس عبارت میں رقیہ سے مراد تعویذ ہے معلوم ہوا کہ تعویذ بھی رقیہ ہے۔

شاہد پنجم:

دلیل ۷ اور دلیل ۱۳ میں حدیث کے الفاظ ہیں: یُعَوِّذُ یعنی رقیہ کو تعویذ فرمایا گیا ہے، دیکھ لیجئے۔

شاہد ششم:

دلیل ۱۴ میں مسلم شریف کی حدیث درج ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی موجود ہے کہ تم جس طریقہ سے اپنی مسلمان بھائی کو نفع پہنچا سکتے ہو پہنچاؤ اس حدیث میں بھی تعویذ وغیرہ سے نفع پہنچانے کی اجازت عام معلوم ہوتی ہے بشرطیکہ شریعت کے مطابق ہو۔

شاہد ہفتم:

علامہ ابن قیم رحمتہ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

کل ماتقدم من الرقی فان کتابته نافعة ورخص جماعة من السلف فی کتابته بعض القرآن وشربه وجعل ذلک من الشفاء الذی جعل الله فیه.

(زادالمعاد فی ہدی خیر العباد، ج ۳ ص: ۲۱۵)

ترجمہ: ’’جو رقی یعنی علاج کے کلام پہلے گزر چکے ہیں یقیناً ان کا لکھنا نفع مند ہے اور سلف صالحین کی جماعت نے قرآن لکھنے اور لکھ کر پینے کی رخصت دی ہے اور اس طریقہ علاج کو انہوں نے اس شفاء سے شمار کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھی ہے۔‘‘

قارئین کرام! یہ چند شواہد ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ رقی کا اطلاق تعویذات پر اور تعویذات کا اطلاق رقی پر ہوتا ہے لہٰذا رقی کی رخصت میں تعویذات کی بھی رخصت شامل ہے کیونکہ دونوں کلام کے ذریعے طریقہ علاج ہیں لہٰذا جھاڑ پھونک کو جائز قرار دینا اور تعویذات کو ناجائز کہنا ھویٰ پرستوں کی جہالت ہے کیونکہ علاج بالکلام کی قدر مشترک دونوں میں پائی جاتی ہے اصولی طور پر اگر جائز ہیں تو دونوں اور اگر ناجائز ہیں تو دونوں بہر حال ان میں تفریق کر کے ایک کو جائز اور ایک کو ناجائز کہنا کسی لحاظ سے درست نہیں ہے۔

تمیمہ اور تعویذ کو ایک سمجھنا حماقت ہے:

ھویٰ پرست فرقے اپنی جہالت اور حماقت کی وجہ سے جاہلیت کے تمائم اور تعویذات قرآنیہ کو ایک سمجھتے ہیں اور جن احادیث میں تمائم جاہلیت کی مذمت بیان کی گئی ہے وہی تعویذات قرآنیہ پر چسپاں کر دیتے ہیں حالانکہ تمائم تعویذات قرآنیہ کو نہیں کہتے بلکہ تمائم ان پتھروں، منکوں اور کوڑیوں کو کہتے ہیں، جنہیں زمانہ جاہلیت کے لوگ موثر بالذات اور مستقل طور پر نفع ونقصان کا مالک سمجھ کر اپنے یا اپنے بچوں کے گلے میں لٹکاتے تھے تاکہ مرض وغیرہ سے حفاظت رہے اور اس فساد عقیدہ کی وجہ سے اسلام میں اس سے منع کیا گیا ہے کیونکہ پتھروں پر یقین رکھنا اور ان کو نفع ونقصان کا مالک سمجھنا یقیناً ایک باطل نظریہ ہے جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں لہٰذا جاہلیت کے یہ تمیمہ اور تمائم غلط اور باطل ہیں لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام حق کے ذریعہ مریضوں کے دوا وعلاج کی اجازت مرحمت فرمائی ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کا علاج خود بھی کیا ہے اور اسلام میں اس قسم کے علاج کا نام تمیمہ تجویز کیا گیا ہے اور تعویذ کا لغوی معنیٰ ہے کسی کو اللہ کی پناہ میں دینا کیونکہ عامل آدمی کلام حق کے

ذریعہ مریض کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتا ہے۔

چنانچہ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

وفی المغرب وبعضهم يتوهم انّ المعاذات هی التمائم وليس كذلك انما التميمة الخرزه ولاباس بالمعاذات اذاكتب فيهاالقرآن او اسماء الله تعالیٰ ويقال رقاه الراقی رقياورقيةً اذاعوّذه ونفث فی عوذته. (ردالمحتارمع الدرالمختار، ج۵ص:۲۵۶)

ترجمہ: ''اورمغرب میں ہے کہ بعض لوگ وہم کرتے ہیں کہ تعویذات یہی تمائم ہیں حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے کیونکہ تمیمہ تو منکے کو کہتے ہیں اور تعویذات میں تو کوئی حرج نہیں جبکہ انہیں قرآن یا اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ لکھے ہوئے ہوں اور عربی محاورہ ہے جبکہ اس کو تعویذ دے اور اس کے تعویذ میں پھونک مارے۔''

اور علامہ شامی مزید لکھتے ہیں:

وفی الشلبی عن ابن الاثیر التمائم جمع تميمةوهی خزرات كانت العرب تعلقهاعلی اولادهم يتقون بها العين فی زعمهم فابطلها الاسلام ايضًا . (ص:۳۵۹)

''ترجمہ: شلبی میں ابن اثیر سے روایت ہے کہ تمائم، تمیمہ کی جمع ہے اور یہ کوڑیاں اور منکے ہیں جن کو اہل عرب اپنے بچوں کے گلوں سے لٹکاتے تھے اپنے زعم کے مطابق ان کے ذریعہ نظر بد سے حفاظت کرتے تھے تو اسلام نے اس کو باطل قرار دیا۔''

تو معلوم ہوا کہ تمیمہ اور چیز ہے جس کو اسلام نے باطل ٹھہرایا اور تعویذ اور چیز ہے جس کی اسلام میں اجازت ہے بشرطیکہ اس میں کوئی محظور شرعی نہ ہو لہذا تعویذ اور تمیمہ کو ایک سمجھنا حماقت ہے۔

قارئین کرام! آپ کو معلوم ہوگیا کہ تعویذ درحقیقت ایک قسم کا رقیہ ہے یعنی علاج بالکلام ہے اور رقیہ کے جواز پر اجماع ہے چونکہ تعویذ رقیہ میں شامل ہے لہٰذا اس کے جواز میں اختلاف کرنا اور رقیہ کے علاوہ اس کا ثبوت طلب کرنا ایک قسم کی جہالت ہے تاہم کتب احادیث میں ایسے دلائل بھی پائے جاتے ہیں جن میں گلے وغیرہ میں تعویذ لٹکانے کی تصریح موجود ہے لہٰذا مذکورہ بالا دلائل کے علاوہ چند دلائل ملاحظہ فرمایئے۔

تعویذ لٹکانے کے دلائل

دلیل نمبر۱:

عن عمروبن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلی الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات :اعوذبكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وان يحضرون .وكان عبد الله بن عمرويعلمهن من عقل من بنيه ومن لم يعقل كتبه فاعلقه عليه . (ابوداؤدج۲ص:۱۸۷، ابن ابی شیبہ ج ۵ ص:۴۳۹ ،مطبوعہ امدادیہ)

ترجمہ: ''حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈر خوف کی مذکورہ بالا دعا

سکھاتے تھے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یہ دعا اپنے سمجھدار بیٹوں کو تو زبانی یاد کراتے تھے تاکہ وہ اس کو بطور وظیفہ کے پڑھیں اور بے سمجھ بچوں کے لئے اس دعا کو لکھ کر لٹکا دیتے تھے یعنی تعویذ بنا دیتے تھے۔''

اس حدیث پر ھوئی پرستوں کا اعتراض مع الجواب:

ھوئی پرست فرقے جو جائز تعویذات کا انکار کرتے ہیں مذکورہ بالا حدیث پر یہ جرح کرتے ہیں کہ اس حدیث کا راوی محمد بن اسحاق ہے اور وہ ایسا ویسا ہے لہٰذا یہ حدیث قابل استدلال نہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ علماء اصول حدیث کے نزدیک محمد بن اسحاق کی روایت حلال وحرام اور احکام دین کے بارے میں قابل استدلال نہیں ہیں لیکن وہ نمازی اور تاریخ کا مسلم امام ہے اور اس بارے میں اس کی روایات قابل قبول ہیں اور اس روایت میں بھی ان کا یہ روایت کرنا کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما اپنے چھوٹے بچوں کے گلے وغیرہ میں تعویذ لٹکاتے تھے ایک تاریخی بات ہے لہٰذا اس حیثیت سے یہ حدیث قابل استدلال ہے اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ دم، تعویذات وغیرہ ایک دنیاوی معاملہ ہے اس کی دین میں کوئی حیثیت نہیں ہے لہٰذا امر دنیوی ہونے کی وجہ سے بھی اس کی روایت قابل استدلال ہے۔

ھوئی پرستوں کو احادیث پر جرح کا کوئی حق نہیں ہے:

کیپٹن مسعود عثمانی اور اس کے ماننے والے خواہ مخواہ حدیثوں پر جرح کر کے عوام الناس کو دھوکہ میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے یہ موضوع ہے اس کا فلاں راوی ایسا ہے اور فلاں ویسا ہے حالانکہ ان کے نزدیک علماء اسماء رجال جنہوں

نے صحت حدیث اور ضعیف وغیرہ کے اصول وضع کیے ہیں وہ سب کے سب حیات قبر کے قائل ہیں اور حیات قبر کے قائلین کو یہ لوگ کافر ومشرک بناتے ہیں اور جب ان کی منطق کی رو سے وہ لوگ کافر ومشرک ہیں تو ان کی باتوں پر کیا اعتماد ہے۔ لہٰذا ایک طرف علماء اسماء رجال کو مشرک کہنا اور دوسری طرف ان کے اقوال پیش کرنا کہ وہ حدیث ضعیف ہے اور فلاں راوی کمزور ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ ایک قسم کا دھوکہ اور تلبیس ہے ھوئی پرستوں کو تو چاہیے کہ کسی حدیث کی صحت وسقم سے قرآن وحدیث کا حوالہ پیش کریں اماموں کی بات سے ان کا کام نہیں چلے گا۔

دلیل نمبر۲:

﴿عن ابی عصمة قال سالت سعید بن المسیب عن التعویذ فقال لابأس اذا کان فی ادیم﴾. (مصنف ابوبکر بن ابی شیبہ، ج۵ ص: ۴۳۹)

ترجمہ: ''ابو عصمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے سوال کیا کہ تعویذات کا کیا حکم ہے انہوں نے فرمایا کہ جب چمڑے میں ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔''

دلیل نمبر۳:

عن عطاء فی الحائض یکون علیها التعویذ قال ان کان فی ادیم فلتنزعه وان کافی قصبة فضة فان شأت وضعته وان شأت لم تضعه. (مصنف ج۵ ص: ۴۳۹، سنن دارمی ج۱ ص: ۲۸۱)

ترجمہ: حضرت عطا رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ حائضہ

عورت پر تعویذ لٹکا ہوا ہو تو کیا حالت حیض میں اس کو اتار لیا جائے یا اس پر لٹکا رہے؟ فرمایا کہ اگر چمڑے میں ہو تو اس کو اتار دے اور اگر چاندی میں ہو تو اس کی مرضی چاہے اتارے دے اور اگر چاہے رہنے دے یعنی دونوں صورتیں جائز ہیں۔

دلیل نمبر ۴:

عن ثوير قال كان مجاهد تكتب للناس التعويذ فيعلقه عليهم. (مصنف ، ج ۵، ص: ۴۳۹)

ترجمہ: ثویرؒ سے روایت ہے کہ حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ لوگوں کے لئے تعویذ لکھتے تھے اور ان پر لٹکاتے تھے۔

دلیل نمبر ۵:

عن جعفر عن ابيه انه كان لايرى باسا ان يكتب القرآن في اديم ثم يعلقه. (مصنف ابن ابی شیبہ ج ۵ ص: ۴۳۹)

ترجمہ: ''حضرت جعفر اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ تعویذات قرآنیہ کو چمڑے میں ڈالکر گلے وغیرہ میں لٹکانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔''

دلیل نمبر ۶:

عن ابن سيرين انه كان لايرىٰ باساً بالشيء من القرآن. (مصنف ، ج ۵ ص: ۴۳۹)

ترجمہ: ''حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ تعویذات قرآنیہ

میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔''

دلیل نمبر ۷:

حدثنا ايوب انه راى في عضد عبيدالله بن عبد الله بن عمر خيطاً. (مصنف ، ج ۵ ص: ۴۳۹)

ترجمہ: ''حضرت ایوب نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بازو میں ایک دھاگہ دیکھا۔''

دلیل نمبر ۸:

﴿عن عطاء قال لاباس ان يعلق القرآن﴾. (مصنف، ج ۵ ص: ۴۴۰)

ترجمہ: ''حضرت عطاء رضی اللہ عنہ قرآن کو گلے وغیرہ میں لٹکانے کے اندر کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔''

دلیل نمبر ۹:

﴿عن يونس بن حباب قال سالت اباجعفر عن التعويذ يعلق على الصبيان فرخص فيه﴾. (مصنف ، ج ۵ ص: ۴۴۰)

ترجمہ: ''یونس بن حباب سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو جعفر رضی اللہ عنہ سے تعویذات کے بارے میں سوال کیا کہ وہ بچوں پر لٹکائے جائیں؟ تو انہوں نے اس میں رخصت دی۔''

دلیل نمبر۱۰:

عن الضحاک لم یکن یری باسا ان یعلق الرجال الشیء من کتاب اللہ اذا وضعہ عند الغسل وعند الغائط. (مصنف، ج۵ص: ۴۴۰)

ترجمہ: حضرت ضحاک رضی اللہ عنہ اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ آدمی تعویذات قرآنیہ لٹکائے جبکہ غسل اور بیت الخلاء کے وقت اسے اُتار دے۔

دلیل نمبر۱۱:

عن ابن عباسؓ قال اذاعسر علی المرأۃ ولدھا فیکتب ھاتین الآیتین والکلمات فی صحفۃ ثم تغسل فتسقیٰ منھا. "بسم اللہ لا الٰہ الاھو الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السموات السبع ورب العرش العظیم" (کانھم یوم یرونھا لم یلبثوا الاعشیۃ اوضحاھا). (کانھم یوم یرون مایوعدون لم یلبثوا الاساعۃمن نھار بلاغ فھل یھلک الا القوم الفاسقون). (مصنف، ج۵ص: ۴۳۳)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب کسی عورت پر بچے کی پیدائش مشکل ہو جائے تو مذکورہ بالا دعا اور دو آیتیں پیالے پر لکھی جائیں پھر دھو کر مریضہ کو پلائیں جائیں۔ (آسانی ہوگی)

دلیل نمبر۱۲:

عن عائشۃؓ انھا کانت لاتریٰ باساً ان یعوذفی الماء ثم یصب علی المریض. (مصنف، ج۵ص: ۴۳۳)

ترجمہ: سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتی تھیں کہ پانی میں تعویذ ڈالا جائے یا اس میں جھاڑ پھونک کی جائے پھر وہ پانی مریض پر ڈالا جائے۔

دلیل نمبر۱۳:

عن مجاھد انھمالم یریٰ باسا ان یکتب آیۃً من القرآن ثم یسقاہ صاحب الفزع. (مصنف، ج۵ص: ۴۳۴)

ترجمہ: "حضرت ابوقلابۃ اور حضرت لیث، حضرت مجاہد رحمہ اللہ عنہ سے روایت کی وجہ سے وہ دونوں اس میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے کہ آیات قرآنیہ لکھ کر ایسے مریض کو پلائی جائیں جس کو ڈر لگتا ہے۔"

دلیل نمبر۱۴:

یہ بات گزشتہ اوراق میں باحوالہ گزرچکی ہے کہ "تمیمہ" دراصل پتھر، منکے اور کوزیوں کو کہتے ہیں۔ جن کو زمانہ جاہلیت میں موثر بالذات سمجھ کر گلے وغیرہ میں لٹکاتے تھے جس کو شریعت نے ممنوع قرار دیا البتہ بعض لوگوں نے تمیمہ کے استعمال میں وسعت پیدا کردی اور تعویذات کو بھی تمائم اور تمیمہ کہنے لگے تو سید عائشہ

رضی اللہ عنہا نے وضاحت فرماتے ہوئے کہا:

> ان عائشة زوج النبی صلی اللہ علیه وسلم قالت لیست التمیمة ما علق بعد ان یقع البلاء (طحاوی ج ۲ ص: ۳۶۰)

ترجمہ: ''حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ تمیمہ وہ نہیں ہے جو مرض آنے کے بعد لٹکایا گیا یعنی جب کوئی مریض مرض میں مبتلا ہو جائے اور اس کے علاج و معالجہ کے لئے جو تعویذ گلے وغیرہ میں لٹکایا جائے اس کو تمیمہ نہیں کہیں گے جو شریعت میں ممنوع ہے بلکہ وہ تو تعویذ ہے اور تعویذ کے ذریعہ مریض کا علاج جائز اور صحیح ہے البتہ نزول بلاء سے پہلے حفظ ماتقدم کے تحت کوئی چیز گلے وغیرہ میں لٹکائی جائے۔''

دلیل نمبر ۱۵:

جھاڑ پھونک، دم درود اور تعویذات وغیرہ کلام حق کے ذریعہ علاج کے جواز پر پوری امت کا اجماع ہے اور اجماع امت بھی حجت شرعیہ ہے چنانچہ علماء اسلام فرماتے ہیں۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ علماء اسلام کا اس پر اجماع ہے کہ دم اور تعویذ تین شرطوں کے ساتھ جائز ہے۔

۱)...... اللہ تعالیٰ کے کلام یعنی قرآن سے ہوں یا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے ہوں۔

۲)...... عربی میں ہوں اور کسی عجمی زبان میں ہوں تو اس کے الفاظ کے معانی معلوم ہوں۔

۳)...... دم، تعویذ وغیرہ کرنے، کرانے والے کا یہ اعتقاد ہو کہ تعویذ میں بذاتہ کوئی تاثر نہیں بلکہ موثر حقیقی صرف اللہ تعالیٰ ہے اور یہ دم و تعویذ صرف سبب کے درجہ میں ہے۔ امام محمد رحمتہ اللہ علیہ رقیہ یعنی جھاڑ پھونک اور تعویذات کی اجازت کی روایات نقل کر کے لکھتے ہیں کہ:

> وبه ناخذ اذا کان من ذکر الله او من کتاب الله .
>
> (موطا امام محمد، ص: ۳۷۳)
>
> وهو قول ابی حنیفة . (کتاب الآثار، ص: ۲۰۱، طبع امدادیه)

''یعنی ہم اس کو لیتے ہیں کہ رقیہ یعنی دم، جھاڑ پھونک اور تعویذات وغیرہ جبکہ ذکر اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ہوں جائز ہیں اور یہی امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔''

اور امام مالک رضی اللہ عنہ کے نزدیک بھی تعویذات جائز ہیں بشرطیکہ ان میں قرآن اور اللہ تعالیٰ کے اسماء ہو لکھتے ہیں:

> قال مالک لاباس بتعلیق الکتب التی فیها اسماء الله تعالیٰ علی اعناق المرضیٰ علی وجه الترک بها .
>
> (تفسیر روح المعانی ج ۱۵ ص: ۱۱۲)

اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ خود تعویذات لکھا کرتے تھے۔ دیکھئے، بخاری شریف کے حاشیہ پر لکھا ہے:

> ﴿فیه جواز الرقیة وبه قالت الائمة الاربعة﴾ . (حاشیه بخاری، ج ۱ ص: ۳۰۴)

''یعنی رقیہ کے جواز کے ائمہ اربعہ قائل ہیں: لہٰذا علاج بالقرآن

پر اجماع امت ہے۔''

قرآن مجید جسمانی وروحانی امراض کے لئے شفاء ہے

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿وننزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة للمؤمنين﴾ .

(سورہ بنی اسرائیل، آیت ۸۱)

ترجمہ: ''اور ہم ایسی چیزیں یعنی قرآن نازل کرتے ہیں کہ وہ ایمان والوں کے حق میں تو شفاء اور رحمت ہے۔''

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ عنہ مذکورہ بالا آیت کریمہ کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

''قرآن کریم کا قلوب کے لئے شفاء ہونا شرک وکفر اور اخلاق رذیلہ اور امراض باطنہ سے نفوس کی نجات کا ذریعہ ہونا تو کھلا ہوا معاملہ ہے اور تمام امت اس پر متفق ہے اور بعض علماء کے نزدیک قرآن جس طرح امراض باطنہ کی شفاء ہے امراض ظاہرہ کی بھی شفاء ہے کہ آیت قرآن پڑھ کر مریض پر دم کرنا اور تعویذ لکھ کر گلے میں ڈالنا امراض ظاہرہ کے لئے بھی شفاء ہوتا ہے روایات حدیث اس پر شاہد ہیں تمام کتب حدیث میں ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث موجود ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت سفر میں تھی کسی گاؤں کے رئیس کو بچھو نے کاٹ لیا تھا لوگوں نے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم سے پوچھا کہ آپ کچھ اس کا علاج کر سکتے ہیں انہوں نے سات مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر

اس پر دم کیا مریض اچھا ہوگیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اس عمل کو جائز قرار دیا اسی طرح دوسری متعدد روایات حدیث سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معوذات پڑھ کر دم کرنا ثابت ہے اور صحابہ وتابعین سے معوذات اور دوسری آیات قرآن کے ذریعے مریضوں کا علاج کرنا لکھ کر گلے میں ڈالنا ثابت ہے جس کو اس آیت کے تحت میں قرطبی نے تفصیل سے لکھا۔'' (تفسیر معارف القرآن، ج۵ آیت ۸۲، ص ۵۲۲)

معلوم ہوا کہ قرآن مجید ہر قسم کی جسمانی، روحانی امراض کا علاج ہے اور امراض ظاہرہ وباطنہ کے لئے شفاء ہے بشرطیکہ یقین کامل سے عمل کیا جائے۔

ایک اور دلیل کہ قرآن شفاء ہے:

﴿عن عبداللهؓ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالشفائين العسل والقرآن﴾ .(ابن ماجه، ص: ۲۵۵)

ترجمہ: ''حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو چیزوں سے شفاء حاصل کرو ایک شہد اور دوسرا قرآن۔''

یعنی شہد بھی شفاء ہے اور قرآن بھی شفاء ہے تو معلوم ہوا کہ شہد کی طرح قرآن بھی شفاء ہے جسمانی امراض کے لئے بھی شفاء ہے اور روحانی امراض کے لئے بھی شفاء ہے قرآن شفاء ہی شفاء ہے۔

ہوئی پرستوں کا مغالطہ اور اسکا جواب:

ہوئی پرست اور فرقہ ساز مسعودیوں کے سامنے جب آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ سے ثابت کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید ہر قسم کے امراض کے لئے شفاء ہے تو جان چھڑانے کے لئے مغالطہ دیتے ہیں کہ بے شک قرآن شفاء ہے لیکن اس پر عمل کیا جائے تو شفاء ہے گلے وغیرہ میں لٹکانا تو شفا نہیں ہے جیسے اللہ تعالی نے شہد کو شفاء قرار دیا ہے لیکن شفاء تب ہے کہ شہد کھا کر استعمال کیا جائے اگر کوئی شخص شہد کا برتن گلے میں لٹکاتا پھرے تو اس کی مرض کو فائدہ نہ ہوگا اسی طرح اگر قرآن مجید کو گلے میں لٹکایا جائے تو فائدہ نہ ہوگا جب تک اس پر عمل نہ کیا جائے۔

لیکن بندہ عاجز عرض گزار ہے کہ تعویذات کے منکرین جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب قرآن پڑھ کر دم کرنے کے قائل ہیں کیونکہ بیسوں احادیث سے دم اور جھاڑ پھونک (رقیہ) ثابت ہے جن کا انکار کرنا مشکل ہے اسی لئے یہ لوگ مجبوراً جھاڑ پھونک کو تسلیم کر لیتے ہیں تو اب میرا سوال ہے کہ شہد کو اللہ تعالی اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاء کہا ہے تو اگر کوئی شخص شہد کھا کر پھونک مارے تو شفاء حاصل نہ ہوگی لہذا انہیں لوگوں کی منطق کی رو سے جھاڑ پھونک بھی ایک فضول حرکت ٹھہرے گی جب کہ یہ لوگ جھاڑ پھونک تسلیم کر چکے ہیں لہذا یہ نرا مغالطہ اور دھوکہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تعویذات اور جھاڑ پھونک موثر بالخاصہ ہیں جیسا کہ مقناطیس لوہے کو کھینچ لیتا ہے اور اس کا کھینچنا موثر بالخاصہ ہے اسی طرح تعویذات وغیرہ دفع مرض کے لئے موثر بالخاصہ ہیں اور اس بات کو اطباء بھی تسلیم کرتے ہیں۔

اصلاحات:

جھاڑ پھونک اور تعویذات وغیرہ کا کاروبار لوگوں میں بکثرت موجود ہے اور خوب چل رہا ہے اور جب کوئی کام اس طرح عام ہو جائے اور لوگوں میں پھیل جائے تو لازماً اس میں بے اصولیاں اور کوتاہیاں واقع ہو جاتی ہیں اور بہت سے ناجائز امور بھی اس میں رائج ہو جاتے ہیں اور یہی حال تعویذات وغیرہ کا ہے لہذا جو غلطیاں اور کوتاہیاں اور بے اصولیاں اس میں موجود ہیں ان کی نشاندہی کر دی جائے تاکہ سادہ لوح عوام کسی دھوکہ باز اور جعلساز کے دھوکہ اور جعلسازی میں پھنس کر اپنے دین و دنیا کا نقصان نہ کر بیٹھیں اس لئے چند امور بطور فائدے درج کئے جاتے ہیں تاکہ یہ بحث تشنۂ تکمیل نہ رہے۔

اصلاح ا:

دم درود اور تعویذات ایسے شخص سے لئے جائیں جو شریعت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا عالم، عامل، متقی اور پرہیز گار ہو، جاہل، ان پڑھ اور بدعقیدہ و بدعمل شخص سے عمل کرانا دین و دنیا کا خسارہ ہے لہذا ایسے شخص سے قطعی پرہیز ضروری ہے۔

اصلاح ۲:

تعویذات صرف اور صرف جائز مقاصد کے لئے استعمال کئے جائیں ناجائز مقاصد کیلئے تعویذ لینا اور دینا جرم اور گناہ ہے مثلاً عورت ایسے تعویذ حاصل کرتی ہے کہ میرا خاوند میرا ایسا مطیع ہو جائے کہ خود مسلوب الاختیار ہو جائے اور وہ اپنی دوسری بیوی کے ساتھ ناانصافی کرے تو ایسا تعویذ ناجائز اور حرام ہے لینے اور دینے والا دونوں مجرم اور گنہگار ہیں۔

اصلاح ۳:

جھاڑ پھونک اور تعویذات میں جادو کا استعمال قطعی طور پر حرام ہے اسی طرح ایسے تعویذات جو ایسے کلمات پر مشتمل ہوں جن میں شرک یا کفر ہو مثلاً غیر اللہ سے مدد مانگی گئی، جنات، ملائکہ یا انبیاء واولیاء سے مدد مانگی گئی تو وہ یقیناً شرک وکفر پر مشتمل ہونے کی وجہ سے شرک وکفر ہیں۔ اس طرح تعویذات وغیرہ میں ایسے غیر عربی الفاظ ہوں جن کا معنی ومطلب معلوم نہ ہو تو وہ بھی ناجائز ہیں کیونکہ ممکن ہے کہ وہ شرک وکفر پر مشتمل ہو لہذا اجتناب ضروری ہے۔ اسی طرح تعویذات کو موثر حقیقی سمجھنا اور مستقل طور پر انہیں پر نفع ونقصان کا یقین رکھنا بھی ناجائز ہے کیونکہ اس میں عقیدہ کا فساد ہے لہذا ایسے غلط یقین کی وجہ سے بھی تعویذات کا استعمال ناجائز ہو جاتا ہے کیونکہ تعویذات تو محض دوا اور علاج ہیں اور سبب کے درجے میں ہیں۔ موثر حقیقی اور مستقل طور پر نفع ونقصان کا مالک تو صرف اور صرف اللہ تعالی ہے اسی طرح منتر اور تعویذات ناپاکی کی حالت میں لکھے جاتے ہیں یا خون وغیرہ کسی ناپاک چیز سے لکھے جاتے ہیں وہ سب ناجائز ہیں الغرض کسی تعویذ میں جب بھی محظور شرعی واقع ہو گا وہ ناجائز ہی ٹھہرے گا۔

اصلاح ۴:

جن احادیث، روایات اور اقوال صحابہ و تابعین میں جھاڑ پھونک اور تعویذات کی ممانعت وارد ہوئی ہے یا ان کو شرک کہا گیا ہے یا تعویذ ودھاگے توڑنے کا ذکر ہے وہ سب کے سب ایسے قسم کے تعویذات کے متعلق ہیں جن کا اوپر ذکر ہوا ہے۔ باقی رہے تعویذات قرآنیہ اور ادعیہ ماثورہ تو ان کی اجازت صاف لفظوں میں احادیث کے اندر موجود ہے لہذا سب تعویذات کا ایک حکم نہیں ہے بلکہ جو صحیح ہیں وہ صحیح ہیں اور جو غلط ہیں، وہ غلط ہیں، حق ناحق کو ایک بنا دینا حماقت وجہالت ہے۔

ایک نظر:

قرآن مجید اور احادیث شریفہ میں شعر و شاعری کی بکثرت مذمت و ممانعت موجود ہے اور پھر دوسری نصوص سے ان کی اجازت ورخصت بھی معلوم ہوتی ہے تو علماء اسلام نے دونوں قسم کی نصوص کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ جو اشعار اچھی باتوں اور سچی کلام پر مشتمل ہیں ان کی اجازت ہے اور جو بُری کلام پر مشتمل ہیں وہ منع ہیں۔ جیسا کہ مسند ابو یعلی کی روایت میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعر ایک کلام ہے اگر اس کا مضمون اچھا اور مفید ہے تو شعر اچھا ہے اور اگر اس کا مضمون برا ہے تو شعر برا ہے۔ اسی طرح جھاڑ پھونک اور تعویذات اگر کلام حق اور صحیح پر مشتمل ہوں اور اس میں عقیدہ کا فساد بھی نہ ہو تو وہ جائز ہیں اور اگر غلط اور باطل کلام پر مشتمل ہوں یا عقیدہ کا فساد ہو تو وہ ناجائز ہیں۔

اصلاح ۵:

امام طحاوی رحمہ اللہ اور دیگر علماء اسلام فرماتے ہیں کہ شروع اسلام میں ہر قسم کے رقی یعنی جھاڑ پھونک اور تعویذات وغیرہ کی ممانعت کر دی گئی تھی لیکن کچھ عرصہ بعد کلام صحیح کے رقیہ کی اجازت دیکر ممانعت کو منسوخ کر دیا گیا ہے جبکہ دوسرے علماء اسلام کا موقف ہے کہ ممنوع قسم کے رقی ہمیشہ ممنوع رہے ہیں اور کلام حق کے رقی کی ہمیشہ سے رخصت چلی آ رہی ہے۔ بہر حال جو صورت بھی ہے کلام

حق کے رقی کی بالا تفاق رخصت و اجازت ہے خواہ شروع سے یا ممانعت کے بعد رخصت بہر حال مسلم ہے۔

اصلاح۶:

بخاری شریف کی اور دیگر کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے ستر ہزار آدمی بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی علامات بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ:

> ﴿هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون﴾. (بخاری، ج۲ص: ۸۵۶)
>
> ''یعنی وہ لوگ ہیں جو بدفالی (براشگون) نہیں لیتے، داغ نہیں لگاتے اور رقیہ کے ذریعہ علاج نہیں کرتے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔''

تو اس حدیث کے پیش نظر بعض علما نے فرمایا کہ توکل کا اعلیٰ اور اونچا درجہ یہ ہے کہ علاج بالکلام نہ کیا جائے اور افضل یہی ہے کہ اگرچہ علاج بالکلام جائز اور ثابت ہے لیکن اس کا ترک افضل ہے کیونکہ حدیث پاک میں خواص لوگوں کا یہ مقام توکل بیان کیا گیا کہ وہ رقیہ نہ کرتے ہیں نہ کراتے ہیں بلکہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں لیکن امام نووی رحمتہ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں فرمایا کہ وہ مخصوص بندے جو بغیر حساب وکتاب کے جنت میں جائیں گے وہ ناجائز قسم کے رقیہ نہیں کرتے یعنی علاج بالکلام الباطل نہیں کرتے اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ وہ رقیہ نہیں کرتے درست نہیں ہے کیونکہ علاج بالکلام الصحیح تو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے لہذا ارقیہ بطریقہ مشروعہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔''

اصلاح۷:

چونکہ اس دور میں لکھنے کا رواج بہت کم تھا بہت تھوڑے لوگ لکھنا جانتے تھے اور پھر کاغذ عام نہیں تھا بلکہ کمیاب تھا اس لئے تو قرآن مجید بھی چمڑوں اور پتھروں وغیرہ پر لکھا جاتا تھا اس لئے اس دور میں جھاڑ پھونک کا رواج تو عام تھا لیکن لکھ کر گلے میں تعویذ ڈالنے کا رواج نسبتاً کم تھا اگرچہ رقیہ کا لفظ تعویذ کو شامل تھا ہاں اردو اور سرائیکی زبان میں پڑھ کر دم کرنے کا نام جھاڑ پھونک اور لکھ کر گلے میں ڈالنے کا نام تعویذ مشہور ہو گیا ہے لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ اردو وغیرہ زبانوں کے استعمال کا اعتبار نہیں جبکہ عربی لغت کے اعتبار سے رقیہ اور رقی کا لفظ جھاڑ پھونک اور تعویذات سب کو عام اور شامل ہے۔

اصلاح۸:

صحاح ستہ وغیرہ کتب حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی صراحت کیساتھ تعویذات پر اجرت لینے اور اس کو کھانے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔

اصلاح۹:

تعویذات لینے کا عام رواج عورتوں میں ہے اور بے پردگی کا دور دورہ ہے لہذا تعویذات دینے والے عاملین حضرات پر یہ بات بطور فرض کے عائد ہوتی ہے کہ عورتوں کو پردے کی خصوصی تلقین کرتے رہا کریں عورت پیر صاحب کے سامنے بغیر پردہ کے نہ آئے اگر عورتیں پردہ پر آمادہ نہ ہوں تو پیر صاحب خود عورتوں سے پردہ کریں بہر حال پردہ لازم ہے۔

اصلاح ۱۰:

چونکہ وہی تعویذات جائز ہیں جن میں قرآنی سورتیں یا ادعیہ ماثورہ لکھی ہوتی ہوں لہٰذا تعویذات استعمال کرنے والے حضرات ان کے ادب واحترام کا خاص خیال رکھیں ناپاکی کی حالت میں اور بیت الخلاء میں احتیاط ضروری ہے اگرچہ تعویذات عموماً کپڑے وغیرہ میں محفوظ ہوتے ہیں لیکن احتیاط اچھی بات ہے۔

اصلاح ۱۱:

علماء اسلام فرماتے ہیں کہ جھاڑ پھونک اور تعویذات سے علاج بالکلام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آیات قرآنیہ اور ادعیہ ماثورہ کو یاد کرلیا جائے اور ان کو بطور وظیفہ کے پڑھا جائے نسبتاً یہ طریقہ زیادہ مفید اور افضل ہے اگرچہ وہ بھی جائز اور ثابت ہے۔

اصلاح ۱۲:

کسی کو خوامخواہ بلاوجہ ایذا پہنچانے کے لئے تعویذ لینا اور دینا حرام ہے۔

اصلاح ۱۳:

نقوش والے تعویذات کے بارے میں عاملین کا کہنا ہے کہ یہ نقش آیات قرآنیہ کے ہوتے ہیں اور ان سے وہی فائدہ حاصل ہوتا ہے جو اصل آیات قرآنیہ کا ہوتا ہے اور نقوش کا فائدہ یہ بتاتے ہیں کہ جب تعویذ میں اصل آیات لکھی جائیں تو بوجہ قرآن ہونے کے انکا احترام از حد ضروری ہو جاتا ہے اور جب آیات کی بجائے ان کے اعداد کا نقش لکھا جائے تو اس کا وہ احترام باقی نہیں رہتا جو اصل آیات کا ہے لہذا نقوش لکھے جاتے ہیں تاکہ مفاد وہی ہو اور بے ادبی کا خطرہ نہ رہے۔

اصلاح ۱۴:

بندہ عاجز تعویذات کا کام نہیں کرتا اور نہ ہی جانتا ہے لیکن عہد اول سے بزرگان دین اور اولیاء اللہ یہ کام کرتے چلے آرہے ہیں لہذا بندہ عاجز اس اجماع کو غلط قرار نہیں دے سکتا اور نہ ہی اولیاء اللہ کی تغلیط کرسکتا ہے اور نہ ہی ان پر شرک و کفر کا فتوی جڑ سکتا ہے کیونکہ یہ کام تو ھوئی پرستوں کا ہے لہذا بندہ نے قرآن وحدیث کی رو سے اس کام کے جواز اور اباحت کو ثابت کیا ہے ورنہ میرا میدان کار تو پڑھنا، پڑھانا، مطالعہ اور لکھنا، لکھانا ہے۔

اصلاح ۱۵:

تعویذات قرآنیہ اور ادعیہ ماثورہ مثلاً سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الاخلاص وغیرہ کو کسی نے شرک نہیں کہا اور نہ ہی ایسے تعویذات پر شرک اکبر کی تعریف صادق آتی ہے کیونکہ ''شرک اکبر'' تو وہی ہے کہ کسی نہ کسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں شریک ٹہرایا جائے لہذا قرآن مجید اور ادعیہ ماثورہ کے تعویذات پر، شرک اکبر کی تعریف ہرگز صادق نہیں آتی لہذا فاتحہ، سورۃ الاخلاص وغیرہ جوکہ خالص توحید پر مشتمل آیات ہیں ان کو شرک کہنا سراسر زیادتی اور شرک کی حقیقت سے ناواقفی کی دلیل ہے۔

بعض اوقات شرک کا اطلاق ایسے امور پر بھی ہوتا ہے جوکہ ایمان کے منافی نہیں ہوتے مثلاً حدیث شریف میں ریاکاری کو شرک کہا گیا ہے حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ ریاکاری خلوص واخلاص کے تو منافی ہے لیکن ایمان کے تو منافی نہیں ہے اسی طرح بعض نام ایسے ہیں جن کو علماء اسلام شرکیہ فرمادیتے ہیں مثلاً علی بخش، حسین بخش

وغیرہ۔ اگر عقیدہ کا فساد اس میں شامل نہ ہو تو یہ نام شرک نہیں ہیں بلکہ موہم شرک ہیں تو بعض دفعہ ان ناموں کو بھی شرک کہہ دیا جاتا ہے تو درحقیقت یہاں شرک اکبر مراد نہیں ہوتا جو کہ ایمان کے منافی ہے بلکہ علماء اسلام اس کو شرک اصغر کہتے ہیں اور یہ ایمان کے منافی نہیں ہے البتہ خلاف اولیٰ ہے چنانچہ بخاری شریف میں "کُفرٌ دُونَ کفرٍ، ظلمٌ دُونَ ظلمٍ" کی اصطلاح موجود ہے اسی طرح شرک دون شرک کی اصطلاح بھی علماء اسلام کے ہاں ایک مسلمہ حقیقت ہے لہذا عجلت کر کے کہیں شرک کا لفظ دیکھ کر شرک اکبر کا فتویٰ صادر کر لینا ھویٰ پرست فرقوں کا کام ہے جو شرک وکفر کی حقیقت سے نابلد ہے جبکہ علماء اسلام پوری پوری تحقیق فرماتے ہیں اور تحقیق کے بعد کسی چیز کا حکم اور حیثیت واضح فرماتے ہیں۔

اصلاح ۱۶:

آیات قرآنیہ اور ادعیہ ماثورہ کے صحیح تعویذات کو خون وغیرہ ناپاک چیزوں سے لکھنا یا ناپاکی کی حالت میں لکھنا قرآن مجید کی اہانت ہے جس میں کفر کا اندیشہ ہے لہذا ایسی باتوں سے اجتناب بہت ضروری ہے۔

ہوا پرستوں کی مغالطہ آمیزی کا جواب:

عاملین حضرات بعض اوقات کلام صحیح پڑھ کر پانی وغیرہ پر دم کر دیتے ہیں اور وہ پانی مریض کے جسم پر ڈالا جاتا ہے یا پھر اس کو پلایا جاتا ہے اور ہوئی پرست اور فرقہ ساز مسعودی گروہ اس کو بھی ناجائز بتاتا ہے اور دلیل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث پیش کرتا ہے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پینے کے دوران پانی میں پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے حالانکہ یہ بھی ان لوگوں کا دھوکہ ہے کیونکہ جن احادیث میں پانی پینے کے دوران پھونک مارنے سے منع کیا گیا ہے ان کا واضح مطلب یہ ہے کہ جب آدمی پانی پیتا ہے تو ظاہر ہے کہ سانس رک جاتا ہے اور جب پانی کا برتن منہ سے ہٹایا جاتا ہے تو اندر کی ہوا سانس خود بخود زبردستی باہر خارج ہوتا ہے تو اس سانس کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ اس رکے ہوئے سانس کو پانی کے اندر مت نکالو بلکہ پانی کے برتن کو منہ سے ہٹا کر سانس نکالو اور جس پانی پر کچھ پڑھ کر پھونک ماری جاتی ہے وہ ایسا سانس نہیں ہوتا بلکہ وہ تو مختصر پھونک ہوتی ہے جو زبان اور ہونٹوں سے نکالی جاتی ہے اور یہ پھونک یقیناً اندر سے آنے والی سانس سے قطعاً مختلف ہوتی ہے اور احادیث کے اندر اس پھونک کو نفس اور نفخ سے تعبیر کیا گیا ہے اور جو پھونک کچھ پڑھ کر ماری جاتی ہے اس کو حدیث میں نفث اور بصق سے تعبیر کیا گیا ہے چنانچہ غزوہ خندق کے موقع پر جب حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے آنے سے پہلے روٹی بھی نہ پکانا اور نہ سالن کے برتن دیگچی وغیرہ کو نہ اتارنا تو جب آپ تشریف لائے تو آٹے اور دیگچی میں پھونک مار کر لب شامل کی اور برکت کی دعا کی۔ مشکوٰۃ ص ۵۳۲۔ تو معلوم ہوا کہ پانی پیتے وقت پانی میں سانس نکالنا اور چیز ہے جو شرعاً ممنوع ہے اور کچھ پڑھ کر برکت کے لئے پھونک مارنا بالکل اور چیز ہے جس کو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لیکن ھویٰ پرستوں نے عام لوگوں کو مغالطہ میں ڈالنے کے لئے دونوں کو ایک بنا دیا حالانکہ ایسا کرنا دھوکہ بازی اور خیانت سے کم نہیں ہے لیکن اگر یہ ہوئی پرست اور فرقہ ساز لوگ ایسا نہ کریں تو ان کے خود ساختہ مذہب کی گاڑی نہیں چل سکتی اسی لئے یہ لوگ ایسی مغالطہ آمیزیوں سے اپنے مذہب کی گاڑی کو چلاتے رہتے ہیں۔

مسئلہ ۱۳:

ایصال ثواب الی الاموات

تمہید:...... علماء اسلام کا اتفاق اور اجماع ہے کہ مسلمان بندہ اپنے فوت شدہ بھائی، عزیز اور بزرگ کو جانی اور مالی عبادت کا ثواب پہنچا سکتا ہے اور زندوں کی دعا و استغفار کا موتی کو فائدہ پہنچتا ہے۔ آدمی نماز، روزہ، حج وعمرہ، تلاوت وذکر وصدقہ خیرات، قربانی وغیرہ کا ایصال ثواب کر سکتا ہے الغرض اللہ تعالی مردہ مسلمانوں تک ثواب پہنچا دیتے ہیں خواہ دعا استغفار ہو یا طعام وکلام ہو بہر حال ایصال ثواب کتاب وسنت کے روشن دلائل سے ثابت شدہ حقیقت ہے جس کا کوئی مسلمان انکاری نہیں ہے بشرطیکہ شریعت اور سنت کے مطابق ایصال ثواب کیا جائے اس کے اندر کسی قسم کی رسومات اور بدعات وخرافات کی ملاوٹ نہ کی جائے اگر ایسا کیا گیا تو وہ عبادت، عبادت ہی نہ رہے گی بلکہ بدعت کے زمرہ میں آجائے گی اسی طرح ایصال ثواب والی عبادت پُر خلوص ہونی چاہیے کیونکہ ریا کاری اور دکھاوے والی عبادت کا ثواب نہیں ملتا تو ایصال ثواب کس کا ہوگا لیکن ھوئی پرست اور فرقہ ساز مسعودی ایصال ثواب کا انکار کرتے ہیں اور آیات قرآنیہ کا ایسا غلط مطلب بیان کر کے سادہ لوح عوام کو دھوکہ دیتے ہیں کہ صرف اور صرف آدمی کو اپنا عمل فائدہ دیتا ہے اور کسی کو کسی دوسرے کا عمل فائدہ نہیں دیتا حالانکہ قرآن مجید کی کسی آیت کا مطلب نہیں ہے بلکہ یہ مطلب قرآن مجید کی دوسری تصریحات کے مخالف اور متصادم ہے اور یہی تصادم اس کے غلط ہونے کی دلیل ہے کیونکہ قرآن مجید کی آیات کے اندر کسی قسم کا ٹکراؤ اور تصادم نہیں ہے۔ دیکھئے قرآن مجید میں بکثرت آیات موجود ہیں جن میں دوسرے مسلمانوں کے لئے دعا اور استغفار کا حکم یا ترغیب موجود ہے اگر ہوئی پرستوں کا یہ اصول درست مان لیا جائے تو دوسروں کے لئے دعا واستغفار کا کیا مطلب ہے؟ اسی طرح اگر یہ اصول صحیح ہے تو نماز جنازہ والا ایک اعلیٰ عمل بھی ایک فضول سی حرکت رہ جاتی ہے کیونکہ نماز جنازہ تو زندہ مسلمان پڑھتے ہیں جس کا تمام فائدہ مردہ مسلمان کو پہنچتا ہے تو نماز جنازہ والا عمل ہی ان کے غلط مطلب کے لئے ایک برحان قاطع ہے ان ملحدین اور زنادقہ نے آیات قرآنیہ کا غلط مطلب اخذ کیا ہے کہ ایک کے عمل کا دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچتا ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ زندوں کی دعا اور استغفار اور اسی طرح ہر قسم کی عبادت کا ثواب اللہ تعالی مردوں تک پہنچا دیتے ہیں ورنہ جنازہ چہ معنی دارد؟

اب چند آیات قرآنیہ ملاحظہ فرمایئے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی دعا استغفار وغیرہ کا دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے جس سے آپ کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ ان لوگوں کا یہ اصول خود ساختہ ہے کہ ایک کے عمل کا دوسرے کو فائدہ نہیں ہوتا اور یہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جن آیات کو پڑھ کر یہ لوگ یہ اصول اخذ کرتے ہیں دراصل وہ "کلمة حق ارید بها الباطل" کی شرمناک مثال ہے۔

ایک شخص کے عمل کا دوسرے کو فائدہ ہوتا ہے

آیت نمبر ۱:

﴿وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا﴾

(سورۃ توبہ، آیت ۶۴)

ترجمہ: اور اگر جس وقت یہ لوگ اپنا نقصان کر بیٹھے تھے، اس

وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے تو ضرور اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا رحمت والا پاتے۔

فائدہ:…… اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے گناہ گار لوگوں کو ترغیب دی ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئیں اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لئے استغفار کریں تو وہ اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے یعنی اس طریقہ سے ان کی بخشش ہو جائے گی۔ اس آیت سے صاف صاف معلوم ہو رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار گنہگاروں کے لئے فائدہ مند ہے معلوم ہوا کہ ایک کے عمل سے دوسروں کو نفع ہوتا ہے جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔

آیت نمبر ۲:

﴿خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ﴾

(سورۃ التوبہ آیت: ۱۰۳)

”ترجمہ: آپ ان کے مالوں سے صدقہ لے لیجئے جس کے ذریعہ آپ ان کو پاک وصاف کر دیں گے اور ان کے لئے دعا کیجئے بلاشبہ آپ کی دعا ان کے لئے موجب اطمینان اور اللہ تعالیٰ خوب سنتے ہیں، خوب جانتے ہیں۔“

(ف)…… اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا ہے کہ ان سے صدقہ وصول فرمائیں جس کے ذریعہ ان کو طہارت و پاکی حاصل ہوگی اور ان کے حق میں دعا فرمائیں جو ان کے اطمینان کا باعث ہو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے جس کا فائدہ امت کو پہنچ رہا ہے معلوم ہوا کہ ایک عمل سے دوسروں کو فائدہ و نفع ہوتا ہے۔

آیت نمبر ۳:

﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ﴾ (سورۃ ابراھیم، آیت ۴۱)

ترجمہ: ”اے ہمارے رب ہماری مغفرت کر دیجئے اور میرے ماں باپ کی بھی اور کل مؤمنین کی بھی حساب قائم ہونے کے دن۔“

فائدہ:…… اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ اولاد کی دعا ماں باپ اور پوری امت کے لئے مفید ہے معلوم ہوا کہ ایک کے عمل کا فائدہ دوسروں کو پہنچتا ہے۔

آیت نمبر ۴:

﴿اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهٗ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا﴾ (سورۃ مؤمن، آیت: ۷)

ترجمہ: جو فرشتے کہ عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو فرشتے اس کے اردگرد ہیں وہ اپنے رب کی تسبیح وتحمید کرتے رہتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لئے استغفار کیا

کرتے ہیں۔

فائدہ:...... اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ فرشتے جو عرش اٹھانے والے ہیں اور جو اس کے گرداگرد ہیں وہ ایمان والوں کے لئے استغفار کرتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ملائکہ کے استغفار کا ایماندار لوگوں کو نفع پہنچتا ہے ورنہ استغفار کا کیا مطلب ہے اور یہ سب کو معلوم ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے لہذا ان کا یہ استغفار بامر ربی ہے۔ ثابت ہوا کہ ایک کے عمل کا دوسروں کو نفع ہوتا ہے۔

آیت نمبر۵:

﴿وَالَّذِیْنَ آمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّیَّتُهُمْ بِاِیْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ وَمَا اَلَتْنٰهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَیْءٍ﴾ (سورہ طور، آیت: ۲۱)

ترجمہ: ”اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کا ساتھ دیا ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ شامل کردینگے اور ہم ان کے عمل میں سے کوئی چیز کم نہیں کرینگے۔“

(ف)...... اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ یہ فرمارہے ہیں کہ آباواجداد کے ایمان اور عمل صالح کی برکت سے ان کی ایماندار اولاد کو ان کے برابر کردینگے اگرچہ وہ اپنے اعمال کی وجہ سے اس درجہ کے لوگ نہ تھے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو محض اپنے فضل وکرم اور اکابر کی برکت سے ان کے ساتھ شامل کردیا۔ معلوم ہوا کہ اکابر کے اعمال کا صاغر کو فائدہ پہنچا۔ ثابت ہوا کہ ایک کے عمل سے دوسروں کو نفع حاصل ہوتا ہے۔

آیت نمبر۶:

﴿وَالَّذِیْنَ جَآءُوْ مِنْ بَعْدِهِمْ یَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِیْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِیْمَانِ وَلَاتَجْعَلْ فِیْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِیْنَ آمَنُوْا رَبَّنَا اِنَّکَ رَءُوْفٌ رَّحِیْمٌ﴾

(سورۃ الحشر، آیت: ۱۰)

ترجمہ: اور ان لوگوں کا جو ان کے بعد آئے جو دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لاچکے ہیں اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ ہونے دیجئے اے ہمارے رب آپ بڑے شفیق ورحیم ہیں۔

فائدہ:...... اس آیت کریمہ میں ایمانداروں کو زبردست ترغیب دی گئی ہے کہ وہ آپ سے پہلے والے ایمانداروں کے لئے مغفرت کی دعا کیا کریں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک کی دعا سے دوسروں کو نفع پہنچتا ہے۔ لہذا ھویٰ پرستوں کا اصول غلط ہے کہ ایک کے عمل سے دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچتا، بلکہ پہنچتا ہے۔

آیت نمبر۷:

﴿رَبِّ اغْفِرْلِیْ وَلِوَالِدَیَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَیْتِیَ مُؤْمِنًا وَّلِلْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَلَاتَزِدِ الظّٰلِمِیْنَ اِلَّا تَبَارًا﴾ (سورہ جن، آیت: ۲۸)

ترجمہ: اے میرے رب مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو مومن ہونے کی حالت میں میرے گھر میں داخل ہیں ان تمام مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بخش دیجئے اور ان ظالموں کی ہلاکت اور بڑھادیجئے۔

فائدہ: ...... آیت مذکورہ میں اللہ تعالی کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے وہ اپنے لئے، اپنے ماں باپ کے لئے اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کے لئے دعا مغفرت فرما رہے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک کے عمل سے دوسروں کو نفع پہنچتا ہے لہذا ھوی پرستوں کا اصول غلط ٹھہرا کہ ایک کے عمل سے دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچتا کیونکہ قرآن مجید کی متعدد آیات سے ثابت ہو رہا ہے کہ ایک مسلمان بھائی کی دعا و استغفار سے دوسرے مسلمان بھائیوں کو فائدہ پہنچتا ہے اور دعا بھی ایک عمل ہے۔

آیت نمبر ۸:

﴿فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ .

(سورہ آل عمران، آیت: ۱۵۹)

"ترجمہ: سو آپ ان کو معاف کر دیجئے اور آپ ان کے لئے استغفار کر دیجئے اور ان سے خاص خاص باتوں میں مشورہ لیتے رہا کیجئے۔"

فائدہ: ...... اس آیت میں اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین سے درگزر فرمایئے اور ان کے لئے استغفار کیجئے، معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو نفع پہنچتا ہے اور استغفار بھی ایک عمل ہے جس سے دوسروں کو نفع ہوتا ہے۔

آیت نمبر ۹:

﴿وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِکَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ . سورہ محمد آیت: ۱۹)

ترجمہ: "آپ اپنی خطا کی معافی مانگتے رہئے اور سب مسلمان

مردوں اور سب مسلمان عورتوں کے لئے بھی۔"

(ف) ...... اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے لئے استغفار کیجئے۔ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار سے آپ کی امت کے مردوں اور عورتوں کو نفع پہنچتا ہے ورنہ استغفار کا کیا مطلب۔

آیت نمبر ۱۰:

﴿فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِّمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (سورہ النور آیت: ۶۲)

ترجمہ: "تو جب یہ لوگ اپنے کسی کام کے لئے آپ سے اجازت طلب کریں تو ان میں سے جس کے لئے چاہیں اجازت دیا کریں اور آپ ان کے لئے اللہ تعالی سے مغفرت کی دعا کیجئے بلاشبہ اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔"

(ف) ...... اس آیت میں بھی اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام علیہم اجمعین کے لئے استغفار کا حکم دیا ہے۔

قارئین کرام! آیات کثیرہ سے ثابت ہوا کہ ایک شخص کی دعا و استغفار سے دوسروں کو نفع پہنچتا ہے خود اللہ تعالی نے اس چیز کا حکم فرمایا ہے لہذا ھوی پرست مسعودیوں کا یہ اصول خود غلط ہے کہ ایک شخص کے عمل کا دوسرے کو نفع نہیں ہوتا اور یہ غلط اصول آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ کے مخالف اور متصادم ہے لہذا قرآن مجید میں ایسا کوئی اصول بیان نہیں کیا گیا بلکہ یہ اصول ان کی بناوٹ اور ذہنی اختراع ہے

اور اللہ تعالیٰ کے قرآن پر بہتان اور افتر اُ ہے۔

دعا اور دیگر اعمال میں تفریق کرنا جہالت وحماقت ہے: چونکہ قرآن مجید کی بہت سی آیات میں یہ مسئلہ بیان ہوا ہے کہ ایک شخص کی دعا واستغفار سے دوسرے مسلمانوں کو فائدہ پہنچتا ہے تو ان ہوئی پرستوں نے عوام میں یہ تاثر دینا شروع کر دیا کہ دعا کا فائدہ ہوتا ہے لیکن دوسرے اعمال کا فائدہ نہیں ہوتا حالانکہ دعا واستغفار اور دیگر اعمال مثلاً: صدقہ خیرات اور تلاوت قرآن پاک وغیرہ سب کا فائدہ اموات وغیرہ کو پہنچتا ہے اور دعا اور دیگر اعمال میں تفریق کرنا یعنی ایک سے فائدہ پہنچنے کا قائل ہونا اور دوسرے کا انکار کرنا جہالت اور حماقت ہے کیونکہ جب دعا اور استغفار کا نفع ہوتا ہے جبکہ یہ بھی ایک عمل ہے تو دوسرے اعمال کا نفع دوسروں کو کیوں نہیں ہوتا۔

ہر عمل کا دوسروں کو ثواب پہنچتا ہے:

آپ نے آیات قرآنیہ تو ملاحظہ فرمالیں اب احادیث نبویہ اور آثار صحابہ کرام علیہم اجمعین وتابعین ملاحظہ فرمائیں جن سے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ ہر قسم کی جانی اور مالی عبادات اور کلام وطعام کا ثواب اموات واحیاء سب کو پہنچ جاتا ہے۔

حدیث نمبر۱:

﴿ان عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اخبرہ ان سعد بن عبادہ الانصاری استفتیٰ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی نذر کان علی امہ فتوفیت قبل ان تقضیہ فافتاہ ان یقضیہ منہا فکانت سنۃ﴾ (بخاری ج ۲ ص: ۹۹۱، ابوداؤد ج ۲ ص: ۱۱۲، نسائی ج ۲ ص: ۱۱۴، ترمذی ج ۱ ص: ۱۸٦، موطا امام محمد، ص:

۳۲۷، صحیح ابن حبان ج ٦ ص: ۲۸۹)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بتایا کہ حضرت سعد بن عبادہ انصاری رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ پوچھا کہ ان کی والدہ پر منت لازم تھی اور وہ اپنی منت کو پورا کرنے سے پہلے وفات پا گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس کی طرف سے ادا کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ میت کے واجبات ورثاء اس کی طرف سے ادا کریں ایک سنت کی حیثیت رکھتا ہے۔

حدیث نمبر۲:

﴿ان سعد بن عبادہ اخا بنی ساعدہ توفیت امہ وھو غائب عنہا فاتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ان امی توفیت وانا غائب منہا فھل ینفعھا شیء ان تصدقت بہ عنہا قال نعم قال فانی اشھدک ان حائطی المخراف صدقۃ علیہا﴾

(بخاری ج ۱ ص: ۳۸۷، موطا امام مالک ، ص: ٦۳۸)

”ترجمہ: ۔ بنو ساعد کا بھائی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی والدہ فوت ہو گئیں وہ گھر میں موجود نہیں تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ وفات پا گئیں اور میں گھر سے غائب تھا تو اب اگر میں اس کی طرف سے کوئی چیز صدقہ

(خیرات) کروں تو کیا اس کو کچھ فائدہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اسکو تیرے صدقے خیرات کا نفع ہوگا تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول! صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میرا باغ مخراف میری ماں کے لئے صدقہ ہے۔"

حدیث نمبر۳:

﴿عن عائشۃ رضی اللہ عنہا ان امرأۃ قالت یا رسول اللہ ان امی افتلیت نفسہا و لولا ذلک لتصدقت واعطت افیجزئ ان اتصدق عنہا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعم فتصدقی عنہا﴾. (ابوداؤد، ج ۲ ص: ۴۲، نسائی ج ۲ ص: ۱۱۴، ابن ماجہ، ص: ۱۹۹، مسلم ج ۱ ص: ۳۲۴، موطا امام مالک، ص: ۶۳۸)

ترجمہ: "سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک عورت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ اچانک فوت ہوگئی ہے اور اگر وہ اچانک فوت نہ ہوتی تو صدقہ خیرات کرتی اور اللہ کے راستے میں کچھ دیتی تو اگر میں اس کی طرف سے کوئی چیز صدقہ کروں تو کیا اس کا فائدہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی ہاں تو اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر یعنی اس کو فائدہ ہوگا۔"

حدیث نمبر۴:

﴿عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رجلا قال: یا رسول اللہ ان امی توفیت افینفعہا ان تصدقت عنہا قال نعم. فان لی مخرافا و انی اشہدک انی قد تصدقت بہ عنہا﴾. (ابوداؤد، ج ۲ ص: ۴۳، نسائی، ج ۲، ص: ۱۱۴)

ترجمہ: "حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں فوت ہوگئی ہے اگر میں اس کی طرف سے صدقہ خیرات کروں تو کیا اس کو نفع پہنچے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تو اس شخص نے کہا میرا باغ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناتا ہوں کہ وہ میں نے اپنی ماں کے لئے صدقہ کر دیا۔"

حدیث نمبر۵:

﴿ان عاص بن وائل اوصیٰ ان یعتق عنہ ماۃ رقبۃ فاعتق ابنہ ہشام خمسین رقبۃ فاراد ابنہ عمرو ان یعتق عنہ الخمسین الباقیۃ فقال حتی اسئال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتیٰ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال: یارسول اللہ ان ابی اوصیٰ بعتق مائۃ رقبۃ وان ہشاما اعتق بہ خمسین وبقیت علیہ خمسون رقبۃ افاعتق عنہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ لو کان مسلما فاعتقتم عنہ او تصدقتم

عنہ او حججتم عنہ بلغہ ذلک﴾ ۔(ابو داؤد، ج ۲ ص: ۴۳)

ترجمہ: ''عاص بن وائل نے وصیت کی کہ اس کی طرف سے سو غلام آزاد کئے جائیں تو اس کے بیٹے ہشام نے پچاس غلام آزاد کر دیئے اور اس کے بیٹے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے باپ کی طرف سے بقیہ پچاس غلام آزاد کرے اور کہا کہ پہلے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لوں تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ نے سو غلام آزاد کرنے کی وصیت کی تھی اور میرے بھائی حشام نے اس کی طرف سے پچاس غلام آزاد کر دیئے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ تمہارا باپ مسلمان ہوتا اور تم اس کی طرف غلام آزاد کر دیتے یا صدقہ خیرات کرتے یا حج کرتے تو اسکو ان چیزوں کا ثواب پہنچ جاتا (چونکہ وہ غیر مسلم تھا لہٰذا اس کو ثواب نہ پہنچے گا)

حدیث نمبر ۶:

﴿عن الشريد بن السويد الثقفی قال آتيت رسول الله صلی الله عليه وسلم فقلت ان امی اوصت ان تعتق عنها رقبة وان عندی جارية نوبية افيجزئ عنی ان اعتقها عنها قال: إئتنی بها فاتيته بها فقال لها النبی

صلی الله عليه وسلم من ربک قالت الله. قال من انا! قالت انت رسول الله قال فاعتقها فانها مؤمنة﴾ ۔ (نسائی، ج ۲ ص: ۱۱۴)

ترجمہ: ''حضرت شرید بن سوید ثقفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا میری ماں نے وصیت کی تھی کہ اس کی طرف ایک گردن آزاد کی جائے اور میرے پاس ایک نوبیہ باندی ہے اگر میں وہ باندی اس کی طرف سے آزاد کر دوں تو کیا میرے لئے یہ جائز ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ باندی میرے پاس لے آ تو میں اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تیرا رب کون ہے؟ کہا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میں کون ہوں؟ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسکو آزاد کر دے کیونکہ یہ مومنہ ہے۔''

حدیث نمبر ۷:

﴿عن سعد بن عباده انه اتی النبی صلی الله عليه وسلم فقال ان امی ماتت وعليها نذر افيجزیء عنها ان اعتق عنها قال اعتق عن امک﴾ ۔(نسائی، ج ۲ ص: ۱۱۴)

ترجمہ: حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا میری ماں فوت ہوگئی ہے اور اس پر منت تھی اگر میں اس کی طرف سے غلام آزاد کردوں تو کیا اس کی طرف یہ جائز ہو جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اپنی ماں کی طرف سے غلام آزاد کردے۔

حدیث نمبر ۸:

﴿عن سعد بن عباده ان امه ماتت فقال یارسول الله! امی ماتت افاتصدق عنها قال نعم. قال فای الصدقة افضل اقال سقی الماء فتلک سقایة سعد بالمدینة﴾

(نسائی ج ۲ ص: ۱۱۵)

ترجمہ: ’’حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی ماں فوت ہوگئیں تو کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں فوت ہوگئی ہے کیا میں اس کی طرف سے صدقہ کرسکتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کہا کون سا صدقہ افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی پلانا تو یہی کنواں مدینہ میں حضرت سعد کا ہے جو انہوں نے اپنی والدہ کی ایصال ثواب کے لئے بنوایا تھا۔‘‘

حدیث نمبر ۹:

﴿عن ابی هریرة رضی الله عنه ان رجلاً قال للنبی صلی الله علیه وسلم ان ابی مات ولم یوص فهل یکفر عنه ان تصدق عنه قال نعم﴾ (مسلم ج ۲ ص:

(ابن ماجه ،ص ۱۹۹)

ترجمہ: ’’حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ میرا باپ فوت ہوگیا ہے اور کوئی وصیت نہیں کی تو اگر میں اس کی طرف سے صدقہ خیرات کروں تو کیا وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں۔‘‘

ھوئی پرست مسعودیوں کی چالاکی:

جب ان ھوئی پرستوں کے سامنے ایصال ثواب کی یہ احادیث پیش کی جاتی ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ وغیرہ دیگر صحابہ کرام علیہم اجمعین نے اپنے والدین کے لئے غلام آزاد کرنے، باغ وقف کرنے اور پانی پلانے کا ایصال ثواب کیا تو بڑی چالاکی سے کہہ دیتے ہیں کہ وہ وصیت تھی لیکن مذکورہ بالا حدیث میں صراحت کے ساتھ وصیت کی نفی کی گئی ہے لیکن پھر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایصال ثواب کی خیرات کی اجازت مرحمت فرمارہے ہیں اسی طرح بہت سی احادیث میں وصیت کا کوئی ذکر نہیں اور مذکورہ بالا حدیث میں تو خود وصیت کی نفی کی گئی ہے بہرحال وصیت ہو یا نہ ہو میت تک ثواب اللہ تعالیٰ پہنچادیتے ہیں اور وصیت کا عذر ویسے بھی غلط ہے اگر وصیت ہو تو ثواب پہنچے اور وصیت نہ ہو تو ثواب نہ پہنچے یہ خود ایک عجوبہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بہرحال ثواب پہنچ جاتا ہے جیسا کہ قرآن وحدیث سے ثابت ہے۔

حدیث نمبر ۱۰:

﴿عن عبد الرحمن بن ابی عمرة الانصاری ان امه ارادت ان توصی ثم اخرت ذلک الیٰ ان تصبح

فهلكت وقد كانت همت بان تعتق .قال عبد الرحمن فقلت للقاسم بن محمدا ينفعها ان اعتق عنها فقال القاسم ان سعد بن عباده قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان امي هلكت فهل ينفعها ان اعتق عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم﴾ .(مؤطاامام مالک، ص: ۵۴۲)

”ترجمہ: حضرت عبدالرحمٰن بن ابی عمرہ انصاری کی ماں نے مرض وفات میں وصیت کرنے کا ارادہ کیا پھر صبح تک تاخیر کر دی اور اسکا ارداہ غلام آزاد کرنے کا تھا تو بغیر وصیت کے فوت ہوگئی۔ عبدالرحمٰن نے قاسم بن محمد رضی اللہ عنہ سے پوچھا اگر میں اپنی ماں کی طرف سے غلام آزاد کردوں تو کیا اس کو نفع ہوگا تو قاسم نے کہا حضرت سعد بن عبادۃ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ میری ماں فوت ہوگئی ہے تو اگر میں اس کی طرف سے غلام آزاد کروں تو کیا اس کو نفع ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔“

حدیث نمبر ۱۱:

﴿عن يحيىٰ بن سعيد انه قال توفي عبد الرحمن بن ابي بكر نوم نامه فاعتقت عنه عائشةؓ زوج النبي صلى الله عليه وسلم رقابا كثيرة﴾ .(مؤطاامام مالک، ص: ۵۴۲، مشکوۃ، ص: ۲۹۵).

ترجمہ: ”یحییٰ بن سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہما نیند میں انتقال فرما گئے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کی طرف سے (ایصال ثواب کے لئے) بہت سے غلام آزاد کئے۔“

حدیث نمبر ۱۲:

۝عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امراة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي ماتت و عليها صوم من نذر فقال لها النبي صلى الله عليه و سلم اكنت قاضية عن امك دينالو كان عليها ؟ قالت نعم .قال فصومي عن امك ۝ .(الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان ج۲ ص: ۲۹۹)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی اور کہا کہ میری ماں فوت ہوگئی ہے اور اس پر روزوں کی منت تھی (کیا میں اس کی طرف سے منت پوری کر سکتی ہوں) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ اگر تیری ماں کے ذمہ کسی کا قرضہ ہوتا اور تو اسکی طرف سے ادا کرتی تو کیا وہ ادا ہوگا کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اپنی ماں کی طرف سے روزے رکھ لے۔“

حدیث نمبر ۱۳:

۝عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله

علیہ وسلم امر بکبش اقرن یطافی سواد ویبرک فی سواد وینظر فی سواد فاتی بہ لیقضی بہ قال یاعائشۃ ھلمی المدیۃ ثم قال اشحذھا بحجر ففعلت ثم اخذ ھا واخذ الکبش فاضجعہ ثم ذبحہ ثم قال بسم اللہ اللھم تقبل من محمد و آل محمد ومن امۃ محمد ثم ضحی بہ ٭ (رواہ مسلم، مشکوۃ، ص: ۱۲۷)

ترجمہ: سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے (قربانی کے لئے) ایک ایسے سینگ والے دنبہ کے لانے کا حکم فرمایا جو سیاہی میں چلتا ہو (یعنی اس کے پاؤں سیاہ ہوں) سیاہی میں بیٹھتا ہو (یعنی اس کا پیٹ اور سینہ سیاہ ہو) اور سیاہی میں دیکھتا ہو (یعنی اس کی آنکھوں کے گرد سیاہی ہو) چنانچہ جب آپ کے لئے قربانی کے واسطے ایسا دنبہ لایا گیا تو فرمایا کہ عائشہ! چھری لاؤ پھر فرمایا اسے پتھر پر رگڑ کر تیز کرو میں نے چھری تیز کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری لی اور دنبہ کو پکڑ کر اسے لٹایا پھر اسے ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا تو یہ دعا پڑھی یعنی اے اللہ! محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرما پھر اسے ذبح کیا۔

حدیث نمبر ۱۴:

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بھی ایک حدیث مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کو ذبح کرتے

وقت جو دعا پڑھی اس میں یہ الفاظ بھی تھے:

"عن محمد وامتہ بسم اللہ واللہ اکبر"۔

(مشکوۃ، ص: ۱۲۸ بحوالہ احمد وابوداؤد وابن ماجہ و الدارمی)

اور امام احمد، ابوداؤد اور ترمذی کے یہ الفاظ بھی ہیں:

اللھم ھذا عنی وعمن یضح من امتی۔

"یعنی اے اللہ یہ میری اور میری امت کے غریبوں کی طرف سے ہے۔"

(ف)...... مذکورہ بالا حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کے ثواب میں اپنی امت کو شامل فرمایا یعنی قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور ثواب کا حصہ امت کو بھی بخشا۔ اس قسم کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مردوں کی طرح زندوں کو بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔

حدیث نمبر ۱۵:

﴿عن حنش قال رایت علیا یضح بکبش فقلت لہ ماھذا؟ فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی ان اضحی عنہ فانا اضحی عنہ﴾۔

(مشکوۃ، ص: ۱۲۸)

ترجمہ: "حضرت حنش فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا وہ دنبہ کی قربانی کر رہے تھے میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ میری طرف سے قربانی کرنا تو میں ان کی طرف سے قربانی

کر رہا ہوں۔''

حدیث نمبر۱۶:

﴿عن ابن عباس رضی اللہ عنھماقال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقی رکبانابالروحافقال من القوم قالوا. المسلمون. فقالومن انت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرفعت الیہ امرأۃ صبیۃفقالت الھذاحج؟قال نعم ولک اجر﴾.(رواہ مسلم ،مشکوۃ ص: ۲۲۱)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روحاء کے مقام پر ایک قافلے کو ملے اور پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم مسلمان قوم ہیں پھر انہوں نے پوچھا آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کون ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں تو ایک عورت نے آپ کی طرف ایک بچی اٹھا کر پوچھا کہ کیا اس کا بھی حج ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تجھے بھی ثواب ہوگا یعنی جب تو اس کی طرف سے حج کرے گی تو اسکا حج بھی ہو جائے گا اور تجھے بھی ثواب ہوگا۔

حدیث نمبر۱۷:

﴿وعنہ قال ان امرأۃ من خثعم قالت یارسول اللہ!ان فریضۃ اللہ علی عبادۃ فی الحج ادرکت ابی شیخاً کبیرا لایثبت علی الراحلۃفاحج عنہ قال نعم وذالک فی حجۃ الوداع﴾.(متفق علیہ،مشکوۃ ص: ۲۲۱)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر قبیلہ خثعم کی ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ بہت بوڑھا ہے حتیٰ کہ سواری پر بھی نہیں بیٹھ سکتا اور اس پر حج فرض ہے کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔

حدیث نمبر۱۸:

﴿عن ابی زرین العقیلی انہ اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یارسول اللہ!ان ابی شیخ کبیر لایستطیع الحج والعمرۃ ولاالظعن قال حج عن ابیک و اعتمر﴾.(رواہ الترمذی،وابوداؤدوالنسائی.قال الترمذی ھذاحدیث حسن صحیح،مشکوۃ ص: ۲۲۲)

ترجمہ: ابی زرین عقیلی رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ بہت بوڑھا ہے وہ حج و عمرہ نہیں کر سکتا اور نہ ہی کجاوے میں بیٹھ سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اپنے باپ کی طرف سے حج اور عمرہ کر لے۔

حدیث نمبر۱۹:

﴿عن ابن عباس رضی الله عنهماقال ان رسول الله صلی الله علیه وسلم سمع رجلاً یقول لبیک عن شبرمة. قال من شبرمة. قال اخ لی اوقریب. قال احججت عن نفسک قال لاقال حج عن نفسک ثم حج عن شبرمة﴾. (رواه الشافعی وابوداؤدوابن ماجه، مشکوة، ص: ۲۲۴)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے سنا وہ کہہ رہا تھا کہ یعنی وہ شبرمہ نامی شخص کی طرف سے حج کی تلبیہ پڑھ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ شبرمہ کون ہے؟ اس نے کہا میرا بھائی ہے یا قریبی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو نے حج ادا کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اپنا حج ادا کر پھر شبرمہ کی طرف سے حج ادا کرنا۔

حدیث نمبر۲۰:

﴿عن ابن عباس رضی الله عنهماقال اتی رجل النبی صلی الله علیه وسلم فقال ان اختی نذرت ان تحج وانهاماتت فقال النبی صلی الله علیه وسلم لو کان علیها دین اکنت قاضیة قال نعم قال فاقض دین اللّٰه احق بالقضاء﴾. (متفق علیه، مشکوة، ص: ۲۲۱)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہا کہ میری بہن نے حج کرنے کی منت مانی، اور وہ حج کرنے سے پہلے فوت ہوگئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس پر قرضہ ہوتا تو کیا اس کو ادا کرتا؟ کہا ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کا قرضہ بھی ادا کر اور اللہ تعالی کا قرضہ ادائیگی کا زیادہ حقدار ہے۔

(ف)...... مذکورہ بالا پانچوں حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے کی طرف سے حج ادا کرسکتا ہے معلوم ہوا کہ ایک کے عمل سے دوسرے کو فائدہ ہوتا ہے۔

حدیث نمبر۲۱:

﴿عن ابن عمررضی الله عنهماقال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا تصدق احدکم بصدقه تطوعاًفلیجعلهاعن ابویه فیکون لهما اجرها ولاینقص من اجرها شیئا. واخرجه الدیلمی نحوه من حدیث معاویة بن جنده﴾. (تفسیرمظهری ج ۹ ص: ۱۲۸)

"ترجمہ:۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نفلی صدقہ کرے تو اس کو اپنے والدین کے لئے ایصال ثواب کردے ان کو بھی ثواب مل جائے گا اور اسکے ثواب

میں بھی کمی نہ آئے گی۔“

حدیث نمبر ۲۲:

﴿عن انس رضی اللہ عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ممن اہل بیت یموت منہم فیتصدقون عنہ بعد موتہ الااہدأ لہ جبرئیل علی طبق من نور ثم یقف علی شفر القبر فیقول یاصاحب القبر العمیق ہذہ ہدیۃ اہداہا الیک اہلک فاقبلہا فیدخل علیہ فیفرح بہا ویستبشر ویحزن جیرانہ الذین لایہدی الیہم شیء﴾۔ (رواہ الطبرانی فی الاوسط، تفسیر مظہری، ج۹ ص: ۱۲۸)

ترجمہ: ”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں (مسلمانوں) کا کوئی ایسا گھرانہ نہیں جس میں کوئی فرد فوت ہوجائے اور وہ اس کی وفات کے بعد اس کی طرف صدقہ خیرات نہ کریں مگر حضرت جبریل علیہ السلام اس صدقہ کو نوری طبق میں رکھ کر اس میت کو بطور ہدیہ کے پیش کرتے ہیں پھر قبر کے کنارے پر کھڑے ہوکر کہتے ہیں اے گہری قبر والے یہ تیرا ہدیہ ہے تیرے اہل نے تیری طرف بھیجا ہے تو اسے قبول کرلے اور وہ ہدیہ قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے اور اس کے وہ ہمسائے جن کی طرف ہدیہ نہیں بھیجا جاتا غمگین

ہوتے ہیں۔“

حدیث نمبر ۲۳:

﴿عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج عن میت فللذی حج عنہ مثل اجرہ﴾۔ (رواہ الطبرانی فی الاوسط۔ مظہری ج۹ ص: ۱۲۹)

”ترجمہ: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے میت کی طرف سے حج ادا کیا تو جس شخص نے میت کی طرف سے حج کیا اس کو بھی حج کے برابر ثواب ملے گا۔“

حدیث نمبر ۲۴:

﴿عن الحجاج بن دینار قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان البر بعد البر ان تصلی عنہا مع صلوتک وتصوم عنہا مع صیامک وتصدق عنہا مع صدقتک﴾۔ (رواہ ابن ابی شیبہ، تفسیر مظہری ج۹ ص: ۱۲۹)

ترجمہ: حضرت حجاج بن دینار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدہ کے ساتھ بھلائی کے بعد بھلائی یہ ہے کہ تو اپنی نماز کے ساتھ ان کے لئے نماز پڑھے اور اپنے روزوں کے ساتھ ان کے لئے روزے رکھے اور

اپنے صدقہ کے ساتھ ان کے لئے صدقہ کرے۔

حدیث نمبر ۲۵:

﴿عن بريدة قال كنت جالساً عند النبی صلی الله عليه وسلم اذاتته امرأة فقالت يارسول الله! انی تصدقت علی امی بجارية وانهاماتت قال وجب اجرک وردهاعليک الميراث قالت يارسول الله! انه كان عليهاصوم شهر فاصوم، عنهاقال صومی عنهاقالت انهالم تحج قط افاحج عنهاقال نعم حجی عنها﴾ (رواه مسلم، مشكوة ص: ۱۷۳)

ترجمہ: ''حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا اچانک ایک عورت آئی اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی والدہ پر ایک باندی کا صدقہ یعنی عطیہ کیا لیکن میری والدہ فوت ہوگئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرا ثواب بھی برقرار اور وہ باندی بھی وراثت میں تجھے واپس کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ایک ماہ کے روزے تھے کیا میں اس کی طرف سے روزے رکھ سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اسکی طرف سے روزے رکھ لے اس نے کہا اس پر حج بھی فرض تھا اور حج بالکل نہیں کرسکی، تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا تو اس کی طرف حج بھی کرلے۔''

حدیث نمبر ۲۶:

﴿عن عائشة رضی الله عنهاقالت: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه﴾ (متفق عليه، تفسير مظهری ج۹، ص: ۱۲۹، بخاری ج ۱ ص: ۲۶۲)

ترجمہ: ''سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فوت ہوجائے اور اس پر روزے ہوں تو اس کی طرف سے اس کا ولی روزے رکھے۔''

(ف)...... بعض علماء نے اس قسم کی روایات کو ظاہر پر محمول کرکے کہا ہے کہ مرحومین کی طرف سے فرضی نماز اور فرضی روزے ورثاء ادا کریں لیکن جو علماء اسلام نے ایسی احادیث کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ مرحوم کے جتنے روزے قضاء ہوگئے ہیں ورثاء کو چاہیے کہ فی روزے کے عوض دو سیر گندم مستحقین میں تقسیم کریں یہ ہے میت کی طرف سے روزے رکھنے کا مطلب اور یہی صورت مرحوم کے نمازوں کی ہے۔ بہرحال صورت جو بھی ہو ایک کے عمل کا دوسرے کو نفع پہنچ رہا ہے اور خود نماز اور روزے ان کے فدیہ کا ثواب میت کے لئے ثابت ہورہا ہے اور یہی ہمارا مدعٰی ہے۔

حدیث نمبر ۲۷:

﴿عن ابی هريرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم اذامات الانسان انقطع عمله الامن ثلاث، صدقة جارية، اوعلم ينتفع به، اوولد

صالح یدعو له﴾ .(رواه مسلم،مشکوة ص: ۳۲،تفسیر مظهری،ج۹ص:۱۲۷)

''ترجمہ:۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی فوت ہو جاتا ہے اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے مگر تین چیزیں ایک صدقہ جاریہ، دوسرا علم ہے اس کے بعد نفع اٹھایا جائے اور تیسری نیک اولاد جو اس کے لئے دعا مغفرت کرتی رہے۔''

حدیث نمبر ۲۸:

﴿عن ابن عباس رضی الله عنهما قال: قال النبی صلی الله علیه وسلم ما المیت فی قبره الاشبه الغریق المتغوث ینظر دعوة ملحقة من اب وام او ولد او صدیق ثقة فاذا الحقته کانت احب الیه من الدنیا ومافیها وان الله لیدخل علی القبور من دعا اهل الارض مثال الجبال وان هدیة الاحیاء الی الاموات الاستغفار لهم﴾ .(رواه البیهقی والدیلمی ، تفسیر مظهری ج۹ص:۱۲۷)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں ہے مردہ قبر میں مگر غرق ہونے والے کی مانند منتظر رہتا ہے کہ ماں باپ، اولاد یا مخلص دوست کی طرف سے اسکو دعا مل جائے اور وہ دعا اس

کے لئے دنیا و مافیا سے زیادہ محبوب ہوتی ہے اور یقیناً اللہ تعالی زمین والوں کی دعا کو پہاڑ کی مانند قبروں میں داخل فرماتے ہیں اور بے شک زندوں کا ہدیہ مردوں کے لئے استغفار کرنا۔

حدیث نمبر ۲۹:

﴿عن معقل بن یسار قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اقرأ وا سورة یٰس علی موتاکم﴾ .(رواه احمد وبوداؤد وابن ماجه،مشکوة ص: ۱۴۱ ، تفسیر مظهری ج۹ص: ۱۲۹ ، آثار السنن مترجم،ص: ۶۳۵)

ترجمہ: ''حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے موتی پر سورۃ یٰسین پڑھا کرو۔''

(ف)...... امام قرطبی فرماتے ہیں کہ جمہور علماء اسلام کے نزدیک موتی سے مراد قریب المرگ ہے اور عبدالواحد مقدسی نے کہا کہ موتی سے مراد مردے ہیں کہ ان کی قبروں پر قرآن پڑھا جائے اور محب طبری کہتے ہیں کہ دونوں صورتیں مراد ہیں یعنی قریب المرگ پر بھی سورہ یٰسین پڑھی جائے اور قبروں پر بھی سورہ یٰسین پڑھی جائے۔ بہر حال اس حدیث میں جو صورت بھی مراد لی جائے ہمارے مدعیٰ پر کوئی اثر نہیں پڑتا کیونکہ ہمارا مدعیٰ یہ ہے کہ ایک کے عمل سے دوسرے کو فائدہ ہوتا ہے یہاں سورۃ یٰسین پڑھنے والا شخص اور ہے اور اس کا فائدہ دوسرے شخص کو ہو رہا ہے خواہ وہ خود مردہ ہو یا قرب المرگ ہو بہر حال فائدہ دوسرے کو ہو رہا ہے اور یہ بات پہلے بیان ہو چکی ہے کہ ایصال ثواب زندہ کو بھی ہو سکتا ہے (اگرچہ عام) دستور مردوں کو ایصال ثواب کرنے کا ہے۔

حدیث نمبر ۳۰:

﴿عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا مات احدكم فلاتحبسوه واسرعوبه الى قبره وليقرء عند راسه فاتحة البقرة وعند رجليه بخاتمة البقرة﴾. (رواه البيهقي في شعب الايمان وقال الصحيح انه موقوف، مشكوٰة ص: ۱۴۹، آثار السنن، مترجم ص: ۲۶۹)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے تو اس کی میت کو مت روکو اور اس کو قبر کی طرف جلدی لے جاؤ اور بعد از دفن اس کے سر کی جانب سورۃ بقرہ کا اول رکوع اور پاؤں کی جانب سورۃ بقرہ کا آخری رکوع پڑھا جائے۔ امام بیہقی نے کہا کہ یہ روایت مرفوع کے بجائے صحیح یہ ہے کہ موقوف ہے۔

حدیث نمبر ۳۱:

﴿عن علي مرفوعا من مر على المقابر وقرء قل هو الله احد احد عشر مرة ووهب اجره للاموات اعطى من الاجر بعدد الاموات﴾. (رواه ابو محمد السمرقندي، تفسير مظهري ج ۹ ص: ۱۲۹)

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ حضور

اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قبرستان سے گزرا اور (سورۃ الاخلاص) گیارہ بار پڑھ کر مردوں کو ایصال ثواب کیا تو اسے مردوں کی گنتی کے برابر ثواب دیا جائے گا۔

حدیث نمبر ۳۲:

﴿عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل المقابر ثم قرء فاتحة الكتاب وقل هو الله احد، والهاكم التكاثر ثم قال اني جعلت ثواب ماقراءت من كلامك لاهل المقابر من المؤمنين والمؤمنات كانوا شفعاء له الى الله﴾. (رواه ابو القاسم سعد بن علي، تفسير مظهري ج ۹ ص: ۱۲۹)

ترجمہ: "حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص قبرستان میں داخل ہوا پھر سورۃ الفاتحہ اور قل ھو اللہ احد اور سورۃ التکاثر پڑھی اور کہا اے اللہ میں نے جو کچھ تیرا کلام پڑھا اس کا ثواب قبرستان والے مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دیا تو وہ تمام مردے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی شفاعت کریں گے۔"

حدیث نمبر ۳۳:

﴿عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دخل المقبرة فقرء يٰس حفف

الله عنهم و كان له بعدد من فيها حسنات ۞ . (اخرجه عبد العزيز الخلال بسنده. تفسير مظهری ج ۹ ص: ۱۲۹)

''ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص قبرستان میں داخل ہوا اور سورہ یٰسین پڑھی (ایصال ثواب کے لئے) تو اللہ تعالیٰ مُردوں کے عذاب میں تخفیف فرما دیتے ہیں اور ان کی گنتی کے برابر اسکو نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔''

حدیث نمبر: ۳۴

۞ **عن الشعبی كانت الانصار اذا مات لهم الميت اختلفوا الى قبره يقروء ن القرآن** ۞ . (تفسير مظهری ج ۹ ص: ۱۳۰ ، التذكره للقرطبی ص: ۹۳ ، رياض الصالحين ، ص: ۳۰۸ عن الشافعی مثله)

ترجمہ: ''امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انصار کا جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا تھا تو قرآن پڑھنے کے لئے اس کی قبر پر جایا کرتے تھے۔''

قارئین کرام! یہ ہیں چند آیات، احادیث اور آثار صحابہ و تابعین جن سے روز روشن کی طرح واضح ہو رہا ہے کہ مُردوں اور زندہ مسلمانوں کو دعا و استغفار سے نفع ہو جاتا ہے۔ نماز، روزہ، حج و عمرہ، صدقہ و خیرات، غلاموں کو آزاد کرنا اور تلاوت قرآن پاک وغیرہ جانی و مالی عبادات کا ایصال ثواب ثابت ہے اور ان سب دلائل سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایک کے عمل سے دوسرے کو فائدہ پہنچتا ہے۔ قرآن مجید کی کسی آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ ایک کے عمل سے دوسرے کو فائدہ نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ اصول خلاف قرآن اور خلاف حدیث ہونے کی وجہ سے خود مردود ہے اور نا مقبول ہے بلکہ نا معقول ہے۔

ہوئی پرستوں کا قرآن سے غلط استدلال اور اس کا ابطال

حوئی پرست اور فرقہ ساز مسعودیوں نے درج ذیل آیات سے اپنا غلط اصول ثابت کرنے کی سعی مذموم کی ہے۔

آیت نمبر ۱:

۞ **ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ ۚ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ** ۞ . (سورہ یونس، آیت: ۵۲)

ترجمہ: ''پھر ظالموں سے کہا جاوے گا کہ ہمیشہ کا عذاب چکھو تم کو تو تمہارے ہی کئے کا بدلہ ملا۔''

آیت نمبر ۲:

۞ **وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ ۚ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ** ۞ . (سورۃ النمل آیت ۹۰)

ترجمہ: اور جو شخص بدی لاوے گا تو وہ لوگ اوندھے منہ آگ میں ڈال دیئے جاویں گے تم کو تو ان ہی عملوں کی سزا دی جا رہی ہے جو تم کیا کرتے تھے۔

آیت نمبر ۳:

۞ **فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ**

تَعْمَلُوْنَ﴾. (سورہ یٰسین آیت ۵۴)

ترجمہ: ''پھر اس دن کسی شخص پر ذرا ظلم نہ ہوگا اور تم کو بس ان ہی کاموں کا بدلہ ملے گا جو تم کیا کرتے تھے۔''

آیت نمبر ۴:

﴿اِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوْا اَوْ لَا تَصْبِرُوْا ج، سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ، ط اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ﴾. (سورہ طور آیت: ۱۶)

ترجمہ: ''اس میں داخل ہو پھر خواہ صبر کرنا یا صبر نہ کرنا تمہارے حق میں دونوں برابر ہیں، جیسا تم کرتے تھے ویسا ہی بدلہ تم کو دیا جائے گا۔''

یہ چار آیتیں جن پر اللہ تعالیٰ نے کافروں، ظالموں اور مشرکوں کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ ان کو صرف اور صرف اپنے کرتوتوں اور بداعمالیوں کی سزا دی جائے گی اور ان کو صرف اپنے گناہوں کا بدلہ اور سزا دی جائے گی یعنی کسی دوسرے کے گناہوں کی سزا ان کو نہ دی جائے کیونکہ یہ تو ظلم ہے ایک کے گناہ کی سزا دوسرے کو دی جائے بہرحال اللہ تعالیٰ ظالموں کافروں کو یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ تمہیں صرف اپنے جرم کی سزا دی جائے گی تم پر ظلم ہرگز نہ ہوگا۔ جیسا کہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى﴾

''یعنی کوئی کسی کا بار نہ اٹھائے گا بلکہ ہر شخص اپنے گناہوں کا بار خود اٹھائے گا''۔

اور قرآن مجید میں ایک مقام پر خود کفار کے لفظ کی تصریح موجود ہے جس

سے صاف طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ اس آیت کا تعلق کفار سے ہے۔''

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ﴾

''یعنی واقعی کافروں کو ان کے کیے کا خوب بدلہ ملا۔

تو معلوم ہوا ان سب آیات کا تعلق کفار سے ہے نہ کہ مسلمانوں سے اور کافروں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں صرف اپنے اعمال بد کی سزا دی جائے گی دوسروں کے اعمال کی تمہیں سزا نہ دی جائے گی کیونکہ یہ تو ظلم ہے لیکن ھوئی پرستوں نے ان آیات سے یہ غلط اصول نکالا کہ ایک کے عمل کا دوسرے کو نفع نہیں ہوتا اور پھر اس غلط اصول کو بنیاد بنا کر ایصال ثواب کا انکار کر دیا حالانکہ ان آیات کا تعلق مسلمانوں کے ایصال ثواب سے قطعاً نہیں ہے۔ درحقیقت یہ ھوئی پرست اور فرقہ ساز مسعودی قرآن کے نام پر ھوئی پرستی کو ہوا دے رہے ہیں اور اسلام کے نام پر فرقہ پرستی پھیلا رہے ہیں اور یہ ھوئی پرست قرآن مجید کے نام پر الحاد اور زندقہ کی ترویج کر رہے ہیں اور یہ ھوئی پرست قرآن مجید کی تحریف سے بھی باز نہیں رہتے جیسا کہ مذکورہ بالا چار آیات میں تحریف کر کے ان کو اپنی خواہش کے مطابق بنانے کی کوشش کی ہے اور ان سب کے باوجود دعویٰ قرآن ماننے کا ہے اور اسلام اپنانے کا ہے اور کاروبار سارا کا سارا اسلام کے بھی خلاف ہے اور قرآن کے بھی خلاف ہے:

کار شیطان میکند نامش مسلمان
گر اینست مسلمان لعنت بر مسلمان

ایک اور آیت کا غلط مطلب:

ھوئی پرست فرقوں نے اپنے خود ساختہ اور پرداختہ اصول کو ثابت کرنے

کے لئے ایک اور آیت کریمہ کا غلط مطلب بیان کیا ہے اور وہ آیت یہ ہے:

﴿وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَّاَعْظَمَ اَجْرًا﴾ (سورہ مزمل آیت: ۲۰)

ترجمہ: ''اور جو نیک عمل اپنے لئے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے پاس پہنچ کر اس سے اچھا اور ثواب میں بڑا پاؤ گے۔''

قارئین کرام! اس آیت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ جو کچھ تم اپنے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر کے جاؤ گے وہ تمہارے لئے افضل اور بہتر ہے بہ نسبت اس کے کہ تم وصیت کر جاؤ کہ میرے مرنے کے بعد اتنا اتنا مال صدقہ خیرات کر دینا یا فلاں کار خیر میں لگا دینا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس آیت میں موتیٰ کے لئے ایصال ثواب کی قطعاً نفی نہیں کی گئی اس آیت سے ایصال ثواب کی نفی سمجھنا قلت تدبر اور سوئے فہم کا نتیجہ ہے اس آیت میں تو ترغیب دی گئی ہے کہ پیچھے والے کی خیرات اور صدقہ سے تمہارے لئے وہ بہتر ہے جو تم اپنے ہاتھ سے دے جاؤ گے۔ اگر آیت سے یہی مطلب لیا جائے کہ آدمی کو صرف اور صرف اپنے ہاتھ کا دیا کام آتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد جو صدقہ خیرات کیا جاتا ہے اسکا ثواب اس کو نہیں پہنچتا تو مرحومین کے لئے دعاء مغفرت اور نماز جنازہ اور ان کی وصیت کے مطابق صدقے خیرات وغیرہ سب کی نفی ہو جائے گی حالانکہ ہوئی پرست مسعودی ان امور کے قائل ہیں تو معلوم ہوا کہ اس آیت سے ایصال ثواب کی نفی قطعاً نہیں ہوتی اثبات ہے کہ پیچھے والوں کے صدقہ خیرات سے تمہارے اپنے ہاتھ کا دیا ہوا صدقہ و خیرات بہتر اور اجر و ثواب میں بڑا ہے اور جائز پیچھے والا بھی ہے۔

لَیْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰی کا جواب:

قرآن مجید کی اس آیت مذکورہ بالا سے عام آدمی کو بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو صرف اپنی محنت سعی و محنت کا ثمرہ ملتا ہے نہ کہ دوسرے کی سعی کا چنانچہ ہوئی پرست اور فرقہ ساز مسعودیوں نے اس آیت کو اپنے باطل نظریہ کی تائید میں پیش کیا حالانکہ آیت کا ظاہر معنی مراد نہیں ہے کیونکہ اگر آیت کا یہی مطلب لیا جائے کہ کسی کو کسی کے عمل کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا تو یہ مطلب بیسیوں آیات اور سینکڑوں احادیث صحیحہ کے خلاف پڑتا ہے کہ قرآن و حدیث کی نصوص قطعیہ سے یہ بات ثابت ہے کہ ایک کے عمل سے دوسروں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے حالانکہ آیات قرآنیہ میں کسی قسم کا تعارض اور ٹکراؤ نہیں ہے لہذا یہ ٹکراؤ اس مطلب کے غلط ہونے کی دلیل ہے چنانچہ علماء اسلام نے آیت مذکورہ کے کئی ایسے مطلب بیان کئے ہیں جن سے یہ تعارض رفع دفع ہو جاتا ہے چنانچہ علامہ احمد بن محمد بن اسماعیل الطحطاوی الحنفی رحمہ اللہ المتوفی ۱۲۳۱ھ نے اپنی مشہور کتاب ''حاشیۃ الطحطاوی علی مراقی الفلاح شرح نور الایضاح'' میں مسئلہ ایصال ثواب پر بحث کرتے ہوئے کتاب و سنت کی روشنی میں دلائل سے ایصال ثواب کو ثابت کیا اور آیت مذکورہ بالا کے جوابات بیان فرمائے جن سے یہ تعارض اٹھ جاتا ہے اور ایصال ثواب کے دلائل اور آیات مذکورہ اپنے اپنے محل پر محلول رہتی ہیں اور کسی قسم کا ٹکراؤ باقی نہیں رہتا اور ظاہری تعارض کی صورت میں یہی طریقہ ہے کہ تطبیق کی کوئی صورت اختیار کر لی جائے تا کہ دونوں قسم کے دلائل اپنے اپنے موقع اور محل پر محلول رہیں اور ظاہری تعارض رفع ہو جائے اب وہ جوابات ملاحظہ فرمایئے:

جواب اول:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ آیت: لَیْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَاسَعٰی۔ منسوخ ہے اور قرآن مجید کی یہ آیت: وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْھُمْ ذُرِّیَّتُھُمْ بِاِیْمَانٍ، الخ۔ اس کی ناسخ ہے کیونکہ اس دوسری آیت میں بتایا گیا ہے کہ آبا کے ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے ان کی ایماندار اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیا جائے جس سے معلوم ہو گیا کہ آباء کے عمل کا اولاد کو نفع ہوگا۔ لہذا یہ آیت اس کے لئے ناسخ ہے۔

جواب دوئم:

لَیْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَاسَعٰی۔ میں حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کی شریعت میں یہی مسئلہ تھا کہ ایک کے عمل سے دوسرے کو فائدہ نہیں ہوتا تھا لیکن شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا مسئلہ یہی ہے کہ ایک کے عمل سے دوسرے کو فائدہ پہنچتا ہے جیسا کہ آیات کثیرہ سے یہ مسئلہ ثابت ہے۔ پوری آیت ایک دفعہ پھر پڑھ لیجئے:

﴿اَمْ لَمْ یُنَبَّاْ بِمَافِیْ صُحُفِ مُوْسٰی ہ اَلَّا تَزِرُ وَازِرَۃٌ وِّزْرَ اُخْرٰی وَاَنْ لَّیْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَاسَعٰی ہ

اب اس آیت میں غور فرمائیں صاف معلوم ہو رہا ہے کہ یہ مسئلہ موسیٰ اور ابراہیم علیہم السلام کی شریعت کا ہے یہ جواب حضرت عکرمہ رحمہ اللہ نے دیا ہے۔

جواب سوئم:

حضرت ربیع بن انس اور حضرت ثعلبی رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ آیت مذکورہ میں انسان سے مراد کافر انسان ہے کیونکہ صرف اس کو ہی سعی کا ثمرہ وہ بھی حصہ دنیا

میں ملے گا اس کو کسی کی سعی و محنت کا پھل نہ ملے گا یعنی ایصال ثواب مومنین کے لئے ہوتا ہے نہ کہ کافرین کے لئے۔

جواب چہارم:

حضرت حسین بن فضل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: لَیْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَاسَعٰی۔ کے اندر عمل اللہ تعالیٰ کا بیان ہے اور جن آیات سے ایصال ثواب کا ثبوت ہوتا ہے ان میں فضل خداوندی کا بیان ہے یعنی عدل کا تقاضہ یہ ہے کہ ہر شخص کو صرف اپنی محنت کا پھل ملنا چاہیے لیکن فضل باری تعالیٰ یہ ہے کہ ایک کے عمل سے دوسروں کو نفع پہنچتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب یہی جواب حسین بن فضل نے والی خراسان عبداللہ بن طاہر کو دیا تھا تو انہوں نے خوشی میں آکر حضرت حسین کے سر کو چوم لیا تھا۔

جواب پنجم:

حضرت ابوالوارق رحمہ اللہ فرماتے ہیں آیت مذکورہ میں: اِلَّا مَاسَعٰی سے مراد اِلَّا مَانَوٰی ہے یعنی آدمی کو اپنی نیت کا ثمرہ ملتا ہے یعنی اگر وہ اپنے لئے نیت کرتا ہے تو عمل کا ثواب اسی کو ملے گا اور اگر کسی دوسرے کے لئے نیت کرتا ہے تو ثواب اُسی کو ملے گا۔

جواب ششم:

آیت مذکورہ میں: لَیْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَاسَعٰی۔ میں لام بمعنی علیٰ کے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی کو صرف اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھانا ہوگا کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا صرف اپنے عمل کی سزا بھگتے گا جیسا کہ لاتزر وازرۃ وزر

اخروی میں ہے۔ اور اسکی نظیر قرآن مجید میں موجود ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: "وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ" اس کا معنیٰ ہے عَلَيْهِمُ اللَّعْنَةُ۔ اسی طرح لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ کا مطلب لَيْسَ عَلَى الْاِنْسَانِ ہے۔

جواب ہفتم:

ابو الفرج نے اپنے شیخ زعفرانی سے یہ جواب نقل کیا ہے کہ ایماندار آدمی جب ایمان لایا اور کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا تو یہ ایمان و اسلام آدمی کی اپنی سعی ومحنت ہے جس کے سبب وہ مسلمانوں کی دعا، استغفار اور صدقہ وخیرات وغیرہ کا حقدار بنا لہٰذا مسلمان کو جو دوسرے مسلمانوں کے اعمال کا ثواب مل رہا ہے اور ثواب پہنچ رہا ہے درحقیقت یہ اس کی اپنی سعی ایمان کا ثمرہ ونتیجہ ہے۔

جواب ہشتم:

آیت مذکورہ بالا: لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى۔ کے اندر ہر قسم کے اعمال کی نفی اور حصر نہیں ہے کہ آدمی کو بجز اپنی سعی کے کسی کے عمل کا نفع نہ پہنچے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو اپنی سعی ومحنت کا ثمرہ بہت زیادہ حاصل ہوتا ہے بہ نسبت ایصال ثواب کے یعنی جتنا عظیم نفع اور بڑا ثمرہ اپنی سعی ومحنت کا ہوتا ہے اتنا ایصال ثواب کا نہیں ہوتا اگرچہ فائدہ ہوتا ہے لیکن اپنی سعی کے برابر نہیں ہوتا ہے۔ حاشیۃ الطحطاوی علی المراقی ص: ۶۲۳۔ امام طحطاوی نے یہ آٹھ جوابات یکجا جمع فرما کر لکھا ہے
(کما فی العینی علی بخاری)

جواب نہم:

علامہ ملا علی قاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ "لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَاسَعٰى" میں بتایا گیا ہے کہ انسان کسی غیر کی سعی ومحنت کا مالک نہیں بن سکتا یہ نہیں کہا گیا کہ انسان غیر کی ملک سے نفع نہیں اٹھا سکتا یعنی آیت میں کسی غیر کی سعی سے ملک کی نفی کی گئی ہے نہ کہ غیر کی چیز سے انتفاع کی نفی کی گئی ہے اور ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ بے شک غیر کی چیز کا مالک نہیں بن سکتا مالک صرف اپنی سعی ومحنت کا ہے لیکن مالک اگر اپنی مملوکہ چیز کسی کو ہبہ اور تملیک کر دے تو موہوب لہ بوجہ تملیک کے مالک بھی بن جاتا ہے اور اس سے نفع بھی اٹھا سکتا ہے۔ لہٰذا یہ آیت ایصال ثواب کے خلاف قطعاً نہیں ہے۔ (شرح فقہ اکبر ص: ۱۳۱، احکام القرآن ادریسی ج ۵، ص: ۷)

جواب دہم:

حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحبؒ نے اپنے سبق جلالین کے حوالہ سے لکھا ہے کہ ایک دن حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمٰن صاحبؒ خود ہی سبق کے درمیان فرمایا: کہ ایک رات سونے کیلئے لیٹا، تو ذہن میں آیا کہ قرآن پاک میں ہے "لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَاسَعٰى" کہ انسان کو صرف اس کی سعی کام آئے گی۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ دوسرے کی سعی وکاوش کام نہیں آئے گی، اور حدیث میں آیا ہے کہ دوسرا، دوسرے کو ایصال ثواب کرے گا تو دوسرے کو فائدہ ہوگا، دونوں میں تطبیق کی کیا صورت ہوگی؟ حل نہ ہوا تو فوراً بستر سے اٹھا اور گنگوہ پیدل روانہ ہو گیا کہ وہاں حضرت گنگوہیؒ سے معلوم کروں۔ دیوبند سے گنگوہ تیس میل ہے۔ اندھیری رات میں تن تنہا چل پڑے، حضرت مفتی عزیز الرحمٰن صاحبؒ فرماتے تھے کہ میں گنگوہ اس وقت پہنچا کہ حضرت گنگوہیؒ تہجد کیلئے وضو فرما رہے تھے۔ میں نے سلام عرض کیا، تو فرمایا کون؟ میں نے عرض کیا عزیز الرحمٰن دیوبند سے حاضر ہوا ہے۔ فرمایا کیا بات پیش آئی کہ اس رات کے وقت آئے؟ عرض کیا حضرت اشکال یہ پیش

آیا ہے کہ قرآن میں صراحت ہے "لَیۡسَ لِلۡاِنۡسَانِ اِلَّا مَا سَعٰی" اپنا ہی کیا کام آئے گا اور حدیث میں آیا ہے دوسرے کا ایصال ثواب بھی کام آتا ہے، بظاہر حدیث و قرآن میں تعارض سا معلوم ہوتا ہے، ذہن میں ٹکراؤ ہوا، حضرت گنگوہیؒ نے وضو کرتے ہوئے فرمایا: آیت قرآنی میں سعی ایمانی مراد ہے کہ آخرت میں دوسرے کا ایمان کام نہ آئے گا، اور حدیث میں سعی عملی مراد ہے کہ ایک کا عمل دوسرے کیلئے کارآمد ہوگا۔

یعنی آیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کا ایمان کسی دوسرے کو فائدہ نہیں دیتا، البتہ اعمال فائدہ دیتے ہیں یعنی ایصال ثواب ایمان کا نہیں، بلکہ اعمال کا ہوتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ ہر آدمی کو اپنا ایمان نفع دیتا ہے نہ کہ دوسروں کا اگر چہ مجھے حوالہ یاد نہیں لیکن جواب نہایت معلوم ہوتا ہے امید ہے کہ اہل علم کے ہاں اس جواب کی خوب پذیرائی ہوگی اگر چہ تمام جوابات اپنے مقام پر نہایت معقول ہیں۔ (مزید تفصیل کیلئے تفسیر مظہری، کتاب الروح، التذکرہ للقرطبی، نبراس، شرح فقہ اکبر، تفسیر معارف القرآن ادریسی اور احکام القرآن ادریسی، ومعاصر فقہ اسلامی نمبر، ص: ۸۹، ۹۰ وغیرہ کتب کا مطالعہ فرمایئے)

دوسروں کے اعمال سے نفع اٹھانا اجماعی مسئلہ ہے:

حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ نے احکام القرآن میں بیضاوی کے حاشیہ سے شیخ زادہ رحمہ اللہ کی درج ذیل عبارت نقل فرمائی ہے:

قال الشیخ تقی الدین ابو العباس رحمه الله من اعتقد ان الانسان لاینفع الا بعمله فقد خرق

الاجماع وذالک باطل فان الامة قد اجمعوا علی ان الانسان ینتفع بدعاء غیره وهو انتفاع بعمل الغیر وایضاً انه علیه الصلوة والسلام یشفع لاهل الموقف فی الحساب ثم لاهل الجنة فی دخولها ثم لاهل الکبائر فی الاخراج من النار وهذا انتفاع لسعی الغیر وایضا الملائکة یدعون ویستغفرون لمن فی الارض وایضاً اولاد المؤمنین یدخلون الجنة بعمل ابائهم وذلک انتفاع بالصدقة وبالعتق عنه بنص السنة والاجماع انتهی کلامه ملخصاً .(احکام القرآن ج ۲، ص: ۷)

ترجمہ: شیخ تقی الدین ابو العباس نے فرمایا جو شخص یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ انسان صرف اپنے عمل سے نفع اٹھاتا ہے کسی دوسرے کے عمل سے نفع نہیں اٹھاتا تو اس نے اجماع امت کو توڑ ڈالا اور یہ باطل ہے اس لئے کہ امت محمدیہ کا اس پر اجماع واتفاق ہے کہ انسان دوسرے کی دعا سے نفع اٹھاتا ہے اور یہ غیر کے عمل سے نفع اٹھانا ہی تو ہے۔ نیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر میں حساب کے لئے شفاعت فرمائیں گے پھر اہل جنت کے لئے دخول جنت کی شفاعت فرمائیں گے پھر کبائر کے مرتکبین کی آگ سے نکالنے کی شفاعت فرمائیں گے اور یہ غیر کی سعی ومحنت سے انتفاع ہے اور نیز ملائکہ زمین والوں کے لئے دعا واستغفار کرتے ہیں اور مومنین کی ایماندار

اولاد اپنے آباء کے لئے اعمال صالحہ کی وجہ سے جنت میں داخل ہونگے اور یہ بھی محض غیر کے عمل سے ہے اور اسی طرح میت صدقات اور حق غلام کے ذریعہ نص سنت اور اجماع امت نفع اٹھاتی ہے۔

مولانا کاندھلوی رحمہ اللہ مزید لکھتے ہیں:

وبالجملہ ورد فی الکتاب والسنة ماھو قطعی فی حصول الانتفاع بعمل الغیر وھو ینافی ظاھر ھذہ الآیة، فلابدمن توجیھھا لئلا یخالف الکتاب والسنة واجماع الامة (احکام القرآن، ج٦ ص۷)

ترجمہ: ''کتاب وسنت میں ایسے قطعی دلائل موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی دوسرے کے عمل سے نفع اٹھاتا ہے اور یہ آیت مذکورہ کے ظاہری مطلب کے خلاف ہے لہٰذا اس آیت کی ایسی توجیہ ضروری ہے جس سے ظاہری مطلب کتاب وسنت اور اجماع کے خلاف نہ ہو۔''

معلوم ہوا کہ غیر کے اعمال سے نفع اٹھانا ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر کتاب و سنت کی روشنی میں اجماع امت ہو چکا ہے اور اجماع بھی حجت شرعیہ ہے لہٰذا ہوٰی پرستوں کا یہ اصول کہ ایک کے عمل سے دوسرا نفع نہیں اٹھا سکتا قرآن، حدیث اور اجماع امت کے خلاف ہے۔

نصوص قرآنیہ کو ظاہر پر محمول کرنے کی حیثیت:

علماء اسلام فرماتے ہیں کہ آیات قرآنیہ کو حتی المقدور اپنے ظاہر پر محمول کیا

جائے اور خوامخواہ ان کے ظاہری مطلب سے ہٹانا بعض اوقات کسی خطرناک گمراہی کا پیش خیمہ بن سکتا ہے لیکن اگر کسی آیت کا ظاہری مطلب دیگر آیات قرآنیہ، احادیث نبویہ، اصول مسلم اور اجماع امت کے خلاف پڑتا ہے تو ایسے حالات میں اس ظاہری مطلب سے ہٹ کر ایسا مطلب لینا جو کتاب وسنت اور اجماع امت کے موافق ومطابق ہو از حد ضروری ہے تاکہ آیات قرآنیہ کے مابین ٹکراؤ اور تعارض کی صورت پیدا نہ ہو جائے، مثلاً

ایک لطیفہ:

کہتے ہیں کہ ایک ہندی عالم کی حجاز مقدس میں کسی حجازی عالم سے کسی مسئلہ میں گفتگو ہوئی دوران گفتگو ہندی عالم نے کہا کہ بعض اوقات آیات قرآنیہ کا ظاہر مطلب مراد نہیں لیا جا سکتا جبکہ حجازی عالم کا موقف یہ تھا کہ قرآن مجید کی ہر آیت کا ظاہری مطلب ہی مراد ہوگا۔ اتفاق سے وہ حجازی عالم آنکھوں سے نابینا تھا تو ہندی عالم نے یہ آیت تلاوت کی ومن کان فی ھذہ اعمی فھو فی الآخرة اعمیٰ یعنی جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ اور پوچھا کہ اب بتاؤ کہ کیا یہ آیات ظاہری مطلب پر محمول ہو سکتی؟ چنانچہ وہ حجازی عالم لاجواب اور مبہوت ہو گیا تو معلوم ہوا کہ ہمیشہ اور ہر مقام پر ظاہری معنی مراد نہیں لیا جا سکتا اور یہی حال لَیۡسَ لِلۡاِنۡسَانِ اِلَّا مَاسَعٰی۔ والی آیت کا ہے اسی لئے یہ آیت معروف عن الظاہر ہے تاکہ اسکا مطلب دیگر آیات اور احادیث کے مطابق وموافق ہو جائے۔

مشتری ہوشیار باش!

بندہ عاجز نے ایصال ثواب کی جتنی احادیث مبارکہ آپ کی خدمت

میں پیش کی ہیں وہ سب صحیح اور قابل احتجاج ہیں کیونکہ اکثر و بیشتر حدیثیں تو صحاح ستہ کی ہیں نیز ایک قسم کے مضامین کی حدیثیں ایک دوسرے کی تقویت کا باعث بنتی ہیں اور پھر ان کو تلقی بالقبول کا درجہ حاصل ہے اور ایصال ثواب پر اجماع امت مستزاد ہے۔

بہر حال اصول حدیث کی رو سے ایصال ثواب کی اور حدیثوں پر ہر قسم کی جرح مردود اور نا قابل قبول ہے اس سب کے باوجود اگر کوئی ہوئی پرست اور فرقہ ساز مسعودی ان احادیث کے بعض رواۃ پر جرح کر کے ان کو نا قابل قبول بنانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ قطعاً قابل قبول نہیں ہے کیونکہ یہ ہوئی پرست لوگ عقیدہ حیات و سماع کے قائلین کو کافر و مشرک کہتے ہیں اور علماء اصول حدیث جنہوں نے اصول حدیث وضع کئے ہیں اور راویان حدیث کے متعلق رائے قائم کی ہے وہ سب حضرات حیات قبر اور سماع موتی کے قائل تھے لہذا ایسے لوگوں کے اقوال نقل کر کے کسی حدیث کو ضعیف و کمزور بنانا مردود ہے اور جعلسازی ہے کیونکہ شریعت کے معاملے میں ایک بدعقیدہ شخص کی رائے کا کیا اعتماد ہے ہاں یہ ھوئی پرست گروہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول پیش کریں کہ انہوں نے اس حدیث کو یا اس کے کسی راوی کو ضعیف کہا ہے تب درست ہے ورنہ نہیں۔

مسئلہ:۔ ۱۴

علماء معلمین، مدرسین اور ائمہ مساجد کی تنخواہیں

تمہید:...... اسلام نظام الٰہی، عالمگیر اور معقول مذہب کا نام ہے اسی لئے ہر معقول پسند آدمی بدل و جان دین اسلام کو قبول کر لیتا ہے ورنہ یہ بات نہایت معقول ہے کہ جو لوگ دن رات دین اسلام کی خدمت میں مصروف مشغول ہیں خواہ وہ شعبہ تعلیم و تدریس ہو یا تبلیغ جہاد یا اذان و مساجد کی خدمت ہو یا امامت، خلافت ہو الغرض جو شخص ہمہ تن چوبیس گھنٹے خدمت دین میں لگا ہوا ہے اور اسی مصروفیت کی وجہ سے وہ کوئی ذریعہ معاش نہیں اپنا سکتا اور اگر وہ کوئی اور ذریعہ معاش اختیار کرتا ہے تو خدمت دین میں خلل رونما ہوتا ہے تو ضروری ہے کہ ایسے خدام دین کے لئے معاش کا انتظام کیا جائے اس کے لئے اور اس کے اہل وعیال کے لئے قوت لایموت تجویز کیا جائے تا کہ یہ لوگ دلجمعی اور اطمینان کے ساتھ اپنے شعبہ کی خدمات سرانجام دیں اور بے فکری سے دین کا کام کریں خصوصاً وہ خدام جن کے پاس سوائے تنخواہ کے کچھ بھی نہیں ہے تو ایسے خدمتگاروں کیلئے وظیفہ مقرر کرنا اس وقت ضروری ہے ورنہ بصورت دیگر دینی کاموں میں خلل واقع ہوگا۔ تعلیم تبلیغ جہاد و وغیرہ انتظامی امور کو نقصان ہوگا لہذا فرائض و واجبات کو قائم رکھنے کے لئے اور انتظام کو برقرار رکھنے کے لئے تنخواہیں مقرر کرنا بہت ہی ضروری ہے چنانچہ یہ معقول طریقہ کار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دور مبارک سے چلا آرہا ہے اور اس پر کسی معقول آدمی نے اعتراض اور نکتہ چینی نہیں کی اور نہ ہی یہ مناسب ہے اور اس معقولیت کے باوجود علماء اسلام نے تصریح فرمائی ہے کہ خدام دین کی ایک قوت لایموت کو نماز، تعلیمی، جہاد اور تبلیغ وغیرہ کا معاوضہ نہ کہا جائے بلکہ اس کو اس وقت کا اور پابندی وقت کا معاوضہ کہا جائے مثلاً ایک شخص اپنے گھر کے بچوں کو تعلیم قرآن دے کر اپنا فرض ادا کر سکتا ہے لیکن اگر اس پر یہ پابندی لگا دی گئی ہے کہ وہ فلاں مدرسہ کے طلبہ کو پڑھانے یا فلاں فلاں لوگوں کو پڑھائے تو یہ تنخواہ اسی پابندی وقت کا معاوضہ تصور ہوگی اسی طرح ایک شخص اپنے گھر کی مسجد میں نماز پڑھا سکتا ہے، درس دے سکتا ہے، جمعہ وعید پڑھا سکتا ہے لیکن اس پر یہ قید لگائی گئی ہے کہ فلاں شہر میں اور فلاں مسجد میں فلاں فلاں

وقت میں یہ کام کرتے ہیں تو اس کی تنخواہ اسی پابندی وقت کا معاوضہ سمجھی جائے گی۔

اور جب تک دنیا میں اسلامی حکومتیں قائم رہیں تو یہ قوت لایموت بیت المال کی رقم سے ادا کیا جاتا تھا۔ امیر المومنین، مبلغین، معلمین، مجاہدین اور ائمہ مساجد وغیرہ کی تنخواہیں بیت المال سے ہی ادا کی جاتی تھیں اور اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے بلکہ علماء اسلام کا ایسی تنخواہوں کے جواز پر اتفاق ہے ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین بالاتفاق اس کو جائز و حلال بتاتے چلے آرہے ہیں لیکن ھوئی پرست اور فرقہ ساز مسعودیوں نے اس اجماع امت کو توڑ ڈالا اور چند آیات قرآنیہ کا غلط مطلب بیان کر کے اور ضعیف حدیثوں کا سہارا لیکر خدام دین کی تنخواہوں کو ناجائز بنا ڈالا اور خاکم بدہن تنخواہ لینے کو دین فروشی اور حرام خوری کا نام دے دیا اور یہود و نصاری پر نازل ہونے والی آیات کو علماء اسلام اور خدام دین پر چسپاں کرنا شروع کر دیا۔ العیاذ باللہ۔ لہٰذا ایسے لوگوں کے دجل و فریب کے پردہ چاک کرنے کی غرض سے کتاب و سنت اور آثار صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رحمہم اللہ اجمعین وغیرہ کے چند دلائل آپ کی خدمت میں پیش کئے جاتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کے خدمت گاروں کی تنخواہیں جائز اور حلال ہیں خواہ بیت المال سے ہوں یا بیت المال کے نہ ہونے کی صورت میں مسلمانوں کے اجتماعی یا انفرادی مال سے ہوں بہر حال تنخواہیں جائز ہیں ان کو ناجائز کہنا درحقیقت نظام دین کو ناکام کرنے کی ایک سازش ہے کیونکہ جب دین بڑھانے والوں کی تنخواہوں کو ناجائز کہہ کر روک دیا جائے گا تو جن لوگوں کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے وہ مجبوراً یہ کام چھوڑ کر اپنا کوئی دوسرا ذریعہ معاش اپنائیں گے اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ دینی تعلیم کم بلکہ بند ہو جائے گی تو معلوم ہوا کہ ھوئی پرستوں کا یہ منصوبہ ہے کہ اسی طریقہ سے دینی تعلیم کو بند کیا جائے

تاکہ لوگ دین سے دور رہ کر ہمارے پیروکار بن جائیں اور دین کے نام پر دین سے قرآن کے نام پر قرآن سے اسلام کے نام پر اسلام اور توحید کے نام پر توحید سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ یہ ہے بے دین اور لامذہب مسعودیوں کی ایک چال اور سازش جس میں بہت سے لوگ پھنس چکے ہیں اور الحاد و زندقہ کا شکار ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ھوئی پرستوں کے وساوس اور شرور سے ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے آمین ثم آمین اور اب دلائل:

دلیل نمبر۱:

اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا، الآية﴾. (سورۃ التوبہ آیت ۶۰)

"ترجمہ: صدقات تو صرف حق ہے غریبوں کا اور محتاجوں کا اور جو کارکن ان صدقات پر متعین ہیں۔"

(ف)...... اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مال زکوۃ کے آٹھ مصارف بیان فرمائے ہیں ان میں ایک مصرف "اَلْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا" یعنی زکوۃ کو وصول کرنے والے کارکن بھی ہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ زکوۃ کی وصولی ایک عبادت ہے اور اس عبادت کو سرانجام دینے والے حضرات کے لئے اللہ تعالیٰ نے زکوۃ میں حصہ مقرر فرمایا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ زکوۃ کی وصولی کا معاوضہ ہے اور تنخواہ ہے اور عاملین کے لفظ سے مستفاد ہوتا ہے کہ جو لوگ دین کے کسی شعبے میں کارکن ہیں وہ بحیثیت عامل ہونے کے معاوضہ کے حقدار ہیں خصوصاً جبکہ وہ خدمت دین میں ایسے مصروف ہیں کہ وہ کوئی دوسرا ذریعہ معاش نہیں اپنا سکتے اور ان کا اپنا ذاتی کوئی ذریعہ معاش بھی نہیں چنانچہ

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ امام قرطبی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ۔

تحت الآیۃ المذکورۃ:

> ''امام قرطبیؒ نے اپنی تفسیر میں اس کے متعلق فرمایا ہے کہ جو عبادات فرض یا واجب عین ہیں، ان پر اجرت لینا مطلقاً حرام ہے۔ لیکن جو فرض کفایہ ہیں ان پر کوئی معاوضہ لینا اسی آیت کی رو سے جائز ہے۔ فرض کفایہ کے معنی یہ ہیں کہ ایک کام پوری امت یا پورے شہر کے ذمہ فرض کیا گیا ہے مگر یہ لازم نہیں کہ سب ہی اس کو کریں۔ اگر بعض لوگ ادا کرلیں تو سب سبکدوش ہو جاتے ہیں البتہ اگر کوئی بھی نہ کرے تو سب گنہگار ہوتے ہیں۔ امام قرطبی نے فرمایا کہ اسی آیت سے ثابت ہوا کہ امامت وخطابت کا معاوضہ لینا بھی جائز ہے کیونکہ وہ بھی واجب علی العین نہیں بلکہ واجب علی الکفایہ ہیں انتہی۔ اسی طرح تعلیم قرآن وحدیث اور دوسرے دینی علوم کا بھی یہی حال ہے کہ یہ سب کام پوری امت کے ذمہ فرض کفایہ ہیں اگر بعض لوگ کرلیں تو سب سبکدوش ہوجاتے ہیں اس لئے اگر اس پر کوئی معاوضہ اور تنخواہ لی جائے تو وہ بھی جائز ہے۔ (معارف القرآن ج ۲ص ۳۰۰)

حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ جو دینی کام فرض عین ہیں اس پر تنخواہ لینا جائز نہیں مثلاً نماز، روزے کا معاوضہ ناجائز ہے اور جو امور فرض کفایہ ہیں مثلاً امامت، وخطابت اور تعلیم القرآن وحدیث تو ایسے امور اگر بلا تنخواہ سرانجام نہیں دیئے جاسکتے تو ان کو قائم کرنے کے لئے تنخواہ لینا اور

دینا دونوں جائز ہیں۔

دلیل نمبر۲:

اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں:

وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ج وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ط (سورۃ النساء، آیت ۶)

ترجمہ: ''اور جو شخص مستغنی ہو سو وہ تو اپنے کو بالکل بچائے اور جو شخص حاجتمند ہو تو وہ مناسب مقدار سے کھالے۔''

اس آیت سے واضح طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ جو شخص کسی یتیم بچے کی کفالت وتولیت کرتا ہے اس کی اس کے مال کی نگرانی کرتا ہے اور اس کا اپنا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے اور نہ ہی یتیم کی کفالت سے اس کا وقت بچتا ہے تو اس کو یتیم کے مال سے باقاعدہ تنخواہ لینا جائز ہے البتہ اگر اس کا کوئی اور ذریعہ معاش ہے تو وہ خوانخواہ یتیم کا مال نہ کھائے چنانچہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

> ''آیت کے سابق سے ایک فقہی ضابطہ اور اصول معلوم ہوگیا کہ جو لوگ اوقاف کے نگران ہیں یا مساجد و مدارس کے منتظم ہیں یا مسلم حکومتوں کے اداروں کے ذمہ دار ہیں یا ایسی ہی دوسری ملکی اور ملی خدمات جن کا انجام دینا فرض کفایہ ہے ان پر مامور ہیں ان حضرات کے لئے بھی اعلیٰ اور افضل یہ ہے کہ اگر اپنے پاس اتنا اثاثہ ہو اور وہ اپنے بچوں کے ضروری اخراجات پورے کرسکتے ہوں تو ان اداروں سے اور حکومت کے بیت المال سے کچھ بھی نہ لیں لیکن اگر اپنے پاس گزارہ

کے لئے مال موجود نہ ہو اور کسب کے اوقات ان کاموں میں مشغول ہو جائے ہوں تو بقدر ضرورت ان اداروں سے مال لے لینے کا اختیار ہے مگر قدر ضرورت کا لفظ پیش نظر رہے۔"

(تفسیر معارف القرآن ج ۲ ص ۳۰۶)

قارئین کرام! یتیم کی کفالت اور تولیت بہت بڑی عبادت ہے اور نیکی ہے لیکن بوقت ضرورت اس کی تنخواہ کو اللہ تعالیٰ نے جائز فرمایا ہے بلکہ اجازت رخصت دی ہے۔

دلیل نمبر ۳:

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿فَجَآءَتْهُ اِحْدٰهُمَا تَمْشِیْ عَلَی اسْتِحْیَآءٍ، قَالَتْ اِنَّ اَبِیْ یَدْعُوْکَ لِیَجْزِیَکَ اَجْرَ مَا سَقَیْتَ لَنَا ط (سورۃ القصص، آیت ۲۵)

ترجمہ: "موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک لڑکی آئی کہ شرماتی ہوئی چلتی تھی کہنے لگی کہ میرے والد تم کو بلاتے ہیں تاکہ تم کو اس کا صلہ دیں جو تم نے ہماری خاطر پانی پلا دیا تھا۔"

مطلب یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام ملک مصر سے ہجرت کر کے مدین کے کنویں پر پہنچے تو دو عورتوں کو دیکھا کہ بکریوں کو پانی پلانے کے لئے لائی ہیں مگر ان کو لوگوں کے ہجوم کے سبب موقع نہیں مل رہا تھا تو ان سے حال دریافت کیا چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ان پر رحم کھا کر کنویں سے پانی نکال کر ان کی بکریوں کو سیراب کر دیا اور وہ عورتیں اپنے وقت مقررہ سے پہلے جلدی گھر پہنچ گئیں تو ان کے والد صاحب نے

دریافت کیا لڑکیوں نے پورا واقعہ بتلایا والد نے چاہا کہ اس شخص نے احسان کیا ہے اس کی مکافات کرنا چاہیے اسی لئے ان لڑکیوں میں سے ایک کو ان کے بلانے کے لئے بھیجا یہ حیا کے ساتھ چلتی ہوئی پہنچی اور کہا کہ میرے والد تجھے بلاتے ہیں تاکہ آپ کو اس حسن سلوک اور احسان کی اجرت دیں۔ الفاظ قرآنی پر ذرا نظر ڈالیں: "اجر ما سقیت" میں اس احسان کے بدلہ کو اجرت سے تعبیر کیا جا رہا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ مسافر اور ضرورت مند تھے اس لئے ان کے لئے اجرت بالکل جائز تھی اور یہ اجرت دینے والے بھی اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام تھے اور لینے والے بھی اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام تھے اور واقعہ کو بیان کرنے والے خود اللہ تعالیٰ ہیں اور قرآن نے اس کی تردید بھی نہیں کی۔ لہذا یہ آیت بوقت ضرورت: اخذ الاجرة على الطاعة. کی دلیل ہے۔

دلیل نمبر ۴:

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَیْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ، وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِی الْقُرْبٰی. الْاٰیَة﴾. (سورۃ انفال آیت ۴۱)

ترجمہ: اور اس بات کو جان لو کہ جو شئے بطور غنیمت تم کو حاصل ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ کل کا پانچواں حصہ اللہ کا اور اس کے رسول کا ہے اور آپ کے قرابت داروں کا ہے۔ آیت مذکورہ بالا میں مال غنیمت جو بذریعہ جہاد و قتال مسلمانوں کے ہاتھ آتا ہے اس کی تقسیم اور حصص کا بیان ہے کہ اس کا پانچواں حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قرابت داروں وغیرہ کا ہے۔ مال

غنیمت کا یہ خمس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس لئے مقرر کیا گیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن رات دین اسلام کی تبلیغ وغیرہ میں مصروف مشغول رہتے تھے اس لئے یہ خمس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو اخراجات کے لئے مقرر کیا گیا ہے اور اسی خمس سے آپ کے قرابت داروں کا بھی حصہ مقرر کیا گیا ایک تو اس لئے کہ ان پر بوجہ قرابت کے صدقات حرام ہیں اور دوسرا اس لئے کہ یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت و نصرت کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کی نصرت وحمایت بے شک ایک نیک عمل اور عبادت ہے اور اسی عبادت پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے خمس میں حصہ مقرر فرمایا ہے۔ معلوم ہوا کہ دینی خدمات میں مشغول ومصروف رہنے والوں کی مالی خدمت کرنا عین منشاء خداوندی ہے۔

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

> ''اور خمس غنیمت میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اور اپنے اہل و عیال کا نفقہ ادا فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ حصہ خود بخود ختم ہو گیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول و نبی نہیں''۔ (معارف القرآن ج ۴ ص ۲۳۱)

اور مزید فرماتے ہیں'' اور اس میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا یہ ہے کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ذوی القربیٰ کو عطا فرماتے تھے تو اس کی دو بنیادیں تھیں ایک ان کی حاجتمندی اور فقر دوسرے اقامت دین اور دفاع عن الاسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و امداد دوسرا سبب تو وفات نبوی کے ساتھ ختم ہو گیا صرف پہلا سبب فقر و حاجتمندی رہ گیا اس کی بناء پر تا قیامت ہر امام و امیر ان کو دوسروں سے مقدم رکھے گا۔ (ہدایہ، جصاص، معارف القرآن ج ۴ ص ۲۴۲)

ایک اور دلیل:

مال غنیمت میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں وغیرہ کا خمس نکال کر بقیہ چار حصے بالاتفاق مجاہدین میں تقسیم ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ جہاد ایک بہت بڑی نیکی اور افضل عبادت ہے اور اس کے صلہ میں مجاہدین کو مال غنیمت کے چار حصے موصول ہو رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ دینی وملی خدمات سرانجام دینے والوں کی مالی خدمت کرنا کتاب خداوندی سے ثابت ہے۔

دلیل نمبر ۵:

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿مَا اَفَاءَ اللّٰہُ عَلٰی رَسُوْلِہٖ مِنْ اَھْلِ الْقُرٰی فَلِلّٰہِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِی الْقُرْبٰی، الآیۃ﴾ (سورۃ الحشر، آیت ۷)

ترجمہ: ''جو کچھ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے بستیوں کے لوگوں سے دلوا دے وہ اللہ کا حق ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرابت داروں کا۔''

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مال فیٔ جو بغیر جہاد و قتال کے مسلمانوں کے ہاتھوں میں آتا ہے اس کے حصص بیان فرمائے ہیں کہ اس کا پانچواں حصہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں وغیرہ کا ہے اور بقیہ چار حصص بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صوابدید پر مستحقین میں تقسیم فرما سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی دین کی جدوجہد کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں نے آپ کی نصرت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس صلہ میں ان کو مال فی میں سے پانچواں حصہ عطا فرمایا معلوم ہوا دین کی خدمت کرنے والوں کی مالی خدمت کرنا جائز اور ثابت ہے۔

دلیل نمبر۶:

اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں:

﴿فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ﴾ (سورة الطلاق آیت ۶۰)

ترجمہ: ''پھر اگر وہ عورتیں تمہارے لئے دودھ پلادیں تو تم ان کو اجرت دو یعنی اگر مطلقہ عورت اپنے ہی بچے کو دودھ پلائے تو بچہ کا باپ اس کو اجرت یعنی تنخواہ دے۔''

حالانکہ یہ دودھ، نا عبادت و کار ثواب ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس پر اجرت اور تنخواہ دینے کا حکم صادر فرما رہے ہیں معلوم ہوا کہ کچھ ایسے کام ہیں اگرچہ نیکی اور عبادت نہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کی تنخواہ اور اجرت کا حکم دیتے ہیں، لہٰذا یہ اصول خود ہی غلط ہے کہ کسی بھی نیکی اور عبادت پر اجرت و تنخواہ لینا ناجائز ہے۔

دلیل نمبر۷:

اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں:

﴿وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ط﴾ (سورة الممتحنه، آیت ۱۰)

ترجمہ: ''اور تم کو ان عورتوں سے نکاح کرنے میں کچھ گناہ نہ ہوگا جب کہ تم ان کے مہران کو دے دو۔''

یعنی کفار کی جو عورتیں مسلمان بن کر ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو تم ان سے نکاح کر سکتے ہو وہ تمہارے لئے حلال ہیں جبکہ تم ان کے حق مہران کو ادا کر دو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عورت کے حق مہر کو اجور کہا ہے حالانکہ نکاح ایک عبادت اور کار ثواب ہے اللہ تعالیٰ نے منکوحہ عورتوں کے لئے حق المہر کا حکم فرمایا ہے اور اس حق المہر کو نکاح کی اجرت قرار دیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ بعض عبادات ایسی ہیں جن کی اجرت اور تنخواہ خود اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے۔

دلیل نمبر۸:

اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں:

﴿هَلْ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ﴾ (سورة الرحمن آیت ۶۰)

''ترجمہ: بھلا غایت اطاعت کا بدلہ بجز غایت عنایت کے کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔''

اس آیت پاک میں بیان کردہ ضابطہ کے تحت دین اسلام کے خدمتگاروں کی مالی خدمت و اعانت کرنا درحقیقت آیت مذکورہ بالا کا تقاضا ہے کیونکہ جو علماء، خطباء، مدرسین و معلمین اور مبلغین و مجاہدین دن رات مسلمانوں کے بچوں کی تعلیم و تربیت میں مصروف و مشغول ہیں اور کوئی دوسرا ذریعہ معاش نہیں اپنا سکتے کیونکہ اس سے تعلیم و تدریس کی خدمت میں خلل واقع ہوتا ہے تو مسلمانوں کے ان عظیم محسنین کے لئے

قوت لایموت کا بندوبست کرنا مسلمانوں کا اخلاقی و مذہبی فریضہ ہے تا کہ یہ لوگ دلجمعی کے ساتھ اپنے شعبہ میں اپنے فرائض سرانجام دیں۔ اس لئے تو فرمایا گیا ہے "ھل جزاء الاحسان الاالاحسان" تو ثابت ہوا کہ معلمین و مدرسین کی تنخواہ درحقیقت احسان کے بدلہ کی ایک صورت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔

دلیل نمبر۹:

بخاری شریف میں روایت موجود ہے:

عن عائشۃ رضی اللہ عنہا قالت لما استخلف ابوبکر رضی اللہ عنہ قال لقد علم قومی ان حرفتی لم تکن تعجز عن مؤنۃ اھلھا وشغلت بامر المسلمین فسیاکُلُ آل ابی بکر من ھذا المال ویحترف للمسلمین فیہ. (مشکوۃ ص: ۳۲۵، باب رزق الولادۃ و ھدایا ھم، بخاری ج ا ص: ۲۷۸، باب کسب الرجل وعملہ بیدہ)

ترجمہ: "سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے تو فرمایا کہ میری قوم کے لوگ (یعنی مسلمان) جانتے ہیں کہ میرا کاروبار میرے اہل وعیال کے اخراجات کے لئے کافی تھا اب میں مسلمانوں کے امور میں مشغول ہوگیا ہوں (اور اس کی وجہ سے اپنا کاروبار جاری نہیں رکھ سکتا) تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اہل وعیال اس (بیت المال) کے مال کھائیں گے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس بیت

المال کی آمدنی میں اضافہ کرنے، اس کی حفاظت کرنے اور اس کو مسلمانوں کی ضروریات و دیگر مصارف میں خرچ کرنے کے ذریعہ مسلمانوں کی خدمت کرے گا۔"

تشریح حدیث:

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بازار میں کپڑے کی تجارت کرتے تھے اور اس کے ذریعہ اپنے اہل و عیال کے مصارف پورے کرتے تھے لیکن جب مسلمانوں نے ان کو منصب خلافت پر فائز کیا تو انہوں نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو اطلاع دی کہ اب میں امور خلافت کی انجام دہی اور مسلمانوں کی خدمت میں مشغول ہوگیا ہوں اس لئے اپنا کاروبار جاری نہیں رکھ سکتا لہذا اپنے اہل وعیال کے اخراجات کے بقدر، میں بیت المال سے تنخواہ لیا کرونگا۔

یہ حدیث دینی امور سرانجام دینے والوں کے جواز پر ایک برہان قاطع ہے۔

دلیل نمبر۱۰:

حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے یہاں کپڑے کی تجارت ہوتی تھی اور اسی سے گزر اوقات تھا جب خلیفہ بنائے گئے تو حسب معمول صبح کو چند چادریں ہاتھ میں ڈال کر بازار میں فروخت کے لئے تشریف لے چلے راستہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملے پوچھا کہاں چلے؟ فرمایا بازار جا رہا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اگر آپ تجارت میں مشغول ہوگئے تو خلافت کے کام کا کیا ہوگا فرمایا پھر اہل وعیال کو کہاں سے کھلاؤں عرض کیا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امین ہونے کا لقب دیا ہے ان کے پاس چلیں وہ آپ کے لئے بیت المال سے کچھ مقرر

کر دیں گے دونوں حضرات ان کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے ایک مہاجری کو جو اوسطاً ملتا تھا نہ کم نہ زیادہ وہ مقرر فرما دیا۔ (حکایات صحابہ ص: ۴۸۔ بحوالہ فتح الباری۔ حاشیہ بخاری شریف، ج ۱ ص ۲۷۸ بحوالہ ابن سعد)

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنے اپنے دور خلافت میں تنخواہیں لیں اور اس پر کسی صحابی یا امتی نے نکیر نہیں فرمائی تو گویا تنخواہ کے جواز پر اجماع صحابہؓ اور اجماع امت ہے۔

کمال احتیاط:

ابن سرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جب وفات کا وقت آیا تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ بیت المال سے کچھ لوں مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہ مانا کہ دقت ہوگی اور تمہاری تجارت کی مشغولی سے مسلمانوں کا حرج ہوگا اس مجبوری سے مجھے لینا پڑا اس لئے اب میرا فلاں باغ اس کے عوض میں دے دیا جائے۔

دلیل نمبر ۱۱:

حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تجارت کیا کرتے تھے جب خلیفہ بنائے گئے تو بیت المال سے وظیفہ مقرر ہوا مدینہ طیبہ میں لوگوں کو جمع فرما کر ارشاد فرمایا کہ میں تجارت کیا کرتا تھا اب تم لوگوں نے اس میں مشغول کر دیا اس لئے اب گزارہ کی کیا صورت ہو! لوگوں نے مختلف مقداریں تجویز کیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ چپ بیٹھے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت

فرمایا کہ تمہاری کیا رائے ہے آپ نے فرمایا کہ توسط کے ساتھ جو تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو کافی ہو جائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس رائے کو پسند فرمایا اور قبول کر لیا۔ (حکایات صحابہ ص: ۴۹)

دلیل نمبر ۱۲:

امام بخاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

﴿باب رزق الحاكم والعاملين عليها وكان شريح يأخذ على القضاء اجراً وقالت عائشة رضي الله عنها يأكل الوصي بقدر عمالته واكل ابوبكر وعمر رضي الله عنهما﴾ (بخاری ج ۲ ص: ۱۰۶۱)

ترجمہ: باب حاکموں اور عاملوں کو تنخواہ لینا درست ہے اور شریح رضی اللہ عنہ (قاضی) جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے عہدہ قضاء مقرر تھے۔ قضاء کی تنخواہ لیتے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا جو شخص میت کا وصی ہو وہ اپنی محنت کے موافق یتیم کے مال میں سے کھا سکتا ہے اور حضرت ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہما نے بھی بیت المال میں سے تنخواہ لی۔

اجماع صحابہ رضی اللہ عنہم:

بخاری وغیرہ ودیگر کتب حدیث میں یہ بات بالکل واضح طور پر لکھی ہوئی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ عنہم بیت المال سے باقاعدہ تنخواہ لیتے تھے اور کسی صحابی نے ان پر اعتراض نہیں کیا کہ تنخواہ لینا ناجائز ہے بلکہ باتفاق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تنخواہ مقرر

ہوئی۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تنخواہ کے جواز پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اجماع ہے اور اجماع حجت شرعیہ ہے۔

امامت صغریٰ وامامت کبریٰ:

ہوئی پرست اور فرقہ ساز مسعودی جب یہ دلائل سنتے ہیں کہ خلفاء راشدین بجز حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے، سب تنخواہ لیتے تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چونکہ غنی تھے اس لئے ان کو تنخواہ کی ضرورت نہ تھی۔ تو یہ لوگ گلوخلاصی کے لئے کہہ دیتے ہیں کہ خلفاء راشدینؓ خلافت کی تنخواہ لیتے تھے نہ کہ امامت کی گویا یہ لوگ امامت اور خلافت میں فرق سمجھتے ہیں اور خلافت کی تنخواہ کو جائز اور امامت کی تنخواہ کو ناجائز کہتے ہیں حالانکہ یہ ان کی کم عقلی اور کوتاہ فہمی ہے کیونکہ خلافت درحقیقت امامت کبریٰ ہے جب امامت کبریٰ کی تنخواہ جائز ہے تو امامت صغریٰ کی بطریق اولیٰ جائز ہوگی اور ویسے نماز پنجگانہ کی امامت کرنا، نماز جمعہ و عیدین کی امامت وخطابت وغیرہ امور بھی خلافت کے فرائض میں شامل ہیں لہذا یہ فرق کرنا کہ خلافت کی تنخواہ جائز اور امامت کی ناجائز درحقیقت ایک قسم کی جہالت اور طفل تسلی ہے۔

دلیل نمبر۱۳:

بخاری شریف اور صحاح ستہ وغیرہ کتب حدیث میں ایک لمبی حدیث کا ٹکڑا ہے:

﴿إن احق ما اخذتم عليه اجراً كتاب الله﴾ ۔(بخاری ج۲ ، ص: ۸۵۴، ج ا ص: ۳۰۴)

ترجمہ: ”یعنی سب سے زیادہ اجرت کے لائق تو اللہ تعالیٰ کی

کتاب ہے۔“

واقعہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت کا عرب کے کسی قبیلہ سے گزر ہوا اتفاقاً سردار کو سانپ یا بچھو نے کاٹ کھایا وہ لوگ صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین کے پاس آئے اور پوچھا کہ کیا تم میں کوئی شخص جھاڑ پھونک جانتا ہے؟ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں چنانچہ انہوں نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا اور مریض ٹھیک ہوگیا اور ان لوگوں نے حسب شرط ان کو بکریوں کا ریوڑ دیا لیکن صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین کو تشویش ہوئی کہ یہ تو کتاب اللہ کی اجرت ہے۔ آیا ہمارے لئے جائز ہے یا ناجائز، چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دریافت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ کتاب اللہ اجرت کی زیادہ حقدار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے اگرچہ اس خاص موقع پر وارد ہوا ہے لیکن الفاظ کے عموم کو دیکھا جائے تو یہ حدیث تعلیم قرآن وغیرہ کی تنخواہ کے جواز کی بھی دلیل ہے۔

جیسا کہ امام نووی شارح مسلم رحمہ اللہ نے لکھا ہے چنانچہ فرماتے ہیں:

﴿وكذا الاجرة على تعليم القرآن وهذا مذهب الشافعي ومالك واحمد واسحاق وابي ثور وآخرين من السلف ومن بعدهم رحمهم الله تعالىٰ﴾

(شرح نووی لمسلم، ج ۲ ص: ۲۲۴)

ترجمہ: اسی طرح تعلیم قرآن پر تنخواہ لینا بھی جائز ہے اور یہ مذہب امام شافعیؒ، امام مالکؒ، امام احمدؒ، امام اسحاقؒ، ابوثورؒ اور دوسرے اسلاف واخلاف کا ہے۔“

دلیل نمبر۱۴:

﴿عن بريدة رضی الله عنه عن النبی صلی الله عليه وسلم قال من استعملناه علی عمل فرزقناه رزقا فما اخذ بعد ذلک فهو غلول﴾ . (رواه ابوداؤد ،مشکوة ص: ۳۲۶)

ترجمہ: حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا جس شخص کو ہم نے کسی کام پر مامور کیا اور اس کو رزق دیا یعنی اس کے لئے اس کام کی اجرت وتنخواہ مقرر کردی اس کے بعد اگر وہ اپنی تنخواہ سے زائد کچھ وصول کرے گا تو یہ مال غنیمت میں خیانت ہے۔

دلیل نمبر۱۵:

﴿عن عمر رضی الله عنه قال عملت علی عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم وفعملنی﴾ . (رواه ابوداؤد، مشکوة، ص: ۳۲۶)

ترجمہ: ''حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مجھے عامل بنایا گیا تھا اور اس کی مجھ کو آپ ﷺ نے تنخواہ دی۔''

دلیل نمبر۱۶:

﴿عن المستورد بن شداد رضی الله عنه قال سمعت النبی صلی الله عليه وسلم يقول من كان لنا عاملاً

فليكتسب زوجة فان لم يكن له خادم فليكتسب خادماً فان لم يكن له مسكن فليكتسب مسكناً وفی رواية من اتخذ غير ذلک فهو غال﴾ . (رواه ابوداؤد ، مشکوة، ص: ۳۲۶)

ترجمہ: حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص کو ہم نے عامل بنایا (اگر اس کے پاس بیوی نہ ہو تو) ان کو چاہیے کہ وہ بیوی بیاہ لے اگر اس کے پاس خادم نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ خادم لے لے اور اگر اس کا گھر نہ ہو تو گھر بنالے اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اگر وہ اس کے علاوہ کچھ لے گا تو وہ خیانت کرنے والا ہوگا۔

دلیل نمبر۱۷:

﴿عن عدی بن عميرة ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: ...... من استعملناه علی عمل فليأت بقليله وكثيره فما اوتی منه اخذ هٗ وما نهی عنه انتهی﴾ . (رواه مسلم وابوداؤد ،واللفظ له ، مشکوة، ص: ۳۲۶)

ترجمہ: حضرت عدی بن عمیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو ہم نے عامل بنایا اس کو چاہیے کہ وہ جو کچھ وصول کرے وہ تھوڑا ہو یا بہت وہ سب ہمارے پاس لے کر آئے اور اس میں سے اسکو (اجرت

اور تنخواہ کے طور) پر جو کچھ مل جائے وہ لے لے اور جو نہ دیا جائے اس سے باز رہے۔

دلیل نمبر ۱۸:

بخاری شریف میں روایت ہے:

﴿ان عبداللہ بن السعدی اخبرہ انہ قدم علی عمر رضی اللہ عنہ فی خلافتہ فقال لہ عمر الم احدث انک تلی من اعمال الناس اعمالا فاذا اعطیت العمالہ کرھتھا فقلت بلیٰ! قال عمر فماترید الیٰ ذلک قلت ان لی افراساً واعبداوانابخیر وارید ان تکون عمالتی صدقۃ علی المسلمین قال عمر لاتفعل فانی کنت اردت الذی اردت وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطینی العطاء فاقول اعطہ افقرمنی حتی اعطانی مرۃً فقلت اعطہ افقرالیہ منی فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خذہٗ فتمول بہ وتصدق بہ فماجاءک من ھذا المال وانت غیر مشرف ولا سائل فخذہٗ واللہ فلاتتبعہ نفسک﴾

(بخاری ج۲، ص: ۱۰۶۱)

ترجمہ: عبداللہ بن سعدی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ان کے پاس آئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے سنا ہے تو عام لوگوں کے کاموں میں سے (مثلاً قضاء وغیرہ) کوئی خدمت بجالاتا ہے تو جب اس کی تنخواہ تجھ کو دی جاتی ہے تو اس کو لینا ناپسند کرتا ہے عبداللہ بن سعدی رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں یہ بات درست ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر اس سے تیرا کیا مطلب ہے؟ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو گھوڑے، غلام، لونڈی (یعنی سب طرح کے مال) عنایت فرمائے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے لئے مسلمانوں کی خدمت کروں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایسا مت کر میں نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایسا ہی کرنا چاہا تھا (کہ اپنی خدمت کی اجرت نہ لوں) تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیتے تو میں کہتا یہ روپیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسکو کیوں نہیں دیتے جو مجھ سے زیادہ محتاج ہے ایک بار ایسا ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے (ایک خدمت کے معاوضہ میں) مجھے کچھ دینا چاہا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس کو دیجئے جو مجھ سے زیادہ محتاج ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں تو لے لے مالدار بن جا (پھر تیرا دل چاہے تو) فقیروں میں صدقہ خیرات کر دے اور دیکھ جو مال تیرے پاس (اللہ کا بھیجا ہوا) آجائے بغیر سوال اور بغیر اشراف کے تو تو اس کو لے لے اور جو مال اس طرح نہ آئے تو اس کے پیچھے مت پڑ۔

دلیل نمبر ۱۹:

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

﴿قال ابن عباس رضی الله عنهما عن النبی صلی الله علیه وسلم احق ما اخذتم علیه اجراً کتاب الله وقال الشعبی لایشترط المعلم الا ان یعطی شیئاً فیقبله وقال الحکم لم اسمع احداً کره اجر المعلم واعطیٰ الحسن عشرة دراهم ولم یر ابن سیرین باجر القسام بأساً﴾ (بخاری ج ۱، ص: ۳۰۴)

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب کاموں سے زیادہ اجرت لینے کے لائق اللہ کی کتاب ہے اور امام شعبی نے فرمایا کہ معلم یعنی قرآن اور دین کی تعلیم دینے والا اجرت کی شرط نہ کرے اگر اس کو (بن مانگے) کچھ مل جائے تو قبول کرے اور حکم نے فرمایا میں نے کسی سے نہیں سنا جس نے معلم کی تنخواہ کو مکروہ کہا ہو اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے معلم کو دس درہم دیئے اور امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے (جائداد وغیرہ) تقسیم کرنے والے کی اجرت میں کوئی حرج نہیں دیکھی۔“

دلیل نمبر ۲۰:

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے تمام مفتوحہ ممالک میں ہر جگہ قرآن مجید کا درس جاری کیا، معلم مقرر کئے، ان کے وظیفے معین فرمائے، مدینہ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی تعلیم کے لئے جو مکتب تھے ان کے معلموں کا وظیفہ پندرہ درہم ماہوار

تھا۔ (سیرت العمرین۔ خلفاء راشدین ص: ۱۲۲، سیر الصحابہ، ج ۱ص ۱۴۷)

دلیل نمبر ۲۱:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے —— قاضیوں کی بیش قرار تنخواہیں مقرر کیں تا کہ یہ لوگ رشوت ستانی سے محفوظ رہیں۔ چنانچہ سلمان رضی اللہ عنہ، ربیعہ رضی اللہ عنہ اور قاضی شریح رحمۃ اللہ کی تنخواہیں پانچ پانچ سو درہم ماہانہ تھی۔ (سیر الصحابہ، ج ۱ص ۱۳۹، بحوالہ فتح القدیر، حاشیہ ہدایہ، ج ۳ص: ۳۴۷)

دلیل نمبر ۲۲:

(حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں) ہر سپاہی کو تنخواہ کے علاوہ کھانا اور کپڑا بھی ملتا تھا۔ (سیر الصحابہ، ج ۱ص: ۱۴۳، ۱۴۴، بحوالہ فتوح البلدان، کتاب الخراج لابی یوسف ومقریزی وبلاذری)

دلیل نمبر ۲۳:

﴿وبعث الی الکوفة عماراً وعثمان بن حنیف وابن مسعود وارزقهم کل یوم شاة نصفها لعمار ونصفها لابن مسعود وعثمان وکان ابن مسعود قاضیهم ومعلمهم﴾ . (اعلاءالسنن ج ۱۵، ص: ۲۱ بحواله ابو عبید فی الاموال بسند صحیح، ص: ۶۸)

ترجمہ: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت عمار، حضرت عثمان بن حنیف اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہم کو کوفہ کی طرف بھیجا اور روزانہ ایک بکری ان کی تنخواہ مقرر فرمائی جس کا

نصف حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے لئے ہوتا تھا اور دوسرا نصف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بن حنیف اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے لئے تھا اور حضرت ابن مسعود ان لوگوں کے لئے قاضی اور معلم یعنی دین سکھانے والے تھے۔

دلیل نمبر ۲۴:

فتاوی عالمگیریہ میں لکھا ہے:

«ان كان القاضي فقيراً محتاجاً فالاولىٰ ان يأخذ رزقه من بيت المال بل يفترض عليه فان كان غنيا تكلموا فيه والاولىٰ ان لا يأخذ من بيت المال . كذا في فتاوىٰ قاضيخان كماتجوز كفاية القاضي من بيت المال تجعل كفاية عياله ومن يمونه من اهله واعوانه من مال بيت المال...... القاضي اذا كان يأخذ من بيت المال شيئاً لايكون عاملاً بالاجر بل يكون عاملاً لله تعالىٰ ويستوفيٰ حقه من مال الله تعالىٰ وكذاالفقهاء والعلماء والمعلمون الذين يعلمون القرآن وروى ان ابابكر رضي الله عنه لمااستخلف كان يأخذ الرزق من بيت المال وكذا عمر وعلي رضي الله عنه واما عثمان رضي الله عنه فكان صاحب ثروة ويسارفكان يحتسب ولايأخذ كذا في الخلاصة .وينبغي للامام ان يوسع عليه وعلى عياله كي لايطمع في اموال المسلمين وروى

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لمابعث عتاب بن اسيد الى مكة وولاها امر هارزقه اربع مائة درهم في كل عام وروى ان الصحابةرضي الله عنهم اجروا لابي بكر رضي الله عنه مثل ذلك من بيت المال وكان لعلي رضي الله عنه من بيت المال كل يوم قصعة من ثريد وروى ان علياًرضي الله عنه فرض له خمس مائة في كل شهر كذا في البدائع ، فتاوىٰ عالمگريه ج۳،ص: ۳۲۹ .الباب التاسع في رزق القاضي وهديته الخ . (فتاوىٰ عالمگريه ج۳،ص: ۳۲۸)

ترجمہ: قاضی اگر محتاج اور فقیر ہو تو بہتر ہے کہ بیت المال سے تنخواہ لے لے بلکہ تنخواہ لینا اس پر فرض ہے اور اگر غنی ہے تو علماء اسلام نے اس میں کلام یعنی اختلاف کیا ہے اور بہتر ہے کہ وہ نہ لے اسی طرح قاضیخان میں ہے...... جس طرح قاضی کا گزر اوقات بیت المال سے ہوگا اسی طرح اس کے اہل وعیال اور اعوان وخدام کا گزر اوقات بھی بیت المال سے ہوگا...... قاضی جب بیت المال سے تنخواہ وغیرہ کوئی چیز لیتا ہے تو یہ نہ سمجھا جائے گا کہ اجرت پر کام کرتا ہے بلکہ بیت المال (اللہ کے مال) سے اپنا حق وصول کرتا ہے اور اللہ تعالی کے لئے کام کرتا ہے اور یہی حکم فقہاء، علماء، اور معلمین کا ہے جو لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں اور مروی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ

بنائے گئے تو وہ بیت المال سے تنخواہ لیتے تھے اور اسی طرح حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما بھی تنخواہ لیتے تھے اور لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چونکہ دولت مند تھے تو ثواب مزید کی امید پر بیت المال سے تنخواہ نہ لیتے تھے۔ اسی طرح خلاصہ میں ہے امام کے لئے مناسب ہے کہ قاضی اور اس کے اہل وعیال پر رزق کی وسعت کردے تاکہ وہ مسلمانوں کے مال میں لالچ وطمع نہ کرے اور مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ کی طرف بھیجا اور ان کو مکہ کا ولی بنایا تو ان کو سالانہ چار سو درہم تنخواہ دیتے تھے اور مروی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اتنی تنخواہ دیتے تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو روزانہ بیت المال سے ایک پیالہ ثرید کا دیا جاتا تھا اور مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بیت المال سے پانچ سو درہم ماہانہ ملتے تھے اسی طرح بدائع میں ہے۔

دلیل نمبر ۲۵:

علماء دین اور فقہاء اسلام کا اس پر اجماع ہے کہ عاملین، معلمین، مدرسین، حکام وفقہاء، ائمہ مساجد اور مجاہدین اسلام غرض تمام دین کی خدمت کرنے والوں کے لئے بیت المال سے تنخواہ اور قوت لایموت لینا جائز ہے اس میں حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ، اور حنابلہ وغیرہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ سب حضرات بالاتفاق بیت المال سے تنخواہوں کو جائز سمجھتے ہیں اور اجماع امت بھی ایک شرعی حجت ہے۔ اور اجماع کا منکر کم از کم گمراہ ہے۔ چنانچہ درج ذیل کتب کا مطالعہ فرمائیے جن میں تنخواہوں کا جواز لکھا ہے۔ بخوف طوالت عبارات درج نہیں کیں جا رہیں: البحر الرائق، ج ۵، ص: ۱۱۷، ۱۱۸، ج ۸، ص: ۲۰۸۔ ج ۸، ص: ۱۹۔ ۲۰۔ رد المحتار علی الدر المختار ج ۳ ص: ۳۰۷ تا ۳۰۹، ج ۳ ص: ۴۵۷ باب الوقف ج ۳ ص، ۴۱۶ باب الوقف، فتح القدیر ج ۸ ص: ۵۰۱ باب الکراہیۃ، الجوہرۃ النیرۃ ج ۲، ص: ۳۸۰، کتاب السیر ج ۱ ص: ۳۲۷، کتاب الاجارہ، فتاویٰ قاضی خان ج ۲ ص: ۵۸۸، کتاب السیر، فتاویٰ بزازیہ برہامش عالمگیریہ ج ۴، ص: ۹۱ باب الجزیہ والخراج ج ۵، ص: ۳۸، اعلاء السنن ج ۱۵، ص: ۶۰۔ ۱۲۲ احکام القرآن تھانوی ج ۱ ص: ۹۷، ۹۸)

اسی طرح جتنے فتاویٰ جات اردو وغیرہ زبان میں لکھے ہوئے ہیں سب میں دینی امور کی تنخواہ کو جائز قرار دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ دینی کام کرنے والوں کی تنخواہ اجماع امت سے ثابت ہے۔

دلیل نمبر ۲۶:

﴿عن الوضین بن عطا قال ثلاثة معلمون کانوا فی المدینة یعلمون الصبیان وکان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنه یرزق کل واحد منهم خمسة عشر درهماً کل شهر﴾ .(السنن الکبریٰ للبیهقی ج ۲ ص: ۱۲۴)

ترجمہ: ”حضرت وضین بن عطا فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں تین معلم تھے جو بچوں کو تعلیم دیتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو پندرہ درہم ماہانہ تنخواہ دیا کرتے تھے۔“

ایک ضروری وضاحت:

فقہ حنفیہ میں جو یہ مسئلہ علماء متقدمین کے حوالے سے لکھا ہے کہ دینی امور پر اجرت لینا جائز نہیں ہے تو وہ اسی وجہ سے ہے کہ جب تک اسلامی حکومتیں قائم رہیں تو دین کے خدمتگاروں کو بیت المال سے وظائف اور تنخواہیں ملتی تھیں کیونکہ اس وقت بیت المال کا نظام موجود تھا اس لئے متقدمین احناف نے اخذ الاجرۃ علی الطاعۃ کو ناجائز لکھا ہے کیونکہ بیت المال سے معلمین، مدرسین وغیرہ کا کفاف اور قوت لا یموت باقاعدہ ادا کیا جاتا تھا لیکن اب جبکہ نہ اسلامی حکومتیں رہیں اور نہ ہی بیت المال رہے تو علماء متاخرین احناف نے "اخذ الاجرۃ علی الطاعۃ" کو جائز قرار دیا ہے اور دین کے خدام کی تنخواہوں کو جائز فرمایا ہے لہذا فقہاء متقدمین کی عبادات سے نہ خود دھوکہ کھانا چاہیے اور نہ ہی کسی کو دھوکہ دینا چاہیے۔ بہرحال دین کا کام کرنے والوں کو بیت المال سے تنخواہ ملتی تھی اور اب مسلمانوں کو بندوبست کرنا ہے تاکہ دین کے خدمتگار مطمئن ہو کر خدمت کریں اور مسلمان ان کے اور ان کے اہل و عیال کے اخراجات کا انتظام کریں تاکہ خدمت دین کا یہ کام و نظام بخیر و خوبی چلتا رہے اور فریضہ تعلیم و تدریس میں کسی قسم کا خلل واقع نہ ہو خلاصہ یہ ہے کہ بیت المال سے تنخواہیں لینا جائز تھا اور اب مسلمانوں سے لینا جائز ہے الغرض تنخواہوں کے جواز میں کسی دور میں اختلاف نہیں رہا تنخواہیں بہرحال ہر دور میں جائز ہی رہیں۔

گندی تعبیریں گندے ذہن کی عکاس ہیں:

اگر کوئی شخص از روئے دیانت علماء معلمین کی تنخواہوں کے جواز میں اختلاف کرتا ہے تو اسے لازم ہے کہ حدود شرعیہ کے اندر رہتے ہوئے اظہار رائے کرے اور افراط تفریط میں ہرگز نہ پڑے کیونکہ اختلاف رائے میں تشدد اور فتویٰ بازی ایک مذموم کام ہے جس سے شریعت محمدی میں منع کیا گیا ہے لیکن بدقسمتی سے ہوٰی پرست اور فرقہ ساز مسعودیوں کے مذہب کی بنیاد ہی افراط و تفریط پر ہے اور اظہار رائے کے وقت تشدد اور غلو ان کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے چنانچہ یہ لوگ علماء معلمین اور ائمہ مساجد "جو تنخواہ وہ درحقیقت قوت لا یموت کے طور پر لیتے ہیں" ان کے حق میں اخلاق سے گری ہوئی زبان اور نہایت ہی نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں اور گندی زبان چلاتے ہوئے ان کی حیا مانع نہیں بنتی: "ان لم تستحی فافعل ماشئت" بے حیا باش ہرچہ خواہی کن۔ چنانچہ علماء حق جو دن رات دینی خدمات میں مصروف رہتے ہیں تنخواہ لینے کی وجہ سے ان کی خدمات کو یہ لوگ دین فروشی، ایمان فروشی، نماز بیچنا، قرآن بیچنا وغیرہ گندے الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں اور یہ گندی تعبیریں درحقیقت ان کے گندے ذہن کی عکاسی کرتی ہیں۔ قرآن مجید میں بوقت نکاح عورت کے حق المہر کو "اجرت" کہا گیا۔ کیا کوئی منصف مزاج اور شریف النفس انسان اس کو عصمت فروشی جیسے گندے لفظ سے تعبیر کرے گا؟ جہاد کے اونچے عمل کو کوئی شخص مال غنیمت لینے کی وجہ سے جہاد فروشی سے تعبیر کرے گا؟ مال غنیمت کا خمس لینے کی وجہ سے کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والے اقرباء کو کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت وحفاظت فروشی تعبیر کرے گا؟ نہیں۔ نہیں ہرگز نہیں، یہ گندی تعبیریں ہیں یہ تو وہ کرے گا جس کا ذہن گندا ہے اور ایک شریف النفس انسان تو یہی کہے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین اسلام کی خدمت کی اور دن رات کی ہے اور سرتوڑ خدمت کی ہے حتیٰ کہ معاش کے لئے ان کے پاس وقت نہیں بچا کیونکہ وہ دین کے لئے مشغول مصروف اور محبوس ہیں۔ لہذا ان کے قوت لا یموت کا

بندوبست مسلمانوں پر لازم ہے، خواہ بیت المال سے ہو یا کسی دوسرے طریقہ سے ہو، تاکہ ''ھل جزاْ الاحسان الا الاحسان'' پر عمل ہو جائے یہ ہے دین کے خدمتگاروں کی تنخواہ کی صحیح تعبیر۔

مانعین تنخواہ کے استدلال مع الابطال

استدلال نمبر ۱:

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بعض نبیوں کے حالات بالتفصیل بیان فرمائے ہیں اور ان میں سے بعض نبیوں نے دوران دعوت و تبلیغ اپنی مشرک و کافر قوم کو فرمایا:

﴿وَمَآ اَسْــَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعَالَمِيْنَ﴾

''یعنی میں اپنی اس دعوت و تبلیغ پر تم سے اجرت کا سوال نہیں کرتا
اجرت مجھے اللہ رب العالمین عطا فرمائیں گے۔''

تو بعض لوگوں نے اس آیت سے یوں استدلال کیا اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے اپنی بے دین قوم سے اجرت اور تنخواہ کا سوال نہیں کیا لہذا تنخواہ لینا ناجائز اور حرام ہے حالانکہ یہ استدلال درست نہیں ہے کیونکہ اولاً تو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نے کفار و مشرکین سے اجرت نہیں مانگی اور دینی خدمات سرانجام دینے کی تنخواہ مشرکین سے تو مانگنا جائز بھی نہیں ہے اور بے دینوں سے خدمت دین کی تنخوہ کا سوال ہے ہی بے سود جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے ہاں کفار تو دین کے خلاف کام کرنے والوں کو تنخواہ اور اجرت دیتے ہیں وہ دین کے خدمتگاروں کو کب رقم دیتے ہیں؟ لہذا آیت مذکورہ سے معلوم ہوا کہ کفار سے تنخواہ مانگنا ناجائز ہے حالانکہ علماء معلمین تو

بیت المال سے یا مسلمانوں سے تنخواہ لیتے، لہذا کفار سے تنخواہ ناجائز ہونے سے مسلمانوں سے تنخواہ کا عدم جواز ثابت نہ ہوا کیونکہ ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔

ثانیاً: کسی اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ تنخواہ حرام یا ناجائز ہے بلکہ فرمایا کہ تم سے اجرت کا سوال نہیں کرتا اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے کام ایسے ہیں جن کی اجرت لینا جائز ہوتا ہے لیکن کام کرنے والا شخص کہتا ہے میں تم سے اجرت نہیں لیتا مثلاً ایک حکیم صاحب کسی واجب الاحترام، معزز آدمی کو دوائی دیتا ہے اور وہ شخص دوائی کی قیمت دریافت کرتا ہے۔ حکیم صاحب جواب میں کہتا ہے آپ سے قیمت نہیں لیتا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوائی پر قیمت لینا ہی ناجائز ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ دوائی اگرچہ ایسی چیز ہے جس کی قیمت لینا جائز ہے۔ لیکن آپ سے نہیں لیتا، دیکھئے جب حضرت خضر علیہ السلام نے یتیم بچوں کی دیوار بنادی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: لَوْشِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا۔

معلوم ہوا کہ یتیم کی خدمت پر اجرت لینا جائز تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے اجرت نہیں لی، معلوم ہوا کہ یہ ضروری نہیں کہ جس کام کی اجرت نہیں لی گئی وہ کام قابل اجرت ہی نہیں، بلکہ یہ بھی ممکن ہے عمل قابل اجرت ہو اور اجرت نہ لی گئی ہو لہذا یہ آیت دینی امور پر عدم جواز اجرت کی دلیل نہیں ہے۔ البتہ جو شخص صاحب ثروت ہے اور تنخواہ کے بغیر بھی ان کا اور انکے اہل و عیال کا گزر اوقات ہو سکتا ہے تو ایسے شخص کے لئے افضل ہے کہ وہ بلا معاوضہ اور بلا تنخواہ بے لوث دین اسلام کی خدمت کرے اور جو شخص تنگدست ہے اور کوئی ذریعہ معاش نہیں رکھتا اس کی تنخواہ اور قوت لایموت میں کسی نے اختلاف نہیں کیا بہر حال آیت مذکورہ بالا سے تنخواہوں کے عدم جواز پر استدلال کرنا درست نہیں ہے۔

استدلال نمبر۲:

ہوئی پرست مسعودی قرآن مجید کی درج ذیل آیت سے بھی استدلال کرتے ہیں اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

﴿وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِىْ ثَمَنًا قَلِيْلًا وَّاِيَّاىَ فَارْهَبُوْنِ﴾۔

ترجمہ: ''اور مت لو بمقابلہ میرے احکام کے معاوضہ حقیر کو اور خاص مجھ ہی سے پورے طور پر ڈرو۔''

اس آیت سے زبردستی یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ تنخواہ لینا ناجائز ہے کیونکہ جو معلم تنخواہ لے رہا ہے وہ قرآن مجید کو بیچ رہا ہے اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ میری آیات کو تھوڑی رقم کے عوض مت بیچو۔

الجواب باسم ملہم الصواب:

درحقیقت اس آیت کو اور اس جیسی دوسری آیات کو علماء معلمین کی تنخواہ سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے کیونکہ اس قسم کی آیات کے مخاطب یہود ہیں اور آیات اللہ تعالی کے بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ علماء یہود نے اللہ تعالی کی کتاب تورات کے متوازی ایک اور کتاب تیار کر رکھی تھی اور اس میں لوگوں کے من پسند مسائل جمع کر رکھے تھے اور اگر کوئی بڑا آدمی ان کو رشوت دے دیتا تو یہ اس کو اس کی پسند کا مسئلہ اور حکم بتاتے تھے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالی کی کتاب ہے اور یہ اللہ کی کتاب کی آیت ہے اور یہ ہماری شریعت کا حکم ہے وغیرہ وغیرہ تو اللہ تعالی نے ایسے ہی علماء یہود کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارا یہ کاروبار کہ اللہ تعالی کی کتاب اور آیات کے نام پر جو تم مال کمار ہے ہو یہ درحقیقت

اللہ کی آیات کو بیچنا ہے۔ لہذا میری آیات کو چند ٹکوں کی خاطر مت بیچو یعنی رشوت لے کر غلط مسئلے نہ بتاؤ یہ ہے اللہ کی کتاب اور اس کی آیات کو بیچنے کا مطلب جیسا کہ قرآن مجید کی دوسری آیت میں یہی مطلب بیان کیا گیا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں:

﴿فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَيْدِيْهِمْ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا، فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ﴾ (سورہ بقرہ آیت: ۷۹)

ترجمہ: تو بڑی خرابی ان کی ہوگی جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے غرض یہ ہوتی ہے کہ اس ذریعہ سے کچھ نقد قدرے قلیل وصول کرلیں سو بڑی خرابی آوے گی ان کو اس کی بدولت جس کو ان کے ہاتھوں نے لکھا تھا اور بڑی خرابی ہوگئی ان کو اس کی بدولت جس کو وہ وصول کرلیا کرتے تھے۔

قارئین کرام! آپ مذکورہ بالا آیت میں غور فرمائیں کہ اللہ تعالی کتنے صاف لفظوں میں وضاحت فرما رہے کہ اللہ تعالی کی آیات میں اور یہ اللہ تعالی کا حکم ہے گویا آیات اللہ تعالی کے نام پر مال کمانا اور دولت بنانا ایسے ہیں جیسے آدمی آیات اللہ تعالی کو بیچ رہا ہے۔ اس آیت سے استدلال کر کے معلمین کی تنخواہ کو ناجائز بتانا آیت کی تحریف معنوی ہے اور ایسا غلط مطلب ہے جو دوسری آیات کے مخالف ہے معلوم ہوا کہ اس آیت سے مسعودیوں کا استدلال باطل ہے۔

ہویٰ پرست مسعودیوں سے ایک سوال:

گزشتہ ادوار میں جبکہ کہ قرآن اور کتابوں کے چھاپہ خانے ایجاد نہ ہوئے تھے تو اس دور کے لوگ بڑی محنت اور عرق ریزی سے اپنے ہاتھوں سے قرآن لکھتے تھے اور پھر اس کو بیچ دیتے تھے اور یہی انکا ذریعہ معاش تھا اب مسعودی جواب دیں کہ اجرت پر کتابت قرآن جائز ہے یا ناجائز ہے اور جو لوگ ایسا کرتے تھے کیا ان کی روزی حلال تھی یا حرام؟ اور اب اس دور میں قرآن مجید چھپ کر عام بک رہے ہیں کیا ان قرآنوں کو خریدنا اور فروخت کرنا جائز ہے یا ناجائز اور یہ کاروبار صحیح ہے یا غلط ہے۔ اگر ہویٰ پرست مسعودی اسکو حرام اور ناجائز کہتے ہیں تو جو قرآن مجید خود خریدا ہوا اور بیچا ہوا ہے اور برسر عام دکانوں پر بک رہا ہے تو کیا اب بھی یہ قرآن مجید قابل اعتماد ہے جبکہ خرید و فروخت کی زد میں آچکا ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ قرآن مجید کی قیمت نہیں ہے بلکہ کاغذ وغیرہ کی قیمت ہے لہٰذا یہ جائز ہے تو کہا جائے گا کہ معلمین حضرات بھی وقت کی تنخواہ لیتے ہیں نہ کہ قرآن کی، امید ہے کہ ہویٰ پرست اور فرقہ ساز مسعودی سوچ سمجھ کر جواب دینے کی کوشش کرینگے۔

اور یہ حقیقت ہے کہ علماء معلمین پر جو شرائط اور قیودات عائد کئے جاتے ہیں کہ تو نے فلاں ملک میں فلاں مسجد میں پڑھانا ہے فلاں علم اور فلاں کتاب پڑھانی ہے اتنا وقت پڑھانا ہے وغیرہ تو تنخواہ انہیں قیود رت اور اوقات کا معاوضہ ہے۔

استدلال نمبر۳:

فرقہ مسعودیہ درج ذیل آیات سے بھی استدلال کر کے تنخواہوں کو ناجائز بتاتا ہے۔

﴿یٰاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ کَثِیْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ
لَیَاْکُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَیَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِیْلِ
اللّٰهِ﴾. (سورۂ توبہ، آیت: ۳۴)

ترجمہ: ’’اے ایمان والو! اکثر احبار اور رہبان لوگوں کے مال نامشروع طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے باز رکھتے ہیں۔‘‘

الجواب باسم ملہم الصواب:

آیت مذکورہ بالا کو معلمین کی تنخواہوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اس آیت میں بھی خطاب اگرچہ ایمانداروں کو ہے لیکن عمل مذموم تو قوم یہود کا بیان کیا گیا کہ علماء یہود اور مشائخ یہود اکثر ایسے ہیں کہ لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں یعنی رشوت لے کر غلط مسئلہ بتاتے ہیں اور نام اللہ تعالیٰ کی آیات کا استعمال کرتے ہیں جیسا کہ سابقہ آیت کا مطلب بیان کیا گیا ہے چنانچہ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

> ’’یعنی احکام حقہ کو پوشیدہ رکھ کر موافق مرضی عوام کو فتوے دے کر ان سے نذرانے لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ یعنی دین اسلام سے لوگوں کو باز رکھتے ہیں۔ (بیان القرآن مطبوعہ تاج کمپنی)

تو معلوم ہوا کہ معلمین کا تنخواہ لے کر قرآن اور دین اسلام پڑھانا شرعی طریقہ نہیں بلکہ شریعت میں ایک شرعی اور جائز طریقہ ہے اور ناشرعی طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی حق چھپا کر لوگوں کو غلط احکام بتائے اور نذرانے وصول کرے اور دھوکہ دیتے ہوئے عوام الناس کو کہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جس کا ارتکاب علماء یہود اور مشائخ

یہود کرتے تھے اور آج بھی اگر علماء سوء میں سے کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو وہ یقیناً اس آیت کا مصداق ہے لیکن تنخواہ لینے کی وجہ سے یہ آیت علماء حق پر چسپاں کرنا تو یہ ظلم اور زیادتی ہے اور کلام اللہ کی تحریف معنوی ہے کیونکہ تنخواہوں کا جواز جو کتاب وسنت سے ثابت ہے اس لئے آیت مذکورہ بالا کا مصداق علماء حق نہیں ہیں بلکہ علماء سوء ہیں جو غلط مسئلہ بتا کر رشوت لیتے ہیں اور نام اللہ کی آیات کا بدنام کرتے ہیں۔

استدلال نمبر۴:

از حدیث القوس یعنی کمان والی حدیث بعض لوگ درج ذیل حدیث سے بھی استدلال کرکے دینی امور کی تنخواہ کو ناجائز بتاتے ہیں:

> حديث القوس. حدثنا علي بن محمد ومحمد بن اسماعيل قالا حدثنا وكيع حدثنا مغيرة بن زياد الموصلي عن عبادة بن نسي عن الاسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت قال علمت ناسا من اهل الصفة القرآن والكتابة فاهدى الىّ رجل منهم قوسا فقلت ليست بمال وارىٰ عنها في سبيل الله فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان سرك تطوق طوقا من نار فاقبلها (ابن ماجه ،ص:١٥٧)

ترجمہ: حضرت عبادۃ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے اصحاب صفہ میں سے چند لوگوں کو قرآن مجید اور کتاب کی تعلیم دی تو ان میں سے ایک آدمی نے مجھے کمان ہدیہ دی میں نے کہا کہ میں نے تو اللہ کے لئے قرآن پڑھایا ہے

اس پر میں مال قبول نہیں کرتا تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو آگ کا طوق گلے میں پہننا پسند کرتا ہے تو اس کو قبول کرلے۔

الجواب باسم ملہم الصواب:

بعض علماء اسلام نے اس روایت کو حدیث بخاری۔ ان احق ما اخذتم علیہ اجراً۔ کتاب سے منسوخ قرار دیا ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ چونکہ حضرت عبادہ بن صامتؓ نے شروع سے اللہ کے لئے پڑھانے کی نیت کرلی تھی اور معاوضہ لینے کا تصور نہ تھا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاوضہ لینے سے منع فرمایا لہٰذا جو شخص ابتداء سے تنخواہ طے کرلے تو وہ اس حدیث کی رو سے ممنوع نہیں ہے کیونکہ حدیث زیر بحث کا تعلق ایک خاص صورت سے ہے کہ آدمی دل میں رضاء الٰہی اور تنخواہ نہ لینے کی نیت کرلے۔ (دیکھئے حاشیہ ابن ماجہ ص ۱۵۷)

اور حقیقت یہ ہے کہ یہ روایت ناقابل احتجاج ہے کیونکہ اس کا ایک راوی اسود بن ثعلبہ غیر معروف اور مجہول ہے دیکھئے حاشیہ ابن ماجہ بحوالہ میزان الاعتدال۔

نیز اس حدیث کا ایک راوی: مغیرہ بن زیاد بجلی موصلی ہے اس کے بارے میں امام حاکم ابو عبداللہ فرماتے ہیں:

> ﴿المغيرة بن زياد يقال له ابو هشام المكفوف صاحب مناكر لم يختلفوا في تركه يقال انه حدث عن عبادة بن نسي بحديث موضوع﴾ (تهذيب التهذيب ، ج ٥ ص: ٥١٠)

''یعنی مغیرہ بن زیاد کو ابو ہشام المکفوف کہا جاتا ہے یہ صاحب مناکر ہے یعنی منکر حدیثیں بیان کرتا ہے اور یہ بلا اختلاف متروک راوی ہے کہا جاتا ہے کہ اس نے حضرت عبادہ بن نسی سے ایک موضوع حدیث نقل کی ہے۔''

اور امام عبد البر فرماتے ہیں کہ مذکورہ بالا کمان والی حدیث اس کے منکر حدیثوں میں سے شمار ہوتی ہے۔ (تہذیب التہذیب ج ۵ ص ۵۱۱)

استدلال نمبر ۵:

از حدیث القوس: ۳

﴿حدثنا سهل بن ابی سهل حدثنا یحی بن سعید عن ثور بن یزید حدثنی عبدالرحمن بن مسلم عن عطیة الکلاعی عن ابی ابن کعب قال علمت رجلا القرآن فاهدیٰ الیّ قوساً فذکرت ذلک لرسول الله صلی الله علیه وسلم فقال ان اخذتها اخذت قوساً من نار فرددتها﴾. (ابن ماجه، ص: ۱۵۷)

ترجمہ: ''حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو قرآن سکھایا اور اس نے مجھے ایک کمان ہدیہ دی تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ و سلم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو نے وہ کمان لے لی تو آگ کی کمان لی پس میں نے وہ واپس کر دی۔''

الجواب باسم ملہم الصواب:

اولاً: یہ روایت منسوخ ہے۔ ثانیاً: اس صورت پر محمول ہے کہ ابتدا پڑھانے والے کی نیت صرف ثواب کے لئے تھی معاوضہ لینے کا خیال نہ تھا۔ ثالثاً: اس حدیث کا ایک راوی عبدالرحمٰن بن مسلم ہے، جس کے بارے میں خود ابن ماجہ کے اندر اس کے نام کے نیچے لکھا ہے۔ مجہول یعنی عبدالرحمٰن بن مسلم مجہول راوی ہے تو جب اس حدیث کا راوی مجہول ہے تو یہ حدیث کیسے قابل احتجاج بن سکتی ہے؟

خود را فضیحت دیگراں را نصیحت:

کیپٹن مسعود الدین عثمانی اور انہی کے طرح دوسرے ہوئی پرست اور فرقہ ساز لوگ عجیب ذہنیت کے مالک ہوتے ہیں۔ جب علماء اسلام اپنے عقائد و نظریات کو ثابت کرنے کے لئے کتاب و سنت کے دلائل کا انبار لگا دیتے ہیں تو یہ لوگ رجال کی کتابیں کھولی، احادیث کے راویوں پر جرح شروع کر دیتے ہیں۔ کہ اس حدیث کا فلاں راوی ضعیف ہے منکر یا مجہول ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب ان ہوئی پرستوں کو اپنے مطلب کی حدیث مل جائے تو پھر راویوں سے آنکھوں کو بند کر کے اس کو اپنے مدعا کے ثبوت میں پیش کر دیتے ہیں حالانکہ وہ حدیث منکر ہوتی ہے اور اس کا راوی مجہول ہوتا ہے لیکن یہ ہوئی پرست دھوکہ دیتے ہیں اور راویوں پر بالکل بحث نہیں کرتے بلکہ سند ہی نہیں لکھتے تاکہ دجل و فریب پر پردہ پڑا رہے اور جو حدیث ان کی خواہش کے خلاف ہوتی ہے تو اس کی باقاعدہ سند بیان کرتے اور اس کا فوٹو اسٹیٹ دیتے ہیں پھر راویوں پر برستے ہیں اسی غیر منصفانہ تحقیق کرنے والوں کو بندہ ہوئی پرست اور فرقہ ساز کہتا ہے کیونکہ ان کے لینے کے پیمانے اور ہیں اور دینے کے

پیمانے اور ہیں۔ بہرحال مذکورہ بالا دونوں حدیثیں منکر ہیں ان کے راوی مجہول ہیں لیکن یار لوگوں نے آنکھیں بند کر کے بغیر سند بیان کئے ان کو پیش کر دیا۔

استدلال نمبر۶:

مشکوٰۃ شریف میں ایک حدیث مروی ہے:

﴿عن عمران بن حصين انه مر على قاص يقرء القرآن ثم يسئل فاسترجع ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرء القرآن فليسئال الله به فانه سيجيء اقوام يقرء ون القران يسئالون به الناس﴾ (رواه احمد والترمذی ،مشکوة ، ص: ۱۹۲)

ترجمہ: ”حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ ایک قصہ گو کے قریب گزرے وہ قرآن پڑھتا تھا پھر لوگوں سے بھیک مانگتا تھا تو انہوں نے انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا پھر کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جو شخص قرآن پڑھتا ہے اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرے یقیناً عنقریب ایسی قوم آئے گی جو قرآن پڑھیں گے قرآن کے ذریعے لوگوں سے سوال کرینگے۔“

الجواب باسم ملہم الصواب:

اس حدیث اور اس جیسی دوسری احادیث کا مطلب واضح ہے کہ کوئی گدا اگر قرآن پڑھ کر لوگوں سے بھیک مانگے تو یہ یقیناً ایک قبیح حرکت اور ممنوع کام ہے لیکن جو علماء معلمین بچوں کی تعلیم میں مشغول ہیں ان کی تنخواہ کے عدم جواز پر اس

حدیث سے استدلال درست نہیں ہے کیونکہ علماء اسلام نے یہ وضاحت کر دی ہے کہ معلمین کو جو تنخواہ ملتی ہے اس کو قرآن مجید کا معاوضہ نہ سمجھنا چاہیے یہ تنخواہ دراصل وقت اور ان قیودات اور شرائط کا معاوضہ ہے جو معلمین پر عائد کی جاتی ہیں لہذا حدیث مذکورہ بالا میں جو صورت ممنوع ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پڑھ کر اپنی ذات کے لئے بھیک نہ مانگی جائے۔

استدلال نمبر۷:

مشکوٰۃ شریف میں حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دیتے ہوئے فرمایا:

﴿واتخذموذنا لايا خذعلى اذانه اجرا﴾ .(رواه احمدوابو داؤدوالنسائی ،مشکوة شريف ،ص: ٦٥)

ترجمہ: ”ایسے شخص کو مؤذن مقرر کرنا جو اپنی اذان کی اجرت نہ لے۔“

الجواب باسم ملہم الصواب:

نسائی شریف کے حاشیہ پر لکھا ہے:

”محمول على الندب عند كثير وقداجاز واخذ الاجرة“. (حاشیہ نسائی ج ا ص:۷۸)

ترجمہ: ”حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد استحباب پر محمول ہے اکثر علماء اسلام کے نزدیک اور انہوں نے اجرت لینے کو جائز قرار دیا ہے۔“

یعنی مستحب اور افضل یہ ہے کہ اجرت نہ لے اور اگر لے لے تو جائز ہے

کیونکہ جواز کے دلائل بکثرت موجود ہیں جن کی تفصیل گزشتہ اوراق میں گزر چکی ہے۔

حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمتہ اللہ علیہ طیبی کے حوالے سے لکھتے ہیں:

> تمسک به من منع الاستیجار علی الاذان ولادلیل فیه لجوازانه صلی الله علیه وسلم امره بذلک اخذ للافضل ،کذاقاله الطیبی ،التعلیق الصبیح علی مشکوٰۃالمصابیح، ج ا ص: ۲۹۹)
>
> ترجمہ: جولوگ اذان پر اجرت لینے سے منع کرتے ہیں انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے حالانکہ اس حدیث میں ان کی دلیل نہیں ہے کیونکہ یہ ممکن ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو افضل طریقہ پر عمل کرنے کے لئے یہ ارشاد فرمایا ہو یعنی افضل یہ ہے کہ مؤذن اجرت نہ لے لیکن دیگر مسائل کی وجہ سے لینا بھی جائز ہے۔

امام ابن حبان رضی اللہ عنہ نے ایک باب یوں قائم کیا ہے:

"باب علی الرخصه فی ذلک" اور اس کے تحت یہ حدیث بیان کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مؤذن حضرت ابومحذورہ رضی اللہ عنہ کو اذان پوری کرنے کے بعد چاندی کی تھیلی عطا فرمائی جس سے جواز معلوم ہوتا ہے۔ (دیکھئے، حاشیہ نسائی ص ۷۸)

بہر حال یہ حقیقت ہے کہ نیکی کے کاموں پر اور دینی امور پر اجرت احکام اسلام کی بقاء ہے اور اسی میں اشاعت دین ہے اسی لئے علماء اسلام نے "اخذ الاجرۃ علی الطاعة" پر اجماع اور اتفاق کیا ہے اور ممانعت اور رخصت کے دلائل

کے درمیان مختلف طریقوں سے تطبیق کی بھی کوشش کی ہے۔

تطبیق کی صورتیں:

ممانعت اور رخصت کے دلائل میں تطبیق کی صورتیں ملاحظہ فرمائیں:

چنانچہ شیخ الحدیث ترجمان اہلسنت حضرت مولانا محمد سرفراز خانصاب دامت برکاتہم لکھتے ہیں:

> "صرف اجمالی طور پر یہ کہہ دینا کافی ہے کہ جن بعض آیات اور حدیث سے عدم جواز اجرت پر تعلیم قرآن کریم پر استدلال کیا گیا ہے وہ ممانعت میں نص اور متعین المعنی نہیں اگر ایسا ہوتا تو محال تھا کہ حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اور حضرات ائمہ ثلاثہ اور جمہور علماء کرام اور متاخرین حضرات فقہاء احناف اس کے خلاف فتویٰ صادر کرتے کیونکہ قرآن کریم کی وہ آیات اور احادیث ان کے پیش نظر بھی تھیں اور احادیث اس سلسلہ کی اکثر و بیشتر ضعیف ہیں اور اگر بعض صحیح ہیں تو حضرت امام بیہقی وغیرہ نے ان کے منسوخ ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ (ملاحظہ ہو سراج المنیر، ج ۳ ص: ۳۲۲_للعزیزی۔ راہ سنت ص ۲۵۹، اور یہی بات احسن الفتاوی ج ۷ ص: ۲۸۰_۲۸۱ پر بھی ملاحظہ فرمائیں)

سیدنا امام ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے فتوے کی توجیہات.

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خان صاحب دامت برکاتہم عالیہ سیدنا امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے فتویٰ عدم جواز کی چند توجیہات بیان فرمائی ہیں

ملاحظہ فرمائیں:

> ’’حضرات فقہاء کرام رضی اللہ عنہم نے امام الائمہ حضرت ابوحنیفہ نعمان بن ثابتؒ (المتوفی ۱۵۰ھ) سے تعلیم القرآن کریم پر اجرت لینا مکروہ اور ممنوع نقل کیا ہے انہوں نے کمال ورع اور تقویٰ کی بناء پر ان دینی امور پر اجرت لینا منع کیا؟ یا مالدار اور غنی لوگوں کے لئے انہوں نے اجرت لینا مکروہ کہا؟ یا اس لئے کہ ان دینی کاموں پر اجرت لینے کو مقصود بالذات سمجھ کر دنیا بٹورنے کا ذریعہ نہ بنالیا جائے؟ اور یا اسلئے کہ خیر القرون میں نادار اور مفلس خدام دین کو باقاعدہ بیت المال سے تنخواہیں اور وظیفے ملتے اس لئے ان لوگوں کو الگ اجرت اور تنخواہ لینا مکروہ سمجھا؟۔ الغرض حضرت امام صاحبؒ کے اس فتویٰ کی بنیاد کئی امور پر ہوسکتی ہے اور انہی کے فتویٰ پر صادر کہتے ہوئے حضرات متقدمین فقہاء احناف رحمہم اللہ علیہم نے اس اجرت کو مکروہ فرمایا لیکن جب بیت المال کا نظام درہم برہم ہوگیا تو حضرات فقہاء احناف میں متاخرین حضرات کو زمانہ کی اہم ضرورت کے بارے میں سوچنا پڑا اور پھر انہوں نے متفقہ طور پر جواز کا فتویٰ دیا۔ راہ سنت ص ۲۵۸۔ اور یہی توجیہات احسن الفتاوی ج ۷ ص ۲۸۰ پر بھی ثبت ہیں۔

قارئین کرام! آپ نے علماء اسلام کی زبانی رخصت اور ممانعت کی روایات میں تطبیق کی صورتیں بھی سن لیں اور امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ علیہ کے فتویٰ کی

توجیہات بھی معلوم کرلیں اب بندہ عاجز ان ہوئی پرستوں سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہے جس سے ان کے خودساختہ ضابطہ کی حقیقت کھل کر سامنے آجائے گی کہ نیکی کے کاموں اور دینی امور پر اجرت لینا جائز نہیں ہے۔

ہوئی پرستوں سے ایک اہم سوال:

گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ کن کاموں کو دینی امور سمجھتے ہو اور کن کو نیکی کے کام جانتے ہو؟ کیا خلافت اور اس کی ذمہ داریاں دینی کام میں ہیں یا نہیں؟ جہاد، تبلیغ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت وحفاظت دینی کام ہیں یا نہیں؟ یتیم بچے کی تربیت، کفالت اور اس کے مال کی خبرگیری کرنا اور اسکو دودھ پلانا نیکی کا کام ہے یا نہیں؟ قضاء یعنی شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا شرعی حدود اور تعزیرات کو نافذ کرنا، ملک کا دفاع کرنا، کسی مسلمان پر پہرہ دینا دینی کام ہیں یا نہیں؟ زکوۃ وصول کرنا، نکاح کرنا اور امامت وخطابت دینی امور ہیں یا نہیں؟ تعلیم قرآن، تدریس دین نیکی کے کام ہیں یا نہیں؟ بہرحال وضاحت فرمائیں کہ آپ لوگ کن کاموں کو نیکی کے کام اور دینی امور سمجھتے ہیں اور کن کو نہیں اور پھر یہ وضاحت فرمائیں کہ کن نیکی کے کاموں کی اُجرت جائز ہے اور کن کی ناجائز ہے اور یہ بھی واضح کریں کہ کیا وجہ ہے کہ نیکی کے بعض کاموں پر تنخواہ جائز اور بعض پر ناجائز ہے آخر وجہ فرق کیا ہے؟ پھر وہ دلائل بھی پیش کریں جن سے ثابت ہو کہ فلاں فلاں دینی کاموں کی اجرت جائز ہے اور فلاں فلاں کی ناجائز ہے۔

ایک ضروری وضاحت:

کتاب وسنت کی روشنی میں علماء اسلام نے فرمایا کہ تنخواہ ان امور کی جائز

ہے جو فرض کفایہ ہیں جن کو بعض لوگ سرانجام دے دیں تو باقیوں کے سر گناہ نہ رہے مثلاً امامت، خطابت اور تعلیم قرآن وغیرہ اور یہ بھی تب ہے کہ بغیر تنخواہ واجرت کے اسکو قائم رکھنا مشکل ہو۔ امامت اور تعلیم وغیرہ ایسے فرض کفایہ ہیں کہ اس دور میں ان کو بغیر تنخواہ کے قائم رکھنا مشکل ہے لہذا ایک فرض کفایہ کو برقرار رکھنے کے لئے مجبوراً اور ضرورۃً تنخواہ دینا اور لینا جائز ہے البتہ خود نماز پڑھنا چونکہ فرض عین ہے لہذا اگر کوئی شخص تنخواہ کیلئے نماز پڑھے تو یہ جائز نہ ہوگا کیونکہ خود نماز پڑھنا تو فرض عین ہے اور نماز پڑھانا چونکہ فرض کفایہ ہے، لہذا اس کی تنخواہ بوقت ضرورت جائز ہے۔

ایصال ثواب کے لئے قرآن خوانی پر اجرت نہیں:

جب یہ معلوم ہوگیا کہ ضرورت کے تحت فرض کفایہ کو قائم رکھنے کے لئے اجرت وتنخواہ جائز ہے تو یہ بات خود بخود واضح ہوگئی کہ ایصال ثواب کے لئے جو قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو اس کی اجرت ومعاوضہ جائز نہیں ہے کیونکہ ایصال ثواب کے لئے قرآن مجید پڑھنا فرض کفایہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک مستحب عمل ہے اور مستحب پر عمل کرنا اور اس کو قائم رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے لہذا عدم ضرورت کی وجہ سے اجرت لینا اور دینا جائز نہیں ہے کیونکہ فرض کفایہ اگر یکسر متروک ہوجائے تو گناہ ہے اور اگر مستحب متروک ہوجائے تو کوئی گناہ نہیں ہے لہذا فرض کفایہ میں ضرورت ہے اور مستحب میں نہیں ہے۔

نماز تراویح میں قرآن سننے اور سنانے کی اجرت جائز نہیں:

چونکہ نماز تراویح میں جو قرآن مجید پڑھا اور سنا جاتا ہے وہ بھی ایک مستحب عمل ہے اگرچہ نماز تراویح سنت موکدہ ہے لیکن نماز تراویح میں ختم قرآن ایک مستحب کام ہے لہذا اس میں بھی اجرت لینا اور دینا جائز نہیں ہے اگر فی سبیل اللہ سنانے والا

حافظ صاحب نہیں مل رہا ہے تو سورتوں کے ذریعہ نماز تراویح ادا کی جائے ایک مستحب عمل کو قائم رکھنے کے لئے تنخواہ اور اجرت جائز نہیں ہے۔

آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلف صالحین کی راہ صراط مستقیم پر چل کر کتاب وسنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر استقامت نصیب فرمائے اور ہر قسم کی بے دینی، بے راہ روی، الحاد وزندقہ، ہوئی پرستی، فرقہ سازی اور گمراہی سے محفوظ فرمائے۔ آمین یَارَبَّ الْعَالَمِیْنَ. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ بِنِعْمَتِهٖ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ.

اللھم صل علی سیدنا ومولانا محمد صلوۃ تنجینا بھا من الاھوال والآفات وتقضی لنا بھا جمیع الحاجات وتطھرنا بھا من جمیع السیئات وترفعنا بھا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بھا اقصی الغایات من جمیع الخیرات فی الحیوۃ وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر.

اللھم صل علی روح محمد فی الارواح وعلی جسد محمد فی الاجساد وعلی قبر محمد فی القبور بعدد من قعد وقام وبعدد من صل وصام. الی یوم الدین، وبعد یوم الدین. آمین.

کتبہ: ابو احمد نور محمد قادری تونسوی خادم جامعہ عثمانیہ ترنڈہ محمد پناہ، تحصیل لیاقت پور۔ ۳؍ رمضان المبارک ۱۴۲۵ھ بروز سوموار بوقت تین بجکر پچاس منٹ، بمقام جامعہ عثمانیہ۔ ترنڈہ محمد پناہ۔ بمطابق ۱۸؍ اکتوبر ۲۰۰۴ء

مولانا نوراللہ رشیدی صاحب

مدیر مدرسہ عقیدۃ الاسلام کراچی

ردِ مماتیت اور عثمانیت پر علماء اہل السنت والجماعت دیوبند کی بعض تصانیف

﴿۱﴾ آبِ حیات	(حضرت علامہ مولانا محمد قاسم نانوتویؒ)
﴿۲﴾ قبر کی زندگی	(مولانا نور محمد تونسوی صاحب)
﴿۳﴾ ایک سو چار سوالات	// // //
﴿۴﴾ منکرین حیات قبر کی خوفناک چالیں	// // //
﴿۵﴾ اسلام کے نام پر ہوئی پرستی	// // //
﴿۶﴾ تسکین الصدور	(امام اہل سنت مولانا محمد سرفراز خان صفدر صاحب)
﴿۷﴾ سماع الموتی	// // //
﴿۸﴾ المسلک المنصور	// // //
﴿۹﴾ الشہاب المبین	// // //
﴿۱۰﴾ مقام حیات	(حضرت علامہ خالد محمود پی ایچ ڈی)
﴿۱۱﴾ حیات الانبیاء	(حضرت مولانا مفتی عبدالشکور ترمذیؒ)
﴿۱۲﴾ ھدایۃ الحیران فی تفسیر جواہر القرآن	// // //
﴿۱۳﴾ ادراک الفضیلۃ فی الدعاء بالوسیلۃ	// // //
﴿۱۴﴾ القول الجلی فی حیات النبیؐ	(پیر طریقت مولانا عبداللہ بہلویؒ)
﴿۱۵﴾ رحمت کائنات	(حضرت مولانا قاضی زاہد الحسینیؒ)
﴿۱۶﴾ تسکین الاتقیاء فی حیات الانبیاء	(پروفیسر محمد مکی صاحب)
﴿۱۷﴾ توضیح البیان فی رد اقامۃ البرہان	(مفتی عبدالقدوس ترمذی صاحب)
﴿۱۸﴾ دعوت الانصاف فی حیات جامع الاوصاف	(مولانا عبدالعزیز شجاع آبادیؒ)
﴿۱۹﴾ حیات پاک	(حافظ نذیر احمد نقشبندی صاحب)

﴿۲۰﴾ عقیدۃ المحدثین علی حیوۃ النبیین علیہم السلام	(مولانا سید مبرک شاہ صاحب)
﴿۲۱﴾ سیف اویسیہ بر عقائد نامرضیہ	(مولانا اللہ یار خانؒ)
﴿۲۲﴾ حیات الانبیاء علیہم السلام	// // //
﴿۲۳﴾ حیات برزخیہ سماع موتی	// // //
﴿۲۴﴾ حیات النبیؐ اور علماء دیوبند	(مفتی احمد سعید سرگودھویؒ)
﴿۲۵﴾ مذاہب اربعہ اور مسئلہ حیات النبیؐ	// // //
﴿۲۶﴾ حضرت اکابر علماء دیوبند کا مسلک اور مسئلہ وسیلہ اور استشفاع کی تحقیق	(مولانا حافظ ریاض احمد اشرفی)
﴿۲۷﴾ جواہر الفتاوی جلد چہارم بحث حیات النبیؐ ص ۱ تا ۳۵	(حضرت مولانا مفتی عبدالسلام سابق رئیس دارالافتاء جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی)
﴿۲۸﴾ آوازِ حق	(حضرت مولانا محمد اسماعیل محمدی صاحب)
﴿۲۹﴾ الشعلۃ السماویہ علی فتنۃ المسعودیۃ (پشتو زبان میں	(مولانا عطاء الرحمن)
﴿۳۰﴾ علماء دیوبند کا عقیدہ حیات النبیؐ اور عطاء اللہ بندیالوی صاحب	(حضرت مولانا عبدالحق خان بشیر نقشبندی صاحب)
﴿۳۱﴾ قہر حق بر صاحب ندائے حق	(علامہ مولانا حافظ حبیب اللہ ڈیروی صاحب)
﴿۳۲﴾ ضرب المہند	(علامہ حبیب اللہ ڈیروی صاحب)
﴿۳۳﴾ حیات الاموات	(مولانا سید نور الحسن شاہ بخاریؒ)
﴿۳۴﴾ مسئلہ حیاۃ النبیؐ علماء دیوبند اور مولانا عنایت اللہ شاہ بخاری	(مولانا نواز بلوچ صاحب)
﴿۳۵﴾ خطبات صفدر دوم مناظرہ حیاۃ النبیؐ	(مناظر الاسلام مولانا محمد امین اوکاڑویؒ)
﴿۳۶﴾ مقالات سیرت	(حضرت مولانا مفتی جمیل احمد تھانویؒ)
﴿۳۷﴾ روح کی آڑ میں مسلمہ حقائق کا انکار	(مولانا نوراللہ رشیدی صاحب)
﴿۳۸﴾ ذریت عثمانیت سے سوالات	// // //
﴿۳۹﴾ تسکین الاذکیاء	(مولانا محمود عالم صفدر)
﴿۴۰﴾ عقیدۃ حیات الانبیاء اور قائدین امت	(مولانا محمد معاویہ)

ملنے کے پتے:

کراچی:

اسلامی کتب خانہ بنوری ٹاؤن

مظہری کتب خانہ گلشن اقبال

الفاروق کتب خانہ شاہ فیصل کالونی

مدرسہ عقیدۃ السلام سہراب گوتھ

پنجاب:

جامعہ عثمانیہ ترنڈہ محمد پناہ رحیم یار خان

مرکز اہلسنت والجماعت سرگودھا۔

پشاور:

کتب خانہ دیوبند قصہ خوانی

کتب خانہ سید احمد شہیدؒ اکوڑہ خٹک

حیدر آباد:

جامعہ مسجد خضرا

ملتان:

مکتب مجدیہ

اسلام آباد:

مکتب فدیدیہ

کوئٹہ:

کتب خانہ حقانیہ

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ
سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ؕ
بَلْ اَحْيَآءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ
(سورة بقرہ آیت ۱۵۰)

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ
الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي
الْاٰخِرَةِ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ

وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ (سورة ابراهیم آیت ۲۷)

اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا
وَّعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ
اَدْخِلُوْا اٰلَ فِرْعَوْنَ
اَشَدَّ الْعَذَابِ
(سورة المومن آیت ۴۶)